

روزانہ درس قرآن پاک



تفسیر

سُورَةُ الْاِنْعَامِ
(مکملہ)

جلد ۷

اِفَادَات

حضرت مولانا صوفی عبدالکرمید سواتی دام مجید



خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ

طبع باراں

(جملہ حقوق بحق انجمن محفوظ ہیں)

نام کتاب معالم العرفان فی دروس القرآن (سورۃ الانعام مکمل) جلد ۷
افادات حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب الحاج لعل دین۔ ایم اے (علوم اسلامیہ) شمالا مارٹاؤن لاہور
تعداد طباعت پانچ سو (۵۰۰)
سرورق سید الخطاطین حضرت شاہ نفیس الحسینی مدظلہ
کتابت محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ
قیمت ۱۶۵/- ایک سو پینسٹھ روپے
تاریخ گیارہواں ایڈیشن نومبر ۲۰۰۷ء، بمطابق شوال ۱۴۲۸ھ

ملنے کے پتے

- (۱) مکتبہ دروس القرآن، محلہ فاروق گنج گوجرانوالہ (۵) کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار اولپنڈی
- (۲) مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور
- (۳) مکتبہ قاسمیہ، الفضل مارکیٹ لاہور
- (۴) مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- (۵) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۶) کتب خانہ مجیدیہ، بیرون بوہڑ گیٹ ملتان
- (۷) مکتبہ حلیمیہ نزد جامعہ بنوریہ سائٹ نمبر ۶ کراچی
- (۸) اسلامیہ کتب خانہ اڈاگامی، ایبٹ آباد
- (۹) مکتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوٹہ
- (۱۰) مکتبہ العلم ۱۸ اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن، سورۃ الانعام (مکمل) جلد ۷

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	آیات و ترجمہ	۲۳	درس اول آیت ۱
۲۲	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۲۴	طاقتور قوموں کی ہلاکت	"	نام اور کوائف
"	لفظ قرن کے مختلف معانی	۲۴	ملت خنیفہ کی تکمیل
۲۵	قدیم تہذیبوں کے آثار	۲۶	صحابی ملتوں سے خطاب
۲۷	لکھی لکھائی کتاب کی فرمائش	۲۷	آئندہ سورتوں کا تجزیہ
"	نزول فرشتہ کی فرمائش	۲۸	نشانات معرفت الہی
۵۰	رسولوں کے ساتھ کھٹا	۲۹	اندھیرا اور اجالا
۵۱	مقامات عبرت	۳۲	درس موسم ۲ آیت ۲ تا ۵
۵۲	درس چہارم ۴ آیت ۱۲ تا ۱۸	"	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	۳۳	شُرک کی تردید
۵۲	ربط آیات	۳۴	تخلیق انسانی
۵۲	توحید باری تعالیٰ	۳۵	حقیر مٹی اعلیٰ مقام
۵۵	معاد کا اقرار و انکار	۳۷	مدت مقررہ
۵۶	ساکن اور متحرک اشیاء	۳۸	ارض و سما و کما موجود
۵۷	شُرک کی تردید	۳۹	انسانی عناصر
۵۸	اولین اطاعت گزار	"	نشانات قدرت
۵۹	مشکل کش صرف اللہ ہے	۴۱	تکذیب حق
۶۰	وسیلے کا تصور	۴۲	درس موسم ۳ آیت ۶ تا ۱۱

۸۴	آیات و ترجمہ	۶۲	ایصالِ ثواب
۸۵	رابط آیات	۶۳	درس پنجم ۵ آیت ۱۹ تا ۲۱
"	مضامین قرآن	"	آیات و ترجمہ
۸۶	جزائے عمل	۶۴	گوامی بحق رسالت
"	دُنیا میں واپسی کی تمنا	"	انذار و تبشیر
۸۷	تمام راز کھل جائیں گے	۶۶	فریضہ تبلیغ
۸۸	کفر و شرک پر اصرار	۶۸	تین اہم نصاب
۹۰	اللہ کے حضور پیشی	"	دو اہم اصلاحات
۹۱	درس ہشتم ۸ آیت ۳۱ تا ۳۳	۶۹	تبلیغ دین میں مشکلات
"	آیات و ترجمہ	۷۰	مشن سے وابستگی
۹۲	رابط آیات	۷۱	درس توحید
"	معاد کا انکار	"	پیغمبر اور قرآن کی تصدیق
۹۳	انفرادی اور مجموعی موت	۷۲	سب سے بڑا ظالم
۹۵	اپنے کیے پر افسوس	۷۴	درس ششم ۶ آیت ۲۲ تا ۲۶
"	اعمال کا بوجھ	"	آیات و ترجمہ
۹۶	دنیاوی زندگی کی حقیقت	۷۵	رابط آیات
۹۷	سرمایہ زندگی	"	مشرکین کو ڈانٹ
۹۹	حضور علیہ السلام کو تسلی	۷۷	شرک سے انکار
۱۰۱	حُبِّ مال اور حُبِّ جاہ	۷۸	کان، آنکھ اور دل
۱۰۲	درس نہم ۹ آیت ۳۳ تا ۳۶	۸۰	سبق آموز اور عبرتناک واقعات
"	آیات و ترجمہ	۸۱	اسلام دشمنی
۱۰۳	رابط آیات	۸۲	اپنے ہاتھوں تباہی
"	صبر و برداشت	۸۴	درس ہفتم ۷ آیت ۲۷ تا ۳۰

۱۲۸	ظلم کا بدلہ	۱۰۵	نصرت الہی
۱۳۰	درس دوازدهم ۱۲ آیت ۴۶ تا ۴۹	۱۰۶	قبولِ حق کیلئے شدید خواہش
"	آیات و ترجمہ	۱۰۸	معجزات کی فرمائش
۱۳۱	رابط آيات	۱۰۹	محبتِ امیر و عطا و عتاب
"	کان، آنکھ اور دل	۱۱۰	اہل فکر و نظر
۱۳۳	آنکھ کی پیچیدہ ساخت	۱۱۲	درس دهم ۱۰ آیت ۳۷ تا ۴۱
۱۳۴	کان کی عجیب ساخت	"	آیات و ترجمہ
"	جائز استفادہ	"	نشانی کا مطالبہ
۱۳۵	تعلیم کے طریقے	۱۱۳	جانوروں کی نشانیاں
۱۳۵	ظالموں کی ہلاکت	۱۱۴	معرفت الہی
۱۳۶	مقصد رسالت	۱۱۵	چیونٹیوں کا عالم
۱۳۷	ایمان اور اصلاحِ نفس	۱۱۶	شد کی مکھیاں
"	مکذبین کے لیے سزا	۱۱۷	پرندوں کی جبلت
۱۳۹	درس سیزدهم ۱۳ آیت ۵۰ تا ۵۱	۱۱۸	مکذبین کی حالت
"	آیات و ترجمہ	۱۱۹	موجود اور مشرک
"	رابط آيات	۱۲۰	درس یازدهم ۱۱ آیت ۴۲ تا ۴۵
۱۴۱	خزائنوں کا مالک اللہ ہے	۱۲۲	آیت و ترجمہ
"	غیب دان صرف اللہ ہے	"	رابط آيات
۱۴۲	انبیاء علیہم السلام کے ذرائع علم	۱۲۳	بعثت رسول
۱۴۲	اتباعِ وحی	۱۲۳	تنجی حالات
۱۴۵	اندھا اور بینا	۱۲۴	اچانک گرفت
۱۴۶	مشکہ سفارش	۱۲۵	میانہ روی اور پاکدامنی
۱۴۸	درس چہاردهم ۱۴ آیت ۵۲ تا ۵۵	۱۲۷	خیانت کی لعنت
"	آیات و ترجمہ	"	

۱۴۳	علمِ غیب	۱۴۹	ربط آیات
۱۴۴	غیب کی چابیاں یا خزانے	۱۵۰	امیر و غریب کا فرق
۱۴۵	غیوبِ خمسہ	۱۵۱	اہل اللہ کی قدر و اتی
۱۴۶	انبائے غیب	۱۵۳	مال و منصب سے محبت
۱۴۸	خشکی اور تری کے غیوب	"	مساکین سے محبت
۱۴۹	مخلوق کا علم	۱۵۴	غریت و امارت ذریعہ آزمائش ہے
۱۸۰	بیند اور موت	۱۵۶	اسلامی نظامِ معیشت
"	اللہ کے حضور پیشی	۱۵۷	غریبوں پر طعن
۱۸۲	درس ہفتم ۱۷ آیت ۶۱ تا ۶۴	۱۵۸	غریب کیلئے رحمت کی دعا
"	آیات و ترجمہ	۱۶۰	درس پانزدہم ۱۵ آیت ۵۶ تا ۵۸
۱۸۳	ربط آیات	"	آیات و ترجمہ
۱۸۴	اللہ بندوں پر غالب ہے	۱۶۱	ربط آیات
"	کراما کا تبیین فرشتے	"	غیر اللہ کی پرستش کی ممانعت
۱۸۵	اعمال پیش کنندہ فرشتے	۱۶۲	خواہشات نفسانیہ سے اجتناب
۱۸۶	مخافظ فرشتے	۱۶۵	قرآن کریم کے ساتھ وابستگی
"	ملک الموت اور معاونین	۱۶۶	فرمائش پوری کرنے سے معذوری
۱۸۸	اللہ کے حضور پیشی	۱۶۷	ایک اشکال اور اس کا جواب
۱۸۹	مصیبت کے وقت بچاؤ	۱۶۹	جزا، مطابق عمل
۱۹۰	آداب دعا	۱۷۰	درس شانزدہم ۱۶ آیت ۵۹ تا ۶۰
"	اللہ ہی بچانے والا ہے	"	آیات و ترجمہ
۱۹۱	اعادہ شرک	"	ربط آیات
۱۹۳	درس ہشودہم ۱۸ آیت ۶۵ تا ۶۷	۱۷۱	علم محیط
"	آیات و ترجمہ	۱۷۲	قدرتِ تامہ

۲۱۶	ہدایت کا راستہ	۱۹۳	رابط آیات
۲۱۷	ہدایت پر پہنچنے	۱۹۴	عذاب الہی کا انتظار
۲۱۸	خالق و مالک	۱۹۵	غالب اور مغلوب میں کش مکش
۲۱۹	قیامت کا نقشہ	۱۹۷ گھر کے چراغ سے
۲۲۰	خدا کے حکیم و خبیر	۱۹۸	فرقہ بندی کا عذاب
۲۲۱	درس نسبت و یک آیت ۷۴	۱۹۹	مقام غور و فکر
"	آیات و ترجمہ	۲۰۰	تکذیب اور سزا
"	رابط آیات	۲۰۱	درس نوزدہم ۱۹ آیت ۶۸ تا ۷۰
"	انبیاء کی مشترکہ دعوت توحید	"	آیات و ترجمہ
۲۲۲	عرب میں شرک کی ابتداء	۲۰۲	رابط آیات
۲۲۳	ستارہ پستی	"	آیات الہی سے تمسخر
۲۲۵	نظام شمسی	۲۰۴	اچھی مجالس کی تلاش
۲۲۶	ابراہیم علیہ السلام کا وطن مولود	۲۰۵	شیطان کا جلاوا
۲۲۷	ابراہیم علیہ السلام کے والد	۲۰۶	تبلیغ دین کا فریضہ
۲۲۸	ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش	۲۰۷	دین اور کھیل تماشا
۲۲۹	باپ کو دعوت توحید	۲۰۸	دھوکے کی زندگی
۲۳۰	پوری قوم کی گمراہی	۲۰۹	فدیہ کی عدم قبولیت
۲۳۱	تاریخ اور آذر	۲۱۰	مجرمین کے لیے عذاب
۲۳۳	درس نسبت دو ۲۲ آیت ۷۵ تا ۷۹	"	درس ستم ۲۰ آیت ۷۱ تا ۷۳
"	آیات و ترجمہ	۲۱۲	آیات و ترجمہ
۲۳۴	رابط آیات	"	رابط آیات
"	نام آذر کی تحقیق	۲۱۳	شرک کی دعوت
۲۳۵	خاندان ابراہیم علیہ السلام	"	شیطانی راستہ
۲۳۷	قیام حجت	۲۱۵	

۲۶۳	۲۲۷	رابط آیات	نشانات قدرت کا مشاہدہ
۲۶۴	۲۲۸	متعلقین انبیاء کا انتساب	سائے پر نگاہ
"	۲۲۹	صراطِ مستقیم کی طرف استغناء	چاند کا مشاہدہ
۲۶۵	۲۳۲	شرک سے اعمال کا ضیاع	آفتاب ماہتاب
۲۶۷	"	کتابِ احکم اور نبوت	رجوع الی اللہ
۲۶۸	۲۳۴	قیامِ دین کا خدائی انتظام	درس لسبت سورۃ آیت ۸۰ تا ۸۲
۲۷۰	"	اقتدار کی ہوس	آیات و ترجمہ
۲۷۱	۲۳۵	ہدایت یافتہ لوگ	رابط آیات
۲۷۲	"	بلا معاوضہ تبلیغ دین	معبودانِ باطلہ کے متعلق جھگڑا
۲۷۳	۲۳۶	درس لسبت و شرح آیت ۹۱ تا ۹۲	ابراہیم علیہ السلام کا جواب
"	۲۳۸	آیات و ترجمہ	امن کے حقدار
۲۷۴	۲۳۹	رابط آیات	مشابہ آیات کی تفسیر
۲۷۵	۲۵۰	شانِ نزول	موت بر ایمان
۲۷۷	۲۵۴	انکار وحی و رسالت	درس لسبت چہارم آیت ۸۲ تا ۸۶
۲۷۸	"	نزولِ تورات کی مثال	آیات و ترجمہ
۲۸۰	۲۵۵	ہدایت کی ضرورت	رابط آیات
۲۸۲	"	نزولِ قرآن کی دلیل	بلندی درجات
۲۸۳	۲۵۷	ام القریٰ کے لیے انذار	ابراہیم علیہما السلام پر احسانات
۲۸۴	۲۵۸	ایمان بالآخرت	اولادِ نوح و ابراہیم علیہما السلام
۲۸۵	۲۶۰	درس لسبت ہفت آیت ۹۳ تا ۹۴	انبیاء علیہم السلام کا گروپ
"	۲۶۱	آیات و ترجمہ	خطائے فضیلت
۲۸۶	۲۶۲	رابط آیات	درس لسبت پہنچ ۲۵ آیت ۸۷ تا ۹۰
۲۸۷	"	محبوبوں کے عیال اور نبوت	آیات و ترجمہ

۳۰۷	ہوا کی ضرورت	۲۸۸	نزولِ وحی کا دعویٰ
۳۰۸	اناج کی پیداوار	۲۸۹	قرآن کی نظیر لانے کا دعویٰ
"	کھجور کی پیداوار	۲۹۰	قرآنی قانون کا اجراء
۳۱۰	انگور غذائیت سے بھرپور	۲۹۲	سوت کی سختیاں
۳۱۱	زیتون کے فوائد	۲۹۳	خالی ہاتھ پیشی ہوگی
"	انار دلبہار	۲۹۴	سفارشی نظر نہیں آئیں گے
۳۱۲	غور و فکر	۲۹۵	درس لبت، وحشت آیت ۲۸ تا ۹۵
۳۱۳	شرک کی مختلف صورتیں	"	آیات و ترجمہ
۳۱۵	درس سی ۲۰ آیت ۱۰ تا ۱۰۳	۲۹۶	ربط آیات
"	آیات و ترجمہ	"	افضل حکمت
"	ربط آیات	۲۹۷	دازہ اور گھٹلی
۳۱۶	آسمان و زمین کا موجد	۲۹۸	جہڑ اور شاخ
"	صفت ابداع	"	مختلف مزاج
۳۱۷	صفت خلق	۲۹۹	زرد اور سرخ
۳۱۸	صفت تدبیر	۳۰۰	دن اور رات
"	صفت تدلی	۳۰۱	ستاروں کے فوائد
۳۱۹	الناس فی قلب	۳۰۲	نفس واحدہ سے پیدائش
۳۲۰	اولاد کی نفی	۳۰۳	عارضی اور مستقل قرار گاہ
۳۲۱	اللہ کی وحدانیت	۳۰۴	درس لبت نہ آیت ۹۹ تا ۱۰۰
۳۲۲	رؤیت الہی	"	آیات و ترجمہ
۳۲۳	درس سی و یکا آیت ۱۰۴ تا ۱۰۷	۳۰۵	ربط آیات
"	آیات و ترجمہ	"	بارش کی اہمیت
۳۲۵	ربط آیات	۳۰۶	پانی ملر زندگی

۳۵۰	مجمع شدہ باتیں	۳۲۵	بصیرت کی باتیں
۳۵۱	اسلامی قانون عدل	۳۲۶	دل کا اندھا
۳۵۲	محبوبے وعدے	۳۲۷	تفقہ فی الدین
۳۵۳	درس سہی چہار ۳۲ آیت ۱۱۴ تا ۱۱۷	۳۲۸	تمام حجت
"	آیات و ترجمہ	۳۳۰	اتباع وحی
۳۵۵	رابط آیات	"	انسان فعل میں مختار ہے
"	شان نزول	۳۳۱	نبی کی ذمہ داری
۳۵۶	غیر اللہ کی حکیمیت	۳۳۳	درس سہی دو ۳۲ آیت ۱۰۸ تا ۱۱۰
۳۵۷	کتاب الہی کی تصدیق	"	آیات و ترجمہ
۳۵۸	صدق اور عدل	۳۳۴	رابط آیات
"	ناقابل تحریف قرآن	۳۳۵	اخلاقی تعلیم
۳۵۹	انگریزی سازشیں	"	بڑا بھلا کہنے کی ممانعت
۳۶۰	پاکستان میں فتنہ پردازیاں	۳۳۶	ترک مباح کی اجازت
۳۶۲	قدرت و کثرت کا مسئلہ	۳۳۸	اپنے عمل کی پسندیدگی
۳۶۳	گمراہ اور ہدایت یافتہ	۳۴۰	معجزات کی فرمائش
۳۶۵	درس سہی پنج ۳۵ آیت ۱۱۸ تا ۱۲۱	۳۴۱	ایمان کی قبولیت
"	آیات و ترجمہ	۳۴۲	درس سہی سہ ۳۳ آیت ۱۱۱ تا ۱۱۳
۳۶۶	رابط آیات	"	آیات و ترجمہ
۳۶۷	اللہ کے نام پر فزیحہ	۳۴۵	رابط آیات
۳۶۸	اختیاری فزح کا طریقہ	"	نزول ملکہ کا مطالبہ
۳۶۹	اضطراری فزح	۳۴۶	مردوں سے ہمکلامی
"	فزح کی دو شرائط	۳۴۷	دشمنانِ انبیاء
۳۷۱	ظاہری اور باطنی گناہ	۳۴۸	انسان اور جن شیاطین

۲۹۵	ربط آیات	۳۷۲	ملکھی حرمت
"	جنوں اور انسانوں کا محاسبہ	۳۷۴ تا ۱۲۴	درس سی و شش ۳ آیت ۱۲۲
۲۹۶	ایک دوسرے سے استفادہ	"	آیات و ترجمہ
۳۹۷	انسانوں کا اعتراف حقیقت	۳۷۵	ربط آیات
۲۹۸	جہنم میں داخلہ	"	روحانی زندگی
۲۹۹	ایک دوسرے کی رفاقت	۳۷۶	مینارہ نور
۳۰۰	ایک دوسرے پر تسلط	۳۷۷	تاریخی اور روشنی
"	جیسی رعایا فیسے حاکم	۳۷۹	ایمان کی علامات
۳۰۲	درس سی و نہ ۳۹ آیت ۱۳۰ تا ۱۳۵	"	اکابر مجرمین
"	آیات و ترجمہ	۳۸۰	اقتصادی انقلاب
۳۰۳	ربط آیات	۳۸۲	رسالت کی خواہش
۳۰۴	جنوں و انس سے مکالمہ	"	مجرمین کے لیے سزا
۳۰۵	جنات کے رسول یا منذر	۳۸۴	درس سی و ہفت ۳۷ آیت ۱۲۵ تا ۱۲۷
۳۰۶	جنات کے صحیفے	"	آیات و ترجمہ
۳۰۷	دنوی زندگی کا دھوکا	۳۸۵	ربط آیات
"	عذاب سے پہلے تہذیب	"	شرح صدر النعم اللہی ہے
۳۰۹	محاسبہ لازمی ہے	۳۸۶	شرح صدر کی علامات
"	اچھا اور برا انجام	۳۸۷	معاش اور معاد
۳۱۱	درس چہل ۴۰ آیت ۱۳۶ تا ۱۳۷	۳۸۹	دل کی تنگی
"	آیات و ترجمہ	۳۹۱	صراط مستقیم
۳۱۲	ربط آیات	۳۹۲	در السلام
"	اللہ اور شرکاء کا حصہ	۳۹۴ تا ۱۲۸	درس سی و گھشت ۳۸ آیت ۱۲۸ تا ۱۲۹
۳۱۳	انسان کے خدام مویشی	"	آیت و ترجمہ

۲۲۳	شان نزول	۲۱۵	شرکاء کے حصے کی اہمیت
۲۲۴	حلت و حرمت کا اختیار	۲۱۷	پختہ کی قربانی
۲۲۵	حلت و حرمت کی دلیل	۲۱۹	رسوم باطلہ
۲۲۶	افتراء علی اللہ	۲۲۱	درس چہل و یک آیت ۱۳۸ تا ۱۴۰
۲۲۹	درس چہل و چہار ۲۲ آیت ۱۴۵	۲۲۱	آیات و ترجمہ
"	آیات و ترجمہ	"	ربط آیات
"	ربط آیات	۲۲۲	ممنوع مویشی اور کھیتی
۲۵۰	چار بنیادی حرام چیزیں	۲۲۳	سواری کی ممانعت
۲۵۱	اشکال حصر اور اس کا جواب	۲۲۴	اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام
۲۵۲	مردار	۲۲۵	کھانے میں مرد و زن کی تخصیص
۲۵۳	خون	۲۲۶	قتل اولاد کا نقصان
۲۵۴	مسئلہ انتقال خون	۲۲۷	برکتہ کتھول اور تقسیم رزق
"	لحم الخنزیر	۲۲۸	درس چہل و دو ۲۲ آیت ۱۴۱ تا ۱۴۲
۲۵۵	نذر غیر اللہ	۲۳۱	آیات و ترجمہ
۲۵۶	شیخ الہند مولانا محمود حسن	"	ربط آیات
۲۵۷	حالت اضطرار میں اباحت	۲۳۲	بانات کی پیداوار
۲۵۹	درس چہل و پنج ۲۵ آیت ۱۴۶ تا ۱۴۷	"	پیداوار کا حق
"	آیات و ترجمہ	۲۳۵	اسراف کی ممانعت
"	ربط آیات	۲۳۶	جانوروں کے قوائد
۲۶۰	یہودیوں کے لیے وقتی حرمت	۲۳۷	شیطان کے نقش قدم پر
۲۶۱	چربی کی ممانعت	۲۳۸	درس چہل و سو ۲۳ آیت ۱۴۳ تا ۱۴۴
۲۶۲	منا بوجہ بغاوت	۲۴۰	آیات و ترجمہ
۲۶۳	انفرادی غلطی مجموعی سزا	"	ربط آیات
۲۶۵	مجرمین کے لیے لازمی سزا	"	آٹھ حلال مویشی
۲۶۷	درس چہل و شش ۱۴۶ آیت ۱۴۸ تا ۱۵۰	۲۴۱	
"	آیات و ترجمہ	"	

۴۸۸	یتیم کا مال کھانا	۴۶۸	رابط آیات
۴۹۰	سین بلوغت	"	مشرکین کی بھڑائی کی دلیل
"	ماپ تول میں کمی	۴۶۹	مشیت اور رضا
۴۹۲	ادائیگی فرض میں کوتاہی	۴۷۱	علمی دلیل
۴۹۳	نا انصافی کی ممانعت	۴۷۲	کامل دلیل اللہ کی ہے
۴۹۴	عہد الہی کی خلاف ورزی	"	جبری ہدایت خلاف حکمت ہے
۴۹۵	بنیادی اور فروعی اختلاف	۴۷۳	تحریم کے لیے گواہی
۴۹۵	بنیادی اور فروعی اختلاف	۴۷۴	خواہشات کا اتباع
۴۹۷	درس چہل و ہفت آیت ۱۵۲ تا ۱۵۷	۴۷۵	آخرت کا انکار
"	آیات و ترجمہ	"	شرک سے بیزاری
۴۹۸	رابط آیات	۴۷۷	درس چہل و ہفت آیت ۱۵۱
۴۹۹	بیان میں تقدیم و تاخیر	"	آیات و ترجمہ
"	نبوت اور کتاب	"	رابط آیات
۵۰۱	تمام نعمت بذریعہ تورات	۴۷۸	حصنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ
۵۰۲	تورات سے منع ہدایت و رحمت	۴۷۹	دس حقیقی محرمات
۵۰۳	مبارک کتاب قرآن پاک	۴۸۰	اشراک باللہ
۵۰۴	اتباع قرآن	۴۸۱	والدین سے بدسلوکی
۵۰۴	نزول قرآن کی وجوہات	۴۸۲	والدین کے حقوق
۵۰۶	قرآن سے منع ہدایت	"	قتل اولاد
۵۰۸	درس پنجاہ ۱۵۰ آیت ۱۵۸	۴۸۳	بے حیائی کی باتیں
"	آیات و ترجمہ	۴۸۴	قتل ناحق
"	رابط آیات	۴۸۵	درس چہل و ہفت آیت ۱۵۲ تا ۱۵۳
۵۰۹	فرشتوں کا انتظار	۴۸۷	آیات و ترجمہ
۵۱۰	خدا تعالیٰ کا انتظار	"	رابط آیات
۵۱۱	نشانات قیامت کا انتظار	۴۸۸	ایمان قبول نہیں ہوگا
۵۱۳	ایمان قبول نہیں ہوگا		

۵۲۹	مستحکم دین	۵۱۴	نتیجہ کا انتظار
۵۳۰	دین حنیف	۵۱۶	درس پنجاہ و یک آیت ۱۵۹ تا ۱۶۰
"	نماز اور قربانی	"	آیات و ترجمہ
۵۳۱	قربانی کا وجوب	"	رابطہ آیات
۵۳۲	زندگی اور موت	۵۱۷	دین میں فرقہ بندی
۵۳۳	شرعی اور حکومتی امور	۵۱۸	اختلاف کی دو قسمیں
۵۳۴	انفرادی اور اجتماعی اصلاح	۵۲۰	اختلاف فرع کی مثال
۵۳۵	اولین اطاعت گزار	۵۲۱	مجتہد کے لیے اجر
۵۳۶	درس پنجاہ و ۵۳ آیت ۱۶۴ تا ۱۶۵	۵۲۲	اختلاف میں غلو
"	آیات و ترجمہ	"	فرقہ بندی سے بیزاری
۵۳۸	رابطہ آیات	۵۲۳	نیچی اور اس کا اجر
"	ربوبیت کا تصور	۵۲۵	برائی کی سزا
۵۳۹	بوجھ اپنا اپنا	۵۲۶	درس پنجاہ و دو ۵۲ آیت ۱۶۱ تا ۱۶۳
۵۴۰	کفار کا غلط عقیدہ	"	آیات و ترجمہ
۵۴۱	خلافت ارضی	"	رابطہ آیات
۵۴۳	فوقیت اور آزمائش	۵۲۷	دین اور شریعت
۵۴۵	مختلف سورتوں میں ربط	۵۲۸	ملت ابراہیمی

احکام حج مع زیارات مکہ المکرمہ و مدینۃ المنورۃ

تالیف: مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

قیمت
۲۰/-
روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ دوس القرآن فادق گنج، گوہر النوالہ

صفحات
۱۲۸

پیش لفظ

اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا

(۶ : ۱۳۶)

الحمد للہ مکمل سورۃ الانعام پر مشتمل دروس القرآن کی یہ ساتویں جلد
پیش خدمت ہے اس سورۃ کا نام سورۃ الانعام اس کے سولہویں اور سترہویں کوع
میں آمدہ لفظ انعام کی مناسبت سے ہے۔ اس لفظ کا اطلاق ان پالتو مویشیوں
پر ہوتا ہے جو عام طور پر انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ یہ آٹھ قسم کے جانور
ہیں جن کی حلت کا ذکر اس سورۃ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔

ترتیب تلاوت کے لحاظ سے قرآن پاک کی یہ چھٹی سورۃ مکی زندگی میں
سورۃ حجر کے بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الانعام سے پہلے پانچوں سورتیں مدنی ہیں اور
یہ سورۃ پہلی مکی سورۃ ہے۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ چند آیات کے
علاوہ باقی پوری سورۃ بیک وقت نازل ہوئی جسے جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں
کی معیت میں لے کر نازل ہوئے۔ سورۃ کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ مکی زندگی کے آخری حصہ میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ مبارکہ میں انعام یعنی مویشیوں کا ذکر دو وجوہ کی بنا پر ہوا ہے۔
پہلی وجہ تو بیان ہو چکی ہے کہ اس سورۃ میں آٹھ قسم کے مویشیوں کی حلت کا حکم
ہوا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب نے ان جانوروں کے ساتھ
بہت سی شرکیہ رسوم و البتہ کر رکھی تھیں انہوں نے از خود بعض جانوروں کو

بعض لوگوں کے لیے حلال اور بعض کے لیے حرام قرار دے رکھا تھا۔ بعض جانور مردوں کے لیے حلال تھے اور عورتوں کے لیے حرام تھے، بعض جانوروں کو سواری اور دوسری خدمات کے لیے حرام کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس خود ساختہ شریعت کی تردید فرمائی ہے اور ان جانوروں کو غیر مشروط طور پر سب کے لیے حلال قرار دیا ہے۔

حسب معمول اس سورۃ میں بھی توحید باری تعالیٰ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے اور اسے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر نماز، قربانی زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے توحید کو ایک نئے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ شرک کی تردید اس سورۃ کا طرہ امتیاز ہے شرک کی تمام اقسام منہی بر عقیدہ اور فعل کارہ کیا گیا ہے، خاص طور پر نذر غیر اللہ کا خوب تعاقب کیا گیا ہے۔ شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ستارے، چاند اور سورج کو بطور دلیل پیش کرنے کا واقعہ بھی اسی سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔

اہل کتاب کی طرف سے انکارِ نبوت کے جواب میں ایک ہی مقام پر اٹھارہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر کر کے سب کو اللہ کے برگزیدہ بندے اور ہدایت یافتہ فرمایا گیا ہے۔ اہل کتاب کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقتی طور پر پناہ خانے جانور اور گائے بھینٹر کی چربی حرام کر دی تھی، اس کا ذکر بھی آگیا ہے۔ کفار حضور علیہ السلام سے اپنی پسند کی نشانیاں بار بار طلب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو ساقیہ اہم کی طرح یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے بھی کہلوا دیا کہ اگر مجھے از خود نشانیاں پیش کرنے کا اختیار ہونا تو میں ایسا کرتا مگر پھر بھی ایمان نہ لانے کی پاداش میں اب تک تمہارا کام ہو چکا ہوتا۔

ملت ابراہیمی کے اصول اس سورۃ میں بھی بیان کیے ہیں۔ دینِ اسلام، دینِ حنیف اور ملتِ ابراہیمی کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔ متفرق مضامین

شرح صدر جیسے عظیم العام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اموال تمیمی کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرقہ بندی کی کمانوت کی گئی ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے اور پھر آخرت میں نیچی اور بدی کی جہنم اور سزا کا کلیہ بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت کی یاد دہانی اس سورۃ میں بھی کھائی گئی ہے۔ کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار اسی عقیدہ پر ہے اس دنیا فانی کو ہی اول و آخر سمجھ لینے کے باطل نظریہ کی نفی کی گئی ہے منکرین کو ان کے اعمال پر وعید کے ساتھ ساتھ لطیف انداز میں تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھا گیا ہے۔ اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ وہ وقتی نامساعد حالات سے دل برداشتہ نہ ہوں آخری کامیابی انہی کی ہے۔

جس جوش و جذبہ اور لگن کے ساتھ سلسلہ دروس القرآن کی اشاعت پر کام جاری ہے یہ مالک الملک کی توفیق اور استعانت ہی کا مرہون منت ہے۔ اس سلسلہ کی تکمیل کے لیے قارئین سے خصوصی دعا کی درخواست ہے ہمیں امید ہے کہ ہر آد جلد کے لیے انتظار کی زیادہ زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی پروگرام کے مطابق اگلی جلد مکمل سورۃ الاعراف پیشکش ہوگی۔ انشاء اللہ۔

احقر العباد

(الحاج) لعل دین، ایم اے (علوم اسلامیہ)

خداداد سٹریٹ شالاماد ٹاؤن لاہور

۱۷ رمضان ۱۴۱۶ھ میں یہ تفسیر بینس جلدوں میں مکمل ہو گئی ہے۔

سخنہ گفتنی

انہ۔ محترم شرف فاضل پر نصر العلوم و وفاق المدارس العربیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ
خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ - اَمَّا بَعْدُ

سیاسی تقسیم کے اعتبار سے دنیا اس وقت عام طور پر دو حصوں میں منقسم ہے ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام حکومت ہے، جس میں ایک مخصوص طبقہ یعنی مالدار لوگوں کے مفادات کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اسی طبقہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کبھی جمہوریت کا سبز باغ دکھایا جاتا ہے اور کبھی امن عامہ کو آگ و خون کی بھٹیوں میں جھونک کر عوام الناس کے مفاد کو تباہ کنی کے ڈکٹیٹر شپ اور مارشل لا کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس نظام میں روٹی کھڑا، مکان سے لے کر اعلیٰ تعلیم، قانون، انصاف، جان، مال عزت کا تحفظ، عزت علاج اور ٹرانسپورٹ کی سہولت وغرضیکہ تمام ضروریات زندگی مالدار کے لیے وقف ہوتے ہیں تمام قدرتی پیداوار اور وسائل میں مزدور کا صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ اسے اپنی محنت و ذہانت سے سڑپہ دار کے استفادہ کے قابل بنائے، اس نظام کی تباہ کاریاں اس وقت سے اور بھی زیادہ بھیانک شکل اختیار کر گئی ہیں۔ جب سے مشینوں نے انسانوں کو بیکار کر دیا ہے کاشتکار جاگیردار اور مزدور صنعتکار کے ہاتھ اپنی زیادہ سے زیادہ محنت کم سے کم معاوضہ کے بدلہ فروخت کرنے پر مجبور ہے۔

اسی نظام کے خلاف کاشتکار اور مزدور کی نفرت، بغاوت اور انتقام نے یکمونیزم، یا سوشلزم کی شکل اختیار کی، اس میں سرمایہ دار کی جگہ پارٹی نے لی اور انسان کو خدا، رسول، مذہب، محنت، عزت اور وقار کے بدلے اگر زمان جویں میسر آ بھی گئی تو

کیا حاصل، عملی تجربہ نے دونوں نظاموں کے غلط اور انسانوں کے لیے مضر ہونے پر مہر
تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ان دونوں نظاموں کی ٹکڑے پوری دنیا کا امن و سکون مکمل طور
پر تباہ کر دیا ہے، بجز وہیں کوئی جگہ جائے امن نہیں۔ گلی محلے سے لے کر عالمی سطح تک
عقندہ گردی کا راج ہے ہر جگہ پر غنڈے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دندناتے پھرتے
ہیں۔ ہر ملک کے خوام بے چین سے بے چین تر، غیر یقینی صورت حال سے دوچار اور
ہر انسان کا دل اسجانے خوف سے ہر وقت دھڑکتا معلوم ہوتا ہے۔ بیروزگاری روز افزوں
ہے، مفکرین غور کرتے ہیں تو کوئی جہالت کو اس کا سبب قرار دیتا ہے اور کوئی
کثرت آبادی کو۔

زیر نظر جلد تفسیر سورۃ العام میں حضرت صوفی صاحب ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے اس بے پناہ پیچیدہ مسئلہ
کو نہایت عمدہ طریقہ پر آیات قرآنیہ سے استنباط کر کے عام فہم انداز میں سمجھایا ہے
وَحَسْبُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ بِرِجْزٍ كَثِيْرٍ كَرِهَتْ لِمَنْ رَزَقْتَهُ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ رَزَقْتَهُ
انتہائی نازک اور اہم مسئلہ کی الجھی ہوئی گتھیوں کو بڑے اچھے اور اچھوتے طریقہ سے
کھولا ہے کہ مسئلہ نہ کثرت آبادی کا ہے نہ کوئی اور بات ہے، دراصل حقوق معیشت
میں رواداری اور تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام ہی ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور اسلام
کافی نظام ہی اس کا بہترین حل ہے جس میں معیشت کی بجائے حقوق معیشت میں
مساوات ہے۔ حضرت مظلوم فرماتے ہیں۔

”ادھر ایک طرف تو برتھ کنٹرول کی ترغیب دی جاتی ہے اور دوسری طرف
دین میں چھ چھ مرتبہ جانوروں کی طرح بے تحاشا کھایا جاتا ہے۔ تم اللہ کی گدی پر بیٹھ کر
رزاقیت کے مالک بنتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ہماری جاری کردہ سیکھوں کے ذریعہ
رزق حاصل ہو گا یہ تو حماقت ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے منصفانہ طریقہ سے
سے تقسیم تو کرو اور پھر دیکھو کہ وسائل رزق کس طرح مہیا ہوتے ہیں، اچھی تعلیم اور اچھی
ملازمتیں بڑے لوگوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے
غریب طلباء کو محروم کر دیا جائے، باصلاحیت بچوں کے داخلے پر قدغن لگا دی جائے

تو روزگار کا بھاؤ نیچے کی طرف کیسے آسکتا ہے؟ یہ اس امتیازانہ سلوک کا نتیجہ ہے کہ امیروں کے بدکردار بچے ڈگریاں حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور غریب آدمی کو مزدوری تک نہیں ملتی یہ سب غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے۔“


علاوہ ازیں زیر نظر جلد میں کفر و شرک کی تمام اقسام کی انتہائی اچھے انداز میں تردید، رسوماتِ باطلہ کے مفاسد اور ان کا عمدہ طریقہ پر رد، توحید خداوندی اور امام الانبیاء صلی علیہم وسلم کی رسالت کے بیان کے ساتھ ساتھ تفسیری نکات، فقہی مسائل، جانوروں کی حالتِ وحشت اور ذبح کے متعلق کافی مسائل آگئے ہیں، رابطہ آیات تو ان دروس کا خاص امتیاز ہے ہی۔


عام انسانوں کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص سچی ہمدردی، مقاصد کی رفعت، فکرمندی بلندیوں، ماضی میں قوموں کے عروج و زوال اور عصر حاضر میں قوموں کو پیش آنے والے حوادث و مسائل پر حضرت کی عمیق نظر کے ساتھ فکرمندی اللہ کی گہری چھاپنے ان دروس کو وقت کے تقاضے کے عین مطابق بنا دیا ہے، انداز بیان کی سادگی نے ان کو اور بھی جلا بخش کر خطباء، طلباء علماء اور دیگر صاحب علم حضرات کے علاوہ عظیم الفرصت اور معمولی تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بھی گنج گرانمایہ بنا دیا ہے۔

آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دروس کو صاحب درس حضرت صفی عابدی رحمۃ اللہ علیہ انجمن مجالس اشاعت قرآن کے جملہ اراکین فاضل مرتب جناب حاجی لعل دین سرگرم ارکان بلال احمد ناگی، الحاج بابو غلام حید ہستری محترمیر، شیخ محمد یعقوب، غنٹی شائق احمد اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام حضرات کی فوز و فلاح کا ذریعہ بنائے اور ان کی سچی جمیل قبول فرمائے اور قیامت تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد

فقط و محاشرون فاضل مدرسہ نضیۃ العلوم، وفاق المدارس العربیہ





سُورَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ هِيَ مِائَتٌ وَخَمْسٌ وَسِتُّونَ آيَةً فِيهَا عِشْرُونَ رُكُوعًا

کھورۃ انعام مکی ہے اور یہ ایک سو پینسٹھ آیات اور اس میں بیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سید مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا

بِرَبِّہُمْ یَعْدِلُوْنَ ①

ترجمہ :- سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے

ہیں آسمان اور زمین اور جس نے بنائے ہیں اندھیرے اور اجالا،

پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اپنے رب کے ساتھ، دوسروں

کو برابر کہتے ہیں ①

نام اور کوائف

اس سورۃ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ انعام، نعم کی جمع ہے، اور اس کا جمع الجمع انعام ہے

آتا ہے۔ انعام کا اطلاق عام طور پر اونٹ پر کیا جاتا ہے اور گائے اور بھینٹ بکری پر کیا جاتا ہے

اور عام فہم میں اس کا معنی وہ مویشی ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر لوگ پالتے ہیں اور وہ انسان سے

مالوس ہوتے ہیں۔ سورۃ نحل میں موجود ہے "وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا

دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ" اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان

میں تمہارے لیے بہت سے فائدے رکھے ہیں اللہ نے انہیں تمہاری خدمت کے

لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور تمہارے تابع بھی کر دیا ہے، یہ بڑی عاجزی کے ساتھ تمہاری

خدمت انجام دیتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے موسم سرما میں گرمی کا سامان بھی پیدا کیا ہے

بہر حال اس سورۃ کا نام انعام اس لیے ہے کہ اس میں مویشیوں کا تذکرہ ہے اور ان کی حلت و

حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اس سورۃ میں اس شرک کی بھی تردید کی گئی ہے جو عرب لوگ مویشیوں کے ذریعے کرتے تھے۔

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی، اس کی ایک سو پینسٹھ آیتیں اور اور بیس رکوع ہیں۔ اس سورۃ میں کل ۳۰۵۰ کلمات اور ۱۲۴۲۲ حرف ہیں۔ سورۃ النعام سورۃ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ لمبی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ساری سورتیں مدنی ہیں۔ دراصل اس سورۃ میں توحید کے تمام دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور شرک کی جملہ اقسام کی تردید کی گئی ہے۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ پہلی مکی سورت ہے تاہم ترتیب نزول کے حساب سے اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ اس سورۃ کی فضیلت کے متعلق اہم رازی اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کر باقی ساری سورۃ بیک وقت نازل ہوئی۔ اس سورۃ کے ساتھ ستر ہزار فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہوئی جس سے پوری دلدی پڑ ہو گئی۔

قرآن پاک میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو رکھا گیا ہے۔ اس میں ملتِ ابراہیمیہ کے تمام اصولوں کا خلاصہ اور لب لباب دیدیا گیا ہے، اسی لیے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، چاروں آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور، اور قرآن پاک میں سورۃ فاتحہ جیسی کوئی دوسری سورۃ نہیں۔ تمام کتابوں میں سورۃ فاتحہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، یہ وہی سورۃ ہے جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ سورۃ الصلوٰۃ بھی کہلاتی ہے۔

سورۃ فاتحہ کے بعد دوسورتوں بقرہ اور آل عمران میں ملتِ ابراہیمیہ کی ظاہری تفصیل ہے۔ ان سورتوں میں ادنیٰ مسائل سے لے کر خلافتِ کبریٰ تک کے نظام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور

ملتِ ابراہیمیہ
کی تکمیل

انفرادی احکام سے لے کر اجتماعی احکام تک سب چیزیں آگئی ہیں اسی طرح عبادت کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تاہم اس ملت کی شکل و صورت کی تکمیل اُس وقت ہوتی ہے جب ان کے ساتھ سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کے مضامین کو بھی ملا لیا جائے چنانچہ ان چار سورتوں کو باہم ملانے سے ملتِ ابراہیمیہ کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں۔ سورۃ نساء (WOMEN) اور سورۃ مائدہ (TABLE OF FOOD) میں انسانی زندگی سے متعلق اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ عورت اور کھانے کا گہرا تعلق ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کا توازن موجود نہ ہو انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔

ایک لحاظ سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ملتِ ابراہیمیہ کو بگاڑ دیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے باطل عقائد کا ذکر ہے اور سورۃ آل عمران میں نصاریٰ کو موضوعِ سخن بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پیروکار ہونے کی دعوت دیا رہیں مگر ملتِ ابراہیمیہ کو بگاڑنے کی ذمہ داری بھی انہی پر آتی ہے۔ لہذا ان دو سورتوں میں ان دونوں گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے۔

ملتِ ابراہیمیہ میں بگاڑ پیدا کرنے والا تیسرا گروہ مشرکین عرب کا تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بیٹے خاندانوں پر مشتمل تھا۔ چنانچہ اگلی دو سورتوں نساء اور مائدہ میں رُوئے سخن مشرکین عرب کی طرف ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اُس نے یہ تعلیم دی کہ اگر یہ سب لوگ اپنے اپنے پیدائشی گروہ بگاڑ کر ترک کر دیں تو یہ لوگ بھی ملتِ ابراہیمیہ کا حصہ بن جائیں گے اور اسی راستے پر گامزن ہو جائیں گے جس راستے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ

کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام چلتے رہے یہ تمام انبیاء ملت ابراہیمیہ کے ہی امام تھے۔ غرضیکہ سورۃ مائدہ تک ملت ابراہیمیہ کو بگاڑنے والے تینوں فرقوں یہود، نصاریٰ اور مشرکین عرب کو خطاب ہو گیا ہے۔

سورۃ بقرہ میں "یٰٰدِیْنِیْ اِسْمٰی اٰیْلِیْ" سے شروع کر کے یہودیوں کی چالیس خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور ۸۳ آیتوں تک روئے سخن نصاریٰ کی طرف ہوتا ہے جن میں اُن کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان آیات میں عیسائیوں پر واضح کیا گیا ہے "مَا صَنَعَ اللّٰهُ اِلَّا اللّٰهُ" اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر تم مسیح علیہ السلام کی اہمیت کے قائل ہو چکے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ آپس میں فیصلہ کر لیں۔ بحث و تمحیص کے ذریعے معاملے کو صاف کر لیں یا پھر مباحثے کے ذریعے کذب و صداقت کی پہچان ہو جائے، مگر یہ لوگ آج تک اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں غرضیکہ ان چاروں عیالوں میں سورتوں میں ملت ابراہیمیہ کا ظاہر و باطن بیان کر دیا گیا ہے۔ اب تک قرآن حکیم کی پانچ سورتوں کا بیان ہو چکا ہے اس کے بعد چھٹی سورۃ النعام اور ساتویں سورۃ اعراف ہے یہ ساتوں سورتیں مل کر قرآن پاک کا ایک باب بنتا ہے۔ اس باب کا پہلا حصہ سورۃ مائدہ پر ختم ہوا جس کے ساتھ ہی ملت ابراہیمیہ کا بیان ختم ہوا ہے اور اب سورۃ النعام سے روئے سخن صابی ملت کی طرف ہوتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک صابی ملت کا دور تھا۔ بلکہ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی اسی دور میں شمار ہوتا ہے۔ ملت ابراہیمیہ کے ماننے والوں کی طرح ملت صابی کے پیروکاروں نے بھی اس کے اصول بگاڑ

صابی ملتوں
سے خطاب

نیے تھے۔ اصل دین کو کفر و شرک میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس ملت میں بھی توحید، طہارت، صلوٰۃ اور صوم کے چاروں اصول موجود تھے، جیسا کہ اہم جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب "حسن المحاضرة في احوال المصريين والقاهرة" میں لکھا ہے، اس ملت کے پیروکاروں نے خود ان اصولوں کو بگاڑ دیا۔ اور دین میں خرابیاں پیدا کر دیں قرآن پاک کا فرمان ہے کہ اگر تم ان خرابیوں کو چھوڑ دو تو تمہاری ملت بھی ٹھیک ہے قرآن پاک آج بھی دعوت دے رہا ہے کہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راست پر آ جاؤ تو تم آج بھی نجات پانے والے بن سکتے ہو۔

صابی ملتوں میں مشرق میں چینی قوم ہے۔ ہندوستان میں آریہ اور اس سے پہلے اور بعد والی قدیم قومیں ہیں۔ وسط ایران کے مجوسی اور مغرب میں رومی اور یونانی ہیں۔ یہ پانچوں قومیں صابی ملت کی پیروکار ہیں مگر یہ ملت کے اصل اصولوں کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہو گئے، جس طرح یہود و نصاریٰ اور بنی اسماعیل نے کفر و شرک کو اپنا کر انہی کو ملت ابراہیمی کا نام دے دیا، اسی طرح ان اقوام نے بھی باطل عقائد پر صابی ملت کا لیل چسپاں کر دیا صابی قوموں میں سے وسطی علاقوں کے مجوسی چونکہ ارض القرآن سے زیادہ قریب تھے لہذا سب سے پہلے روئے سخن ان کی طرف ہے اس کے بعد تمام صابی اقوام کا اختیار کردہ شرک کی جملہ اقسام کا رد کیا گیا ہے ملت ابراہیمی کے ماننے والوں سے خطاب کی ابتداء بھی الحمد للہ سے ہوتی تھی اور اب صابی ملت سے خطاب الحمد للہ سے ہی ہو رہا ہے۔

آئندہ سورتوں
کا شعبہ بنیہ

الغرض اس سورۃ میں صابی امتوں سے خطاب کر کے ان میں رنج و شرک کی تمام اقسام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا رد بھی کیا گیا ہے اس کے بعد سورۃ اعراف میں مجموعی طور پر تمام اقوام عالم سے خطاب ہو گا اور ان کے سامنے قرآن پاک کی دعوت پیش کی جائیگی **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ**

جَمِيعًا“ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور میری دعوت یہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ”يُحْيِي وَيُمِيتُ“ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب کوئی چیز عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت باطل پرست ہی کر سکتے ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ بات چیت، بحث مباحثہ ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دیکر بات کو سمجھا اور سمجھایا جاسکتا ہے۔ اور اگر انکار بلاوجہ اور بے دلیل ہو تو پھر ایسے مفرد غنصر کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا حکم بھی ہے۔ غرض! سورۃ اعراف کے بعد سورۃ انفال اور توبہ جہاد بالیمن والسنان کے متعلق ہیں۔ ان سورتوں میں جنگی احکام مذکور ہیں۔ سورۃ توبہ میں آتا ہے ”وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ ”وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ“ (انفال) اور جہاں تک ہو سکے طاقت سے اور گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ مستعد رہو۔ غرضیکہ جہاد کے تمام بنیادی اصول ان دو سورتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورتوں یونس اور ہود میں قرآن حکیم کی حقانیت اور تمام انبیاء کے دین کا بیان ہو گا پھر سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے مماثلت میں حضور علیہ السلام کی کامیابی کا تذکرہ ہو گا۔ پھر وحدتِ ملتِ انبیاء اور ملتِ ابراہیمی کا دوبارہ تذکرہ سورۃ ابراہیم میں ہو گا۔ گویا اس طریقے سے یہ سورتیں آپس میں مربوط ہیں۔

قرآن پاک کے باب اول کا یہ دوسرا حصہ صابئی اقوام کے خطاب سے شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی طرح سورۃ الانعام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ سَبْعَ عَشْرِينَ اِسْمًا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا

نشانات
معرفت الہی

کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں یعنی وہ ارض و سما کا خالق اور اندھیروں اور اجالے کا بنانے والا ہے۔ اہم شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی حکمت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان صفات کے ذریعے اس کی پہچان تک پہنچتا ہے۔ اُس نے اپنی صفت فطوریہ اور ابداع کے ذریعے اس جہاں کو پیدا کیا "فَاَطْرَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ" وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے "وَبَدَأَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" اور زمین کا موجد ہے جب انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ کہ واقعی وہی موجد، خالق اور مالک ہے، لہذا وہی معبودِ برحق ہے۔

جو اہر ان اشیاء کو کہتے ہیں جو مستقل وجود رکھتی ہیں اور ان کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ارض و سما اور اس میں موجود ہر چیز ہے یہ تمام چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ اور دوسری چیزیں اعراض ہیں جو دوسری چیزوں کے ذریعے قائم ہوتی ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے اندھیرا اور اجالا یا سیاہی اور سفیدی۔ ان چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور اسی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مستقل وجود رکھنے والے جو اہر ہوں یا دوسروں کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے اعراض ہوں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر اس کی صفت ربوبیت ہے کہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ عقل سلیم رکھنے والے شخص کے لیے یہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور بنائے ہیں اندھیرے

اور اجالا۔ یہاں پر اندھیرے کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے جب کہ روشنی کو مفرد کے ساتھ، کیونکہ روشنی سے مراد حق ہے اور وہ ایک ہی ہے جب کہ اندھیرے باطل پر محمول ہیں اور ان کی کئی شاخیں ہیں۔ ظلمات میں کفر، شرک، نفاق، بدعات اور ہر قسم کی معصیت شامل ہے، جب کہ توحید، ایمان، یقین اور نبوت سے انسان کو روشنی میسر آتی ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا، اس کا فہم درست ہوگا اور اس کو بصیرت حاصل ہوگی۔ غرضیکہ ایمان روشنی اور نور ہے جب کہ اس کے خلاف ہر چیز اندھیرا ہے، بل صابہ میں مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ نور و ظلمت کے خالق مختلف ہیں۔ ان کے نزدیک نور کو پیدا کرنے والا یزدان ہے جب کہ ظلمت کا خالق اہرمن ہے۔ اس طرح یہ لوگ ثنوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی باطل عقیدہ کی تردید فرمائی ہے کہ خالق دو نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی ہے جس نے ظلمت اور نور دونوں کو پیدا کیا۔ نور اور ظلمت سے خیر اور شر بھی مراد لیا جاتا ہے۔ بہر حال خیر و شر کے پیدا کرنے والے دو خدا ہوں یا نور و ظلمت کے دو خالق ہوں، یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔

مجوسیوں نے تو صرف دو خالقوں پر اکتفا کیا ہے ہندوؤں کے نزدیک بتیس کروڑ دیوتا ہیں، العیاذ باللہ۔ ہندوؤں میں آریہ سماج و سترقہ تو تین خداؤں پر آکر رک گئے۔ عیسائیوں کی طرح وہ تثلیث کے عقیدہ میں پھنس گئے۔ انہوں نے روح، مادہ اور الشوریوں کو قدیم مان لیا، حالانکہ قدیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی سب کچھ اس کی مخلوق ہے غرضیکہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھنے والے بھی مشرک ٹھہرے وہ بھی توحید کا مقام نہیں پاسکے۔

فرمایا کہ جب علویات سے لے کر سفلیات تک، عالم بالا سے

عالم زمیں تک، ارض و سما اور جواہر و اعراض کا پیدا کرنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے، تو پھر بڑے افسوس کا مقام ہے تَعْرِىَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعِدُّ لَعْنَهُمْ کہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں کوئی ماننے کو شریک مانتا ہے، کوئی نور اور ظلمت کو برابر ٹھہراتا ہے، کوئی شجر و حجر کو معبود مانتا ہے، کوئی قبر پر سجدہ ریزہ ہوتا ہے۔ کوئی زندہ کو پوج رہا ہے اور کوئی مردہ کی پرستش میں محو ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ بہر حال یہاں سے صابی اقوام کے باطل عقائد کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا
 وَأَجَلٌ مُّسَيَّبٌ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ②
 وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ
 سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③
 وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ
 إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ
 لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑤

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر مقررہ کی اُس نے ایک مدت - اور ایک مدت اور مقررہ ہے اس کے پاس، پھر تم شک کرتے ہو ② اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو اور ظاہر باتوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کہتے ہو ③ اور نہیں آتی اُن کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ اس سے اغراض کرنے والے ہوتے ہیں ④ پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو جب اُن کے پاس آیا پس عنقریب آجائے گی اُن کے پاس خبر (حقیقت) اُس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا

کرتے تھے ⑤

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی بعض صفات کا ذکر ہوا۔ شرک کی تردید عالم کبیر یعنی تمام کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور نورِ ظلمت کا خالق بھی وہی ہے، اس کے باوجود لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کے برابر تسلیم کر کے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجوسی فرقہ والے دو خداؤں کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک نیکی کا خدا نیروان ہے اور بدی کا اہرن ہے۔ یہ لوگ تنزیہ فرقہ والے کہلاتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم مشرک بتیس کروڑ دیوتاؤں کو مانتے تھے، ان میں آریہ سماج والوں نے تین خداؤں پر اکتفا کیا، وہ مادہ، روح اور خدا تعالیٰ تینوں کو قدیم مان کر مشرک کے مشرک ہی ہے یہ بھی عیسائیوں کے عقیدہ اقا نیم ثلاثہ میں شامل ہو گئے۔ پھر یودیوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ایسی لغو صفات منسوب کیں جو ایک عام انسان کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے مشرکین عرب نے بھی خدائی اختیارات مختلف ہستیوں میں تقسیم کر رکھے تھے۔ وہ پتھر کے خود ساختہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ جب انسان شرک کرنے پر آجائے تو پھر وہ مٹی اور خاک کو بھی اپنا معبود تسلیم کر لیتا ہے، سورج، چاند، سیاروں اور ستاروں کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان امشرف المخلوقات ہونیکے باوجود درختوں اور حیوانات تک کے سامنے جھک جاتا ہے۔ قدیم مصری لوگ بیہوں کی پرستش کرتے تھے کہیں اللہ کی عبادت میں عنیروں کو شریک کیا جاتا تھا۔ کہیں غیر اللہ سے مافوق الاسباب استعانت طلب کی جاتی تھی۔ یہ تمام قسم کے شرک پوری دنیا میں بالعموم اور سرزمین عرب میں بالخصوص پائے جاتے تھے، یونان اور روم کے مشرکین عقول عشرہ کے باطل عقیدہ میں مبتلا تھے۔ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک عقل کو بنایا پھر اس عقل نے ایک آسمان کو اور دوسری عقل کو بنایا تو اس نے

دوسری عقل اور دوسرا آسمان بنا ڈالا، علیٰ ہذا القیاس ان کے دس عقول بھی موجود
 کا درجے رکھتے تھے، انسانوں کی پرستش ہی کے ضمن میں قبروں اور درختوں
 کی پوجا ہوتی تھی، بغیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا۔ نہایت
 دکھ کی بات ہے اور بڑا افسوس ہے کہ ہر ذرے ذرے کا خالق تو اللہ تعالیٰ
 ہے مگر مشرکین دوسروں کو اس کے برابر لاکھڑاتے ہیں۔

گزشتہ درس میں یہ ذکر بھی آچکا ہے کہ ملتِ حنیفیہ کو بگاڑنے والے یہود
 نصاریٰ ہوں یا صابی ملتِ وائے چینی مشرک، قدیم ہندوستانی مشرک ہوں یا
 جدید آریہ سماجی، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ یہ کس قدر بد بخت
 لوگ ہیں۔ کوئی اللہ کے لیے اولاد تجویز کر رہا ہے، کوئی انسانوں میں خدائی
 اختیارات تسلیم کر رہا ہے۔ کوئی مسیح کو مختار مطلق اور شفیع مختار سمجھتا ہے۔
 کوئی خدا کی صفتِ خاصہ کو کسی انسان کی طرف منسوب کرتا ہے۔ کوئی مخلوق
 کی عبادت کرتا ہے، اس کے لیے نذر و نیاز مانتا ہے، رکوع و سجود کرتا
 ہے، یہ سب چیزیں مشرک کی مختلف قسمیں ہیں جن کے متعلق فرمایا **تَسْحَرُ**
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ هُمْ يَعْبُدُونَ یعنی کفر کرنے والے انہیں کو
 اس کے برابر لاکھڑا کرتے ہیں۔ بہر حال یہاں تک اللہ نے عالم کبیر یعنی
 کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ارض و سما اور پوری کائنات کا خالق اللہ
 تعالیٰ ہی ہے، وہ بدیع ہے یعنی ہر چیز اسی کی ایجاد کردہ ہے۔ اس نے
 کائنات کی ہر چیز کو بغیر نمونہ کے بنایا۔ لہذا وہی معبود بہ حق ہے۔ اُسکے
 علاوہ باقی سب کفر اور شرک ہے۔

کائنات کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد آج کے درس میں اللہ تعالیٰ
 نے انسان کی تخلیق یعنی عالمِ صغیر کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت
 کاملہ اور حکمتِ بالغہ کے ساتھ انسانی جسم میں بیرونی دنیا کے تمام خواص
 جمع فرما دیے ارشاد ہوتا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ**

تخلیق اللہی

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان اول کی تخلیق مٹی سے ہوئی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود پوری سطح ارض کی مٹی سے بنایا۔ تفسیر منظرہری والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حکیم ترمذی اور ابن عدی کے حوالے سے درجہ دوم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم جابہ کی مٹی سے بنایا اور اُسے جنت کے پانی سے گوندھا اور پھر اس سے آدم کا پتلا بنایا۔ جس طرح جولان کی پہاڑیاں شام کا حصہ ہیں مگر اب اسرائیل کے قبضہ میں ہیں۔ اسی طرح جابہ شام میں ایک مقام ہے۔ ویسے لغوی لحاظ سے جبا ایسی لپت جبکہ کو کہتے ہیں جہاں پانی اور مٹی مل کر کار بن جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام سطح ارضی کی بلند و لپت جگہوں سے مٹی حاصل کی گئی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح مختلف مقامات کی مٹی مختلف الانواع یعنی سفید، سیاہ، سُرخ، پیلی وغیرہ ہے کہیں کی مٹی چکنی ہے اور کہیں کی رتیلی، اسی طرح کے اثرات تمام نسل انسانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کوئی اچھے اخلاق کا آدمی ہے اور کوئی کھردرے اخلاق والا، کوئی خلیفہ ہے اور کوئی طیب کسی کا رنگ سفید ہے اور کسی کا سیاہ، اسی طرح کوئی سُرخ رنگ والا ہے اور کوئی پیلا، یہ سب مٹی کے ابتدائی اثرات ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بالکل ایک حقیر چیز بنایا ہے۔ ہر شخص اسے اپنے پاؤں تلے روندتا ہے اور جس طرح چاہے اس سے کام لیتا ہے باقی اشیاء کے مقابلے میں خاک کو کم ترین حیثیت دی جاتی ہے۔ جو چیز کسی کام کی نہ ہو اُسے خاک سے تشبیہ دی جاتی ہے مگر مٹی کے اسی عجز و انکار نے اس کے مقام کو بہت بلند کر دیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات مقرب فرشتوں جبرائیل اور میکائیل کو بھی حاصل نہیں بلکہ یہ اس انسان کے لیے مخصوص ہیں

حقیر مٹی
اعلیٰ مقام

جس کی تخلیق مٹی جیسی حقیر چیز سے ہوئی۔ میر تقی میر اردو کا سب سے بڑا شاعر ہے، جو ناخدا ٹٹے سخن مانا جاتا ہے۔ شاہ ولی اور شاہ عبدالعزیز کا ہم عصر ہے وہ اپنے دیوان میں کہتا ہے۔

میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا
خاکِ ناچیز تھا میرا، سو مجھے انسان کیا

یعنی میرے مالک کا مجھ پر کتنا احسان ہے کہ میں ایک حقیر اور ناچیز خاک تھا، اُس نے مجھے انسان بنا دیا، اسی لیے بزرگانِ دین فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق چونکہ مٹی جیسی حقیر چیز سے ہوئی ہے لہذا اُسے ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے کہ یہی اس کی بلندی و رفعت کی دلیل ہے۔ جو لوگ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے پاس بیٹھتے ہیں، مرشدانِ حق کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں، وہ ان سے عجز و انکاری کا درس لیتے ہیں تو ان میں توحید کا مقام روشن ہوتا ہے اور انہیں معرفت کا جلوہ نظر آتا ہے جس شخص میں تکبر و غرور جیسے بڑے اخلاق پائے جاہیں اُسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی لیے محاورے میں کہا جاتا ہے۔

”ساتی مجھے خاکِ بے جان کرے“

یعنی میرے اندر عجز و انکاری پیدا ہو کر بلند مقام حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

رسیدم بہ بل خان بہ عابدے
گفتم مرا بہ تربیت از جہل پاک کن
برو چوں خاک کجماں کئی فقیہہ
یا ہر چہ خواندنی ہمہ در زیر خاک کن

میں بل خان کی سر زمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میری تربیت کس کے مجھے جہالت سے پاک کر دیں تو اس بزرگ نے کہا اے عالم فقیہہ! جاؤ مٹی کی طرح تھل اور عاجزی اختیار کرو، ورنہ جو کچھ پڑھا ہے اُسے مٹی کے نیچے دفن کر دو کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔

غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے انسان کو بنایا جو ملائکہ پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔

مدت مقررہ

امام شاہ ولی اللہؒ اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ مقررین کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا، گویا انسان کی مصلحت ملائکہ اعلیٰ کی جماعت پر موقوف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خدا کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا پھر ایک مدت مقررہ کی یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ہر انسان کی عمر بھی مقرر فرمائی۔ چنانچہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں جب اس کے اندر عالم بالا کی روح پھونکی جاتی ہے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں۔ پروردگار! اس کی عمر کتنی ہے روزی کس قدر ہے۔ یہ نیک ہے یا بد بخت، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دیتا ہے جسے وہ اپنے رحمبندوں میں نوٹ کر لیتے ہیں مقصد یہ کہ ہر انسان کی عمر اور اُسکی موت کے وقت کو کارکنانِ قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ اُس کی ایک مدت مقرر کر دی ہے۔

آگے فرمایا وَ أَحْبَلُ مَسْمًى عِندَهُ یعنی ایک مدت مقررہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے جس کا علم اُس نے نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ کسی نبی مرسل کو اور وہ ہے مجموعہ عالم کی موت یعنی قیامت کا وقوع۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب واقع ہوگی۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لَا يُجَلِّئُهَا لَوْقَتِهَا إِلَّا هُوَ اُس کے واقع ہونے کا علم اسی کے پاس ہے ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَشِيرًا (اعراف) یہ زمین و آسمان میں ایک

بڑی بوجھل چیز ہوگی اور اچانک آجائگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات تو انبیاء کو بتائی ہیں مگر اس کے آنے کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ غرض اس آجَلٌ مُّسَمَّیٌّ سے قیامت کی مدت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت صغریٰ یعنی ہر انسان کی موت کا وقت تو فرشتوں کو بتا دیا ہے مگر قیامت کبریٰ کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے جسے کسی پر ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے قیامت صغریٰ کو قیامت کبریٰ کے لیے دلیل بنایا ہے جس طرح ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح مجموعہ عالم کی فنا کے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے۔ ثُمَّ آتَسُوهُمُ لَحْمٌ مَّرْوَنٌ مگر افسوس کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے متعلق تمہیں شک ہے؟ یا اس کی وحدانیت کے متعلق تم متردد ہو؟

فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ وہی خدا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یہ ارض و سما اسی کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی کو ان میں تصرف حاصل ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت ہوتی ہے اور زمین پر بھی حدیث شریف میں آتا ہے، آسمانوں میں ایک بالشت بھر بھی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت یعنی رکوع و سجود میں مشغول نہ ہو۔ البتہ زمین پر ایک گمراہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور ناہنجار ہے وگرنہ روئے زمین کے تمام جانور، شجر و حجر سب خدا کی عبادت بجالاتے ہیں سورۃ نحل میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کی عبادت کرنے کی بجائے شیطان کا اتباع کرتے ہیں، تو حید کی بجائے شرک میں مبتلا ہیں اور ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ معبود اور متصرف ہے۔

ارض و سما
کا معبود

يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ تَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَهُوَ تَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ
 باتوں کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور وہ تمہاری کمائی کو بھی
 جانتا ہے جو نیکی یا بدی کرتے ہو، جس اخلاق یا نفاق میں مبتلا ہو، جو حلال یا
 حرام کھاتے ہو، جس شکر گزار یا ناشکری کے مرتکب ہوتے ہو، وہ سب
 کچھ جانتا ہے، اُس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ لہذا ایک دین آنے والا ہے
 جب وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب طلب کرے گا۔ اپنے کلی
 علم کی صراحت میں اللہ نے سورۃ ملک میں فرمایا اَلَا يَعْلَمُ مَنْ
 خَلَقَ كَيْفَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَمُرُّ بِالرِّيحِ فَيَوقِفُهَا فَهِيَ تَأْتِي السَّمَاءَ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ
 تمہارا جوڑ جوڑ پیدا کیا، جس نے لطیف ترین طاقتیں پھیلائی ہیں، کیا وہ
 تمہاری حرکات سے واقف نہیں؟ کیوں نہیں، وہی لطیف بھی ہے اور

خیر بھی ہے وہ ہر چیز کا حساب لے لے گا۔

انسانی عناصر

انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ذکر کیا کہ انسان کا بنیادی ڈھانچہ
 اسی سے تیار کیا گیا۔ پھر مٹی کے گوندھنے کے ضمن میں پانی کا ذکر بھی آ گیا
 تاہم یہ بات مشہور ہے کہ انسان اربعہ عناصر یعنی مٹی، پانی، آگ اور ہوا کا مجموعہ
 ہے۔ ہندوؤں کے فلسفے میں پانچ انسانی عناصر ہیں اور وہ پانچوں عناصر
 آکاش کو مانتے ہیں۔ قدیم یونان میں چھ اور سات عناصر ماننے والے لوگ
 بھی موجود تھے، تاہم سائنس کی جدید تحقیق کے مطابق انسانی عناصر ایک سو ہیں
 ایک دریافت ہو چکے ہیں اور یہ بات مسلم ہے کہ خارجی دنیا کے تمام
 عناصر انسانی وجود کا حصہ ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی موت
 یعنی قیامت صغریٰ اور مجموعہ عالم کی موت یعنی قیامت کبریٰ کے متعلق
 اشارت کر دی ہے جو صاحب عقل سلیم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک
 رہنمائی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اپنی قدرت کاملہ اور کلی علم کا تذکرہ کرنے کے لئے نشانات قدرت

کے بعد انسان کی ناشکر گزارمی کا تذکرہ إِنَّ الْفَاظِ فِيهِ فَرَمَا يَسْ وَمَا تَابَهُ
مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ان کے پاس اپنے رب
کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
مگر یہ کہ اُس سے اعراض کہہ جاتے ہیں۔ ان نشانیوں میں تشریحی نشانیاں
بھی ہو سکتی ہیں اور تکوینی بھی۔ تشریحی آیات کے طور پر اللہ نے اپنے نبی
بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں اور معجزات کا اظہار فرمایا، مگر ان لوگوں نے
اعراض ہی کیا۔ پھر تکوینی یا تخلیقی طور پر انسان کے ارد گرد اس قدر نشانیاں
پھیلا دیں اور خود وجودِ انسانی میں ایسے ایسے نشانات موجود ہیں کہ اگر انسان
مختصر سا غور بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کی صفات کو
پہچان سکتا ہے۔ اور اگر یہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہ دے بلکہ غفلت
میں ڈوبا رہے تو پھر اُس پر معرفتِ الہی کے دوزخے کیسے کھل سکتے ہیں؟ پھر
تو وہ اعراض ہی کہہ لگا جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں افسوس کے ساتھ
بیان فرمایا ہے وَكَايِنُ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ لَیْمُنُونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
(سورۃ یوسف) لوگوں کے پاس زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں جن کے پاس
سے گزر جاتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اللہ نے یہ بھی فرمایا
فِی الْقُرْءٰنِ کَمٌ مِّنْ خُرُوجِ جَانُوں میں بے شمار
نشانیاں موجود ہیں مگر تم انہیں دیکھتے ہی نہیں اور ان میں غور ہی نہیں کرتے،
بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی معرفت کی بہت سی نشانیاں —

پھیلا دی ہیں مگر لوگ

ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے اس لیے انہیں اللہ کی پہچان بھی نصیب
نہیں ہوتی۔

تکذیب حق

فرمایا اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءُوا

۱۔ لَقَدْ طُجِبَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کی تکذیب ہی کی۔
 اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعہ اپنا آخری
 پروگرام پیش کر دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے اس پروگرام کو بھی حُجِبَ دیا
فَسَرَفَ كَاتِبِهِمْ اَنْبَدُوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
 پس عنقریب ان کے پاس وہ خبر یعنی حقیقت آجائے گی جس کے ساتھ
 یہ ٹھاکرتے تھے۔ اس چیز سے مراد قیامت، پل صراط، جزائے عمل، میراں
 عالم بدرخ اور عالم آخرت سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں ہیں جنکی کافر
 لوگ تکذیب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ استنزا کرتے ہیں۔ اللہ نے
 فرمایا ان اشیاء کی حقیقت عنقریب ان کے سامنے آجائگی۔ پھر اس وقت
 کہیں گے کہ افسوس! ہم اس حقیقت کو حُجِبَ تے ہیں، ہم اس سے
 ساتھ ٹھاکرتے ہیں۔ ہم نے جنت اور دوزخ کو برحق نہ جانا اور آج
 یہ ہمارے سامنے ہے۔ مگر اس وقت ان کا افسوس کرنا کچھ کام نہ آئے
 گا اور انہیں اپنے بُرے اعمال کا سزا چکنا ہوگا۔

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
 مَكَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا
 الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
 وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ⑥ وَلَوْ
 نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
 لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑦
 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ
 لَقُضِيَ الْأَمْرُ لَهُمْ لَأُيَظَرُونَ ⑧ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا
 يَلْبَسُونَ ⑨ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
 فَنَاقَ الَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِئُونَ ⑩ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
 انظروا كيف كان عاقبة المَكْذِبِينَ ⑪

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ان سے پہلے ہم

نے کتنی ہی قومیں ہلاک کیں کہ ہم نے ان کو ٹھکانا دیا تھا زمین میں کہ

نہیں ٹھکانا دیا تھا اتنا تم کو اور چھوڑا ہم نے اُن پر آسمان بارش برسانے والا، اور بنائی ہم نے نہریں جو اُن کے سامنے بہتی تھیں۔ پس ہم نے اُن کو ہلاک کیا اُنکے گناہوں کی بدولت اور ہم نے پیدا کر دیا اُنکے بعد دوسری قوموں کو ⑥ اگر ہم نازل کریں آپ پر کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی، پس یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑیں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھٹلا جادو ⑦ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ کیوں نہ اُتارا جاتا اُس پر فرشتہ اور اگر ہم اُتاریں فرشتے کو، البتہ فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے ⑧ اور اگر ہم اُس کو بناتے فرشتہ، البتہ ہم بناتے اسکو انسان کی صورت میں اور ہم ان پر ملتس کر دیں گے اس چیز کو کہ جس کے التباس میں یہ پڑے ہوئے ہیں ⑨ البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، پس گھیر لیا گیا اُن لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا تھا اُن میں سے اُس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کہتے تھے ⑩ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے چلو زمین میں پھر دیکھو، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ⑪

ربط آیات

ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعراض کا ذکر کر کے اُنکی تردید فرمائی۔ کہ جب بھی اُن کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا اسکی حقیقت عنقریب اُن کے سامنے آجائیگی جب وہ سزا میں مبتلا ہوں گے اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کو تہنید فرمائی ہے، اور اُنہیں وعید سنائی ہے۔ مثال کے طور پر سابقہ قوموں کا حال بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے احکام کی نافرمانی کی سزا میں مبتلا ہوئے، اگر یہ لوگ بھی احکام الہی

سے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کر دیں گے تو پہلی قوموں کی طرح سزا میں مبتلا ہوں گے۔ آج کے درس میں نزولِ قرآن کے متعلق مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا بیان بھی ہے اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے۔

طاقتور قوموں
کی ہلاکت

خدا تعالیٰ نے مشرکین عرب کو خطاب کر کے پہلی قوموں کی ہلاکت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مَنِ الْقُرْآنُ كَمَا نَهَيْتُمُومًا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ وَلَا نَصِيرَةٌ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ ایسی تو ہیں تم کہ تمہارے پاس زمین کی ہلاکت کی طاقت بھی نہیں ہے اور تمہاری نصرت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے انہیں زمین میں ایسا بجایا تھا، ایسا ٹھکانا دیا تھا کہ اُس جیسا تمہیں نہیں دیا۔ یعنی تمہاری نسبت سابقہ قوموں کے پاس جسمانی اور مادی طاقت بھی زیادہ تھی اور ان کو وسائل بھی زیادہ مہیا تھے، مگر اس کے باوجود ہم نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر ڈالا۔

لفظ قرن کے
مختلف معانی

اس آیت، کرمیہ میں لفظ قرن خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ عربی زبان میں قرن کے بہت سے معانی وارد ہوئے ہیں۔ اس کا ایک معنی 'کنارہ' ہے اسی لیے قرن الشمس سورج کے کنارے کو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج کا کنارہ نظر آنے لگے تو اس وقت نماز درست نہیں ہوتی۔ قرن سینک کو بھی کہتے ہیں اور اسی لحاظ سے اس کا اطلاق بگل پر بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے امرفیل علیہ السلام کو صاحب القرن (سینک یا بگل والا) کہا ہے کیونکہ وہ طور بچڑے اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ جب حکم ہو تو وہ اسے چھونک کر کائنات کو تباہ کر دے، حضور نے یہی فرمایا ہے كَيْفَ انْعَمَ وَصَاحِبِ الْقُرْنِ میں قرن والے فرشتے سے کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جو پوری کائنات کو درہم بہ درہم کرنے کے لیے

متعدد کھڑا ہے۔

قرن کا لفظ زمانے کی ایک خاص مدت پر بھی بولا جاتا ہے۔ قرن کی مدت کے متعلق چالیس سال سے لیکر ایک سو بیس سال کے عرصہ کے اقوال ملتے ہیں تاہم عام طور پر سو سال کے زمانے کو قرن کہتے ہیں ایک صحابی کے لیے حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی اور اسے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ تو اس شخص نے سو سال کی عمر پائی تھی، اس لحاظ سے ایک قرن کو سو سال کے برابر تسلیم کیا جاتا ہے۔

اور قرن کا معنی قوم اور جماعت بھی ہوتا ہے، جیسے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے
 نَحِيرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
 یعنی انسانوں کی جماعت کے اعتبار سے سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا اور پھر ان سے ملنے والے لوگوں کا تو اس آیت کریمہ میں قرن سے مراد جماعت ہے کہ دیکھو ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔

قدیم تہذیبوں کے آثار

اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں میں سے بعض کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون اور قوم تبع وغیرہ۔ اور بعض قوموں کا ذکر نہیں کیا جیسے قدیم مصری اقوام، آشوری اور کلدانی لوگ اور اجنٹا اور الورا تہذیبوں کے حاملین۔ اس پر صغیر میں بھی بعض پرانی تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ ہر پہ اور منجھوٹھا رو کے کھنڈرات سے ساڑھے چھ ہزار سال پرانی تہذیب کا پتہ چلتا ہے۔ کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے برتن اور دیگر اشیاء دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ٹیکسلا کے کھنڈرات سے بھی ایک عظیم تہذیب کے نشانات ملتے ہیں، کسی زمانے میں یہ کسی بڑی سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ ان کے پاس مال و دولت اور دیگر وسائل بہت زیادہ تھے اور وہ جسمانی طاقت میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ دو کسر مقام پر آتا ہے۔ کہ ہم نے ان کو جو طاقت اور سلطنت دی تھی، تمہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایسی بہت

سی قوموں کو تم سے پہلے ہلاک کر دیا۔ آج ان کے نشانات صرف کھنڈرات کی صورت میں ہی ملتے ہیں۔

فرمایا ان قدیم قوموں پر ہم نے اور بھی بہت سے احسان کیے تھے۔
 مَبْلَغُ اُنْ كَيْفِ يَهِيَ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا هَم
 نے ان پر بارش برسائے والا آسمان چھوڑ دیا۔ ان کی ضرورت کے مطابق
 آسمان سے بارش نازل ہوتی تھی جس سے ان کی فصلیں خوب پیداوار دیتی
 تھیں اور انہیں خوشحالی نصیب ہوتی تھی۔ فرمایا اس کے علاوہ وَجَعَلْنَا
 الْاَنْهَارَ تَجْرِيًا مِنْ تَحْتِهِمْ اُنْ كَيْفِ يَهِيَ اُنْ كَيْفِ يَهِيَ
 فرعون کے زمانے میں مصر میں بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے تھے اور آبپاشی
 کے وسیع ذرائع موجود تھے زمین زرخیز تھی اور لوگ معاشی لحاظ سے مضبوط
 تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ فَاهْلَ كُنْهَمْ بِذُنُوبِهِمْ اُنْ كَيْفِ يَهِيَ اُنْ كَيْفِ يَهِيَ
 وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جب انہوں نے سرکشی اختیار کی ،
 توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کیا، اطاعت کی بجائے معاصی میں مبتلا
 ہو گئے تو ہم نے انہیں صفحہ مہستی سے ناپید کر دیا۔ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي
 الظَّالِمِيْنَ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے
 کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ "نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ هَم مَر كَفْر كَرْنِ وَا لَ كُو
 ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ قانون آج بھی جاری ہے، فرق صرف یہ ہے
 کہ اب سزا کے طریقے بدل چکے ہیں، پہلی قوموں پر براہ راست عذاب
 نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم عاد اور ثمود کو بالکل ختم کر دیا گیا، البتہ
 ان کے نشانات ہزاروں سال بعد بھی دیکھے جاسکتے ہیں وادی تبوک میں
 ان کے بنائے ہوئے مکانات کے نمونے آج بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ
 پتھروں کو تراش تراش کر پہاڑوں میں بڑے خوبصورت اور نقش و نگار والے
 گھر تعمیر کرتے تھے۔

فرمایا ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی کفر و شرک پر اصرار کریں گے، تو ویسے ہی سزا میں مبتلا ہوں گے جیسے پہلی قومیں ہوئیں۔ اور اب سزا کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی سماوی اور ارضی آفات کے ذریعے ملتی ہے اور کبھی خود النازل کے ہاتھوں سے مجرمین کی سرزنش کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو میدانِ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سخت ذلت اٹھانا پڑی۔

لکھی لکھائی
کتاب کی
فرمائش

مفسرین کو رام فرماتے ہیں مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتہ اللہ کا پیغام آپ کے پاس لاتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پر اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ اللہ کا فرشتہ لکھی لکھائی کتاب ہمارے سامنے لائے، بعض کہتے تھے کہ مکمل کتاب بیک وقت آنی چاہیے جسے چار فرشتے اٹھا کر لائیں، وہ ہمارے سامنے رکھیں جسے ہم چھو کر محسوس کر سکیں۔ اس کے

جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْوَانٍ اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کریں فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِهِمْ پھر یہ لوگ اُسے اپنے ہاتھوں سے چھوئیں لَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ تو پھر بھی کفر کرنے والے یہی کہیں گے کہ یہ تو کھٹلا جاو ہے۔ مقصد یہ کہ اگر ان کی فرمائش پوری بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ جیلے بہانے سے انکار ہی کریں گے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اگر ان کی فرمائش پوری بھی کر دی جائے تب بھی یہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے

نزول فرشتہ
کی فرمائش

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اور اعتراض کا ذکر کیا ہے۔

وَقَالُوا كَوْلًا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَه كہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے
 پے رسول ہیں تو اصلی شکل و صورت میں فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ آپ
 کے پاس فرشتہ آئے، ہم اُسے دیکھیں، وہ آپ کی تصدیق کرے تو
 ہم ایمان لے آئیں گے مگر اللہ نے فرمایا، اِن کی یہ فرمائش بالکل بیہودہ اور
 ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ اگر ہم
 فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں اتاریں لَقُضِيَ الْأَمْرُ تُو مَعْلَمَے کا فیصلہ ہی
 کہہ دیا جائے۔ یعنی اگر فرشتہ ان کے سامنے آجائے تو اُسے دیکھنے کی طاقت
 نہ پا کر فوراً ہلاک ہو جائیں گے، یعنی اِن کا معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔
ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ پھر ان کو مہلت ہی نہیں ملے گی، یعنی فوراً ہی
 ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور انہیں آپ کی تصدیق کرنے اور
 ایمان لانے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دو مرتبہ
 جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ پہلی دفعہ غارِ حرا پر دیکھا تو درشت
 طاری ہو گئی، غشی آنے لگی، آپ پر کبھی طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ
 گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کھبل اوڑھا دو اور دوسری مرتبہ آپ نے
 جبریل کو سدرۃ المنتہی کے قریب اصلی حالت میں دیکھا جیسا کہ سورۃ نجم میں
 مذکور ہے "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ"
 بہر حال تمام انبیاء میں سے صرف حضور علیہ السلام نے ہی جبریل علیہ السلام کو
 اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے عام طور پر جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ
 کے پاس آتے تھے یا پھر السلاخ کے طریقے پر قلب کے ساتھ تعلق
 جوڑ کر بات کرتے تھے۔ اگرچہ پیغمبر کے قولے روحانیہ بہت زیادہ
 طاقتور ہوتے ہیں، اس کے باوجود فرشتوں کو اصلی حالت میں دیکھنا عام طور
 پر ممکن نہیں ہوتا۔ امام شاہ ولی اللہ الطائف القدس میں فرماتے ہیں کہ عام انسان

پتھروں کو تراش تراش کر پہاڑوں میں برے جو بصورت اور حسن و نکار سے
 گھر تعمیر کرتے تھے۔

کے حواس باطنہ پانچ ہوتے ہیں جب کہ پچیس میں چھٹی حس بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ فرشتے سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ وہی حس ہے جو فرشتے کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان مشرکین کی فرمائش پر ہم فرشتے کو نازل کر دیں تو یہ اُسے برداشت نہیں کر سکیں گے اور فوراً ان کا کام تمام ہو جائے گا۔

فرمایا، اگر ہم ان لوگوں کی فرمائش کی تکمیل کرنا ہی چاہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا یعنی اگر ہم فرشتے کو بھیجنا ہی چاہیں لَجَعَلْنَاهُ رَحْبًا تو ہم اُسے انسان کی شکل میں متشکل کر کے بھیجیں گے۔ ملائکہ اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ انسان یا حیوان جس شکل میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجیں گے تاکہ یہ لوگ اُسے برداشت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وَلَلْبِئْسَ مَا يَلْبَسُونَ تو ہم ان پر اسی چیز کو ملتبس کر دیں گے جس التباس میں یہ پڑے ہوئے ہیں یعنی وہ جس ضد پر اب قائم ہیں، اسی پر قائم رہیں گے اور فرشتے کو دیکھ کر کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس وقت ان کی حالت یہ ہے۔ کہ ایک انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر جب انسانی صورت میں فرشتے آئے گا تو کہیں گے کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے جیسا کہ سورۃ شعراء میں موجود ہے، لوگوں نے کہا مَا آنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ سورۃ مومنون میں ہے کہ کفار کے سرداروں نے کہا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یعنی یہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہی ہے۔ یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، بال بچے وارے ہیں يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ (الفرقان) بازاروں میں جاتے ہیں، سو واسلف لاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے

فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ أَتَيْتُمْ مِثْرًا آپ کہہ
 دیں کہ زمین میں چلو پھرو۔ ملازمت کا روبرو یا سیر و تفریح کے لیے تو سفر کرتے
 سکتے ہو، کبھی عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی نکلو تَوَاطَرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا بڑا انجام
 ہوا پرانی قوموں کے حالات معلوم کرو۔ ان کے آثارِ قدیمہ پر نظر دوڑاؤ اور
 پھر دیکھو کہ وہ کس شان و شوکت کے مالک تھے مگر ان کا حشر کتنا عبرتناک
 ہوا۔ آشوری اور کلدانی قوموں کا حال دیکھو، اجنٹا اور الورا والوں کا کیا بنا عمارت
 اور نمود کے کھنڈرات دیکھو کہ کتنی بڑی بڑی اور نقش و نگار سے مزین عمارت
 تعمیر کرتے تھے مگر آج ان کی تہذیب میں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ یہ جا عبرت
 ہے کہ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی توحید کو جھٹلایا، کتب الہیہ اور قیامت سے
 انکار کیا، دنیا میں بڑا عروج حاصل کیا مگر آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا
 ہو کر تباہ و برباد ہوئے، ان کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ تو اس دنیا میں عبرتناک
 انجام ہے جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں اللہ رب العزت کے حضور پیش
 ہو کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ وہ
 اللہ کے نبیوں، اس کی کتابوں اور جرنے کے عمل کو جھٹلاتے رہے اور پھر
 وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔

قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ
 كُتِبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمٰةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ
 اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا
 اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۲﴾ وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي
 السَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ
 اَخَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَهُوَ يُطْعِمُهُمْ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّيْ اُمِرْتُ اَنْ
 اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۴﴾
 قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ
 عَظِيْمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
 رَحِمْنَاهُ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۶﴾ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ
 بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ
 عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ
 وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۸﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ ان سے دریافت کریں کہ کس

کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ کہہ دیجئے

اللہ ہی کے لیے ہے اس نے لکھا ہے اپنے اُوپر رحمت کو
 البتہ وہ ضرور جمع کرے دیگا، قیامت کے دن جس کے آنے میں
 شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی
 جانوں کو پس وہ ایمان نہیں لاتے (۱۲) اور اسی کے لیے ہے جو
 ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں، اور وہی سُننے والا ہے
 اور سب کچھ جاننے والا ہے (۱۳) اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے
 کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو مددگار بناؤں جو کہ پیدا کرنے
 والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور وہ کھلاتا ہے اور اُس کو
 نہیں کھلایا جاتا، آپ کہہ دیجئے، بیشک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ
 میں ہو جاؤں سب سے پہلے اُن لوگوں میں جو فرمانبرداری کرنے
 والے ہیں اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں سے (۱۴) آپ کہہ
 دیجئے، بیشک میں خوف کھاتا ہوں، اگر میں نے نافرمانی کی
 اپنے پروردگار کی، بڑے دن کے عذاب سے (۱۵) جس
 شخص سے پھیر دیا گیا اس عذاب کو اُس دن، پس بیشک
 اُس نے اُس پر رحم فرمایا، اور یہ کھلی کامیابی ہے (۱۶)
 اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پس نہیں
 ہے اُس کو دُور کرنے والا سوائے اُس کے، اور اگر
 وہ پہنچائے تجھ کو کوئی بھلائی، پس وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے
 والا ہے (۱۷) اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور
 وہ حکمت والا اور (سب کی) خبر رکھنے والا ہے (۱۸)

گذشتہ آیات میں اُن مشرکین کا رد فرمایا گیا تھا جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے
 تھے اور طعن کرتے تھے کہ کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں آتی اور فرشتے اُس کو

لے کر کیوں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے یہودہ سوالات کی تردید کی۔ پھر اللہ نے فرشتے کی اپنی اصل شکل میں عدم نزول کی حکمت بیان فرمائی کہ انسانی قومی فرشتوں کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتے اور اگر دیکھ لیں تو فوراً ہلاک ہو جائیں اور ان سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں اور ہم فرشتے کو انسانی شکل میں نازل کرے تو پھر یہ لوگ اسی التباس میں پڑے رہیں گے اور جس طرح انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح انسانی شکل والے فرشتے کا بھی انکار کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی بھی دی کہ آپ ان لوگوں کے ٹھٹھا اور تمسخر سے گھبرائیں نہیں، آپ سے پہلے انبیاء سے بھی لوگ ہی سلوک کرتے رہے ہیں اور پھر آخر میں ان لوگوں کو اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کے متعلق وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔

توحید باری تعالیٰ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل اور قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِّمَنْ

صَافِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط اے پیغمبر! آپ ان سے ذرا چھپیں کہ بتلاؤ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ کس کا ہے؟ ارض و سما کی تمام چیزوں کا موجد، مالک اور متصرف کون ہے؟ کس نے ان کو ظاہر کیا اور کون ان کو تمام کر رہا ہے؟ پھر اس سوال کا جواب بھی خود ہی مرحمت فرمایا قُلْ لِلّٰهِ آپ کہہ دیجئے کہ مذکورہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ ان کا موجد، مالک اور متصرف بھی وہی ہے، اور پھر اس کی مہربانی کا حال یہ ہے کہ كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرِّحْمَةَ ط اُس نے اپنے ذمے رحمت کو لکھ لیا ہے۔ اس نے اعلان فرمادیا ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی

اللہ تعالیٰ نے عرشِ عظیم پر لکھ دیا کہ اِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ عَلٰی غَضَبِيْ
یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں
کہ میری تمام مخلوق میری رحمت سے حصہ پائے مگر پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں
جو میرے غضب کا نشانہ بنتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی سرکشی حد
بڑھ جاتی ہے۔

معاد کا
اقرار و انکار

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد کا تصور دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ کی
وحدانیت کا انکار کہنا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح معاد کا انکار بھی کفر ہے
یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تصور پیش
کرنے کے بعد معاد کا ذکر فرمایا ہے لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ وَهُ تَمَّيْسُ ضَرْوَرُ قِيَامَتِ كَعِ دِنِ اَكْطَا كَمِ يَكَا كَمِ جِسْ كَعِ اَنِّ
میں کوئی شک نہیں۔ اگر معاد پر یقین آجائے اور انسان جان لے کہ حساب
کتاب کی منزل آنے والی ہے تو پھر وہ بغاوت اور سرکشی پر نہیں اتر سکتا
فَرَمَا اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ جِن لُو كُوْنِ لِنِ
اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اپنی جانوں کو نقصان
میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کو بگاڑ دیا کیونکہ
جس شخص میں یہ دو چیزیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معاد سے
کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ كُلُّ مَوْلُوْدٍ عَلٰی الْفِطْرَةِ هَرِيْ
فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے "فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا"
اللہ تعالیٰ نے تو پیدائش ہی اس فطرت پر کی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کو پہچانے مگر لوگوں نے اس فطرت کو بگاڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لیا
جو کہ بالکل غیر فطری اور بے عقلی کی بات ہے لہذا اس سے بڑھ کر خسار
کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم کو ہی تباہ کر لے ایسے
ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وَهِنَّ تُو اللّٰهُ تَعَالٰى كِي وَحْدَانِيَّتِ كُو تَسْلِيْمِ كَرِيْتِي هِي

اور نہ ہی جبرائے عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔

ساکن اور
متحرک اشیاء

آگے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان اور شرک کا رد ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَدَّ
مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات اور دن میں جو چیز سکون
پکھڑ رہی ہے، اسی کی ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ساکن اشیاء
کا ذکر کیا ہے مگر متحرک چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے حالانکہ ساکن چیزوں
کی طرح کائنات کی تمام متحرک اشیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ اس کے
جواب میں امام محمد ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ساکن اور متحرک
دونوں قسم کی چیزیں مراد ہیں مگر متحرک کا لفظ محض اختصار یہ اکر کرنے کے لیے
چھوڑ دیا گیا ہے گویا اس جملہ میں وَالنَّهَارِ کے بعد وَمَا تَحْرُكُ کے
الفاظ مخدوف ہیں اور مطلب یہی ہے کہ ہر ساکن اور متحرک ہر چیز کا مالک
اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کی مثال
سورۃ نحل میں بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بہت سے انعامات
کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا وَجَبَّ مَلَائِكُمْ سَرَابًا لَّ
تَقِيَّكُمْ الْحَرَّ اللہ نے تمہارے لیے ایسی قمیصیں بناائیں جو تمہیں
گرمی سے بچاتی ہیں قمیص تو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتی ہے مگر یہاں
پر سردی کا ذکر UNDERSTOOD ہے یعنی خود بخود سمجھا جاسکتا ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت زبردس میں ساکن اشیاء کا ذکر کر کے متحرک
چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز
کا مالک ہے۔

مفسرین کہہ ام صرف ساکن کے تذکرے کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں
کہ کائنات میں حرکت کی نسبت سکون کی مقدار زیادہ ہے ساکن چیز تو
بہر حال ساکن ہے مگر متحرک چیز بھی بالآخر کسی نہ کسی مدت کے بعد ساکن ہو

کھلایا جاتا۔ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے۔ مگر بعض مشرک اپنے معبودان باطلہ کے متعلق اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی پیش کردہ نذر و نیاز کھاتے ہیں اور اُس پر خوش ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اُسے خود کھانے کی حاجت نہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينَ (الذريت) وہی رازق ہے، زور آور اور مضبوط ہے۔ روزی کے تمام ذرائع اُمی کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہذا روزی بھی ہمیشہ اُسی سے طلب کرنی چاہیے تو فرمایا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز بنا لوں جو کھانے پینے اور بول و ہل کے محتاج ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کارساز، مددگار اور ولی وہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر جاندار کے لیے روزی کے ذرائع پیدا کرتا ہے اور وہ خود نہ کھانے پینے کا محتاج ہے اور نہ کسی دیگر چیز کا۔

اولین اطاعت گزار

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ یہ بھی کہ دیں اِنِّیْٓ اٰمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ کہ مجھے تو میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ تعالیٰ کے اولین اطاعت گزار ہیں وَلَا تَكُوْنُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ شرک روحانی بیماریوں میں سے مہلک بیماری ہے۔ لہذا اس سے بچتے رہنا۔ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کارساز نہیں، تمام چیزوں کا مالک اور متصرف وہی ہے۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ یہ بھی کہ دیں اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْٓ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بڑے دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ سائے نبی بھی کہتے ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اسی لیے ہم احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر اس کی گرفت میں نہ آجائیں اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی

نافرمانی کفر اور شرک ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافر ہی ظالم ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے تھے۔ نیز شرک کے متعلق فرمایا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ فرمایا کفر و شرک کی غلاظتوں سے بچ جاؤ اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ کیونکہ مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ قِيَامَتِ کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا، اس پر اللہ نے رحم فرمادیا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَآلِ عِمْرَانَ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہے کہ انسان ذلت سے بچ جائے اور عزت کا مقام پالے۔

فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اس کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں۔ یعنی مافوق الاسباب نافع اور ضار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے۔ یاد رہے کہ یہاں مافوق الاسباب نفع نقصان کی بات ہو رہی ہے ورنہ اسباب کے دائرے میں ہوتے ہوئے تو ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتا ہے اور کسی کو فائدہ پہنچتا ہے اور کسی کو کسی کے ہاتھوں نقصان ہو جاتا ہے مگر جس مقام پر تمام اسباب و علل ختم ہو جاتے ہیں اس مقام پر کسی کی تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے

مشکل کش
صرف اللہ ہے

والا ہے۔ کوئی دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے میں دخل نہیں دے سکتا، وہ اپنی منشاء کے مطابق جسے چاہے نفع پہنچانے پر قادر ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ غلط کار لوگ اللہ کی مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اُن کے نام کی دہائی دیتے ہیں، اُن کو نذرانہ پیش کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اُن کو پکارتے ہیں جو کہ صریح شرک ہے۔ اللہ کے سوانہ کوئی قبر والا کسی کی مدد کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن یا فرشتہ کسی کی مشکل کشائی کر سکتا ہے۔

بعض مشرکین وسیلے کا غلط تصور رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء اور اولیاء اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا کے بادشاہ یا امیر وزیر تک رسائی کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے بھی انبیاء، اولیاء کے وسیلے کی ضرورت ہے۔

وسیلے کا تصور

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پاؤں رکھنا، مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دنیا کے بادشاہوں اور امراء پر قیاس کیا ہے، جو کہ مگر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اس کا ہر مخلوق کے ساتھ تعلق بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو کچھ صفت کا نام تہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا عکس ہر انسان کی روح پر پڑتا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا تعلق ہر شخص سے براہ راست قائم ہوتا ہے لہذا مشرکین کے بادشاہوں کے مماثل وسیلے کی یہاں قطعاً گنجائش نہیں رہاں ایک وسیلہ ضرور ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وسیلہ۔ اطاعت بجا لاؤ تو بلا روک ٹوک اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لو، درمیان میں کسی مزید وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد صرف اسی سے مانگو، کیونکہ وہی مدد دینے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنی کتاب فتوح الغیب میں حضرت عبدالعزیز بن عباسؓ
 کی روایت نقل کرتے ہیں، جو کہ مسند احمد میں موجود ہے۔ ابن عباسؓ بیان
 کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے سواری پر سوار تھا کہ آپ
 نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا غلام یعنی لے لڑکے اِحْفَظِ اللّٰهَ
 يَحْفَظِكَ اللّٰهُ تَمَّ اللّٰهُ كَ حَقُوْقِ كِي حِفَاظَتِ كَر و یعنی اُن کا رضیان
 رکھو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، پھر فرمایا تو اللہ کو حاضر ناظر جان، تو
 اُسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ جِب
 تُو سَوَالِ كَرِے تُو اللّٰهُ سَے سَوَالِ كَرِے وَاِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنُ
 بِاللّٰهِ اُو ر جِب تُو مَد و طَلِب كَرِے تُو اللّٰهُ سَے طَلِب كَرِے۔ اللّٰهُ نَے پَنے
 بِنَدُوں كِي قِسْمَتِ مِیں جُو كُجھ لِكْحَا ہے و ہ ازل سے مقرر ہو چکا ہے اور
 اُسے كوئی بَدَل نِہیں سَكْتَا۔ ہر شَخْص كُو جُو فَائِدَہ پَنچتا ہے و ہ پَنچ كَرِے گَا
 اُو ر جُو نَقْصَان پَنچتا ہے و ہ بھي پَنچ كَرِے گَا۔ پھر اگَر تُو اللّٰهُ پَر تُو كَل رَكْحَے
 اُو ر لَقِيْنِ مَحْكَم كَے سَاخْتِ مَعَا مَلِہ كَر سَكْے تُو و ہ تَجھ بَہت بڑی جِزَار عَطَا فرمائے
 گَا۔ حَدِيثِ نَقْل كَرِے كَے بَعْدِ شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جَيْلَانِيؒ بَكْتِے ہيں كَہ ہر مَوْمِن
 كِي اِعْتِقَادِي اُو ر عَمَلِي صَحْتِ و عَافِيَتِ اِسی مِیں ہے كَہ اِس حَدِيثِ پَر ہمِيشَہ
 عَمَل كَرِے۔ تَا كَہ و ہ دُنْيَا و اٰخِرَتِي مِیں تَمَام اَفَا ت و مَصَائِبِ سَے مَحْفُوْظ رَہ
 سَكْے اُپ كَے اِرشَاد كَا مَقْصِدِ یہ ہے كَہ ہر اِنْسَان كُو چاہيے كَہ و ہ اِس
 پَر شَرِيْف كُو اِپنی زَنْدَگِي كَا اُو ر مَصْنُوع بَچھو نَا بِنَا لے اُو ر ہمِيشَہ اِس پَر عَمَل پِیرا ہے
 مگر آج اُن كَے نَام لِيُو اِكِيَا كَرِے ہيں۔ كوئی حَضْرَتِ عَلِي بَجَوِيْرِيؒ كَا بَجْرَا لے
 جَار ہا ہے تُو كوئی شَيْخِ بَعْدِ الْحَقِّؒ كَا تُو شَہ، كَہيں شَاہ مَدَار كَا لِيَدَہ مَشْهُور ہے اُو ر
 كَہيں بُو عَلِي قَلَنْدَر كَا كَچھُڑ، كَہيں اِمَامِ حَافِظ كَے كُوْنڈے لے اُو ر كَہيں بِي بِي كِي صَحْنَك
 اُو ر پھر شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جَيْلَانِيؒ كِي گِيَار ہُو مِیں تُو بڑی مَشْهُور ہے۔ یہ سَب كِيَا
 ہے غَيْرِ اللّٰهُ كُو نَدَرِيں پِيش كِي جَار ہيں اِن سَے مَد و طَلِب كِي جَار ہي

الانعام ۶

واذا سمعوا

آیت ۱۹ تا ۲۱

درس پنجم ۵

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللَّهُ قَفٌّ شَهِيدٌ
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَفٌّ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ
 بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ط أَيُّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً
 أُخْرَىٰ ط قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ
 وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝۱۹ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۰ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
 الظَّالِمُونَ ۝۲۱

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کونسی چیز بڑی ہے گواہی
 کے اعتبار سے پھر آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی ہے۔ گواہ ہے
 میرے اور تمہارے درمیان۔ اور وحی کیا گیا ہے میری طرف
 یہ قرآن، تاکہ میں ڈراؤں تم کو اس کے ساتھ، اور جس
 تک یہ پہنچے (اس کو بھی ڈراؤں) کیا تم اس بات کی گواہی دیتے
 ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے
 میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے بیشک وہ ایک
 ہی معبود ہے اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو اس کے

موقف لازم
باختلاف

۲۰

ساتھ تم شریک بناتے ہو (۱۹) اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے پہچانتے ہیں اس کو جس طرح کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خائے میں ڈالا، پس وہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) اور اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا جو اللہ پر افتراء باندھے یا جھٹلائے اُس کی آیتوں کو، بیشک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے (۲۱)

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں متردد تھے اور فرشتہ اُترنے اور لکھی لکھائی کتاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے۔

گواہی بقی
رسالت

مگر اللہ نے اُن کے مطالبہ کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اگر اُن کی فرمائش پوری بھی کہ دی جائے تب بھی یہ اُسی شک میں پڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ منجملہ دیگر اعتراضات کے مشرکین یہ بھی سوال کرتے تھے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ اے پیغمبر!

آپ کہہ دیجئے اُمّی شئیٌّ اَکْبَرُ شَہَادَۃً سَبَّ سَبَّیُّ گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا قُلِ اللّٰہُ آپ کہہ دیں کہ سب سے بڑی گواہی تو

اللہ ہی کی ہے شَہِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَکُمْ وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان

گواہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ نفع نقصان کا مالک اور تمام

بندوں پر غلبہ رکھنے والا وہی ہے، علم و حکمت والا، خالق، متصرف اور مجبور بحق وہی

ذات ہے، تو پھر میری نبوت و رسالت کا گواہ بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر

کون سی شہادت ہو سکتی ہے یہ گویا مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے۔

پھر فرمایا اَوْحٰی اِلَیْکَ ہٰذَا الْقُرْآنُ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بذریعہ وحی

انذار و تنبیہ

میری طرف نازل کیا ہے، لہذا میری نبوت اور رسالت کا سب سے بڑا گواہ وہی ہے

اور اس قرآن پاک کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے لَا نُنذِرَکُمْ بِہٖ تاکہ میں

اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، خبردار کہ دوں۔ قرآن پاک سر زمین عرب میں شہر مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، لہذا اس کے اولین مخاطبین بھی مشرکین مکہ ہی ہیں۔ اور ہر نبی کا یہی مشن رہا ہے۔ کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہی اللہ کا پیغام سناتے رہے ہیں۔ سورۃ یوسف میں ہے "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عرب لوگ اس کو سمجھ سکو۔ پھر حضور علیہ السلام کو یہ بھی حکم ہوا، "وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" (الشعراء) آپ اپنے بھائی بندوں کو خبردار کہہ دیں غرضیکہ حضور علیہ السلام سے یہ بھی کہلوا یا کہ یہ قرآن پاک میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم کو بڑے انجام سے خبردار کہہ دوں۔ اگر خدا کی وحی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

انذار و تبشیر تمام انبیا کی بعثت کا مقصد رہا ہے۔ کہیں تمہیں اور تمہاری قوموں کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں یعنی برائیوں سے ڈرانا اور نیکیوں کی ترغیب دینا۔ اُدھر تبشیر کا معنی بشارت سنانا ہے۔ جیسے فرمایا "رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ" (النساء) ہم نے بشارت سنانے والے اور ڈرانے والے رسول مبعوث کئے۔ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اور نبی کا راستہ پکڑتا ہے اس کو بشارت دیتے ہیں "بِأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ" (یونس) کہ ان کے لیے اپنے رب کے ہاں سچا پایا ہے۔ فلاح اور کامیابی ہے۔ یہی تبشیر ہے اسی طرح انذار کے متعلق سورۃ مدثر میں فرمایا "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ" اے چادر اوڑھنے والے! اٹھ کھڑے ہوں اور ان کو ڈرائیں۔ یہ آپ کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ لوگوں کو ان کے بڑے انجام سے خبردار کر دیں۔ انہیں بتادیں کہ کفر اور شرک کرنے والوں کا انجام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے

اسی سورۃ میں گزر چکا ہے کہ ان کو توجہ دلائیں ”وَأَهْلَكْنَا مِنْ
قَبْلِهِمْ مِّنْ قَوْمٍ“ کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک
کر دیا، وہ بھی کفر اور شرک جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا تھے بہر حال یہاں
پر فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان کو بتادیں کہ میری طرف یہ قرآن اس لیے
نازل کیا گیا ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں۔

یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک کے اولین مخاطبین عرب
کے لوگ تھے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ“۔

(سورۃ ابراہیم) ہم نے ہر رسول کو اُس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔
تاکہ اپنے اولین مخاطبین کو خبردار کرے۔ وَصَّٰءٌ بَلَّغْهُ اور ان لوگوں
کو بھی خبردار کرے جن تک یہ قرآن پہنچے، گو یا حضور کی نبوت کے فرائض
میں داخل ہے کہ قرآن پاک کا پیغام دنیا میں جہاں کہیں پہنچے، ان سب
کو خبردار کر دیں۔ اس لحاظ سے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت
و رسالت قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ آپ تمام اقوام عالم کے انسانوں
بلکہ جنات کے لیے بھی اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔

تبلیغ دین کا کام حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، پھر
آپ کے بعد یہ کام صحابہؓ نے کیا، پھر تابعین اور تبع تابعین یہ فریضہ انجام
دیتے رہے اور جوں جوں فرزند ان توحید کا حلقہ وسیع ہوتا چلا گیا و شرابی
تعلیقات کو آگے پہنچانے کا کام طبقہ در طبقہ ہوتا رہا۔ چنانچہ اب اس
آخری امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ دین کے احکام
دوسروں تک پہنچائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
اُمَّةً وَّسَطًا“ ہم نے تمہیں امت وسطیٰ (افضل امت) بنایا لیتکولوا
شہداء علی الناس تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ کہ ہم نے اللہ

کے احکام ان تک پہنچائیے مفسر قرآن محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں -
 مَنْ بَلَغَهُ الْقُرْآنُ فَقَدَرَأَى مُحَسَّدًا یعنی
 جس کے پاس قرآن پاک پہنچ گیا، اُس نے گویا خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کو دیکھ لیا کیونکہ آپ کا معجزہ اور آپ کا مشن اور آپ کی غرض و غایت
 یہی قرآن حکیم ہے۔ ہشام بن عامر نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ
 سے حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب
 دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا، قرآن تو میں پڑھتا ہوں، فرمایا، تو
 پھر یہی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک
 کی تعلیمات کا عملی نمونہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔
 جیسا کہ پہلے عرض کیا قرآن پاک کا پیغام جس شخص تک پہنچ جائے اُس
 کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسے آگے دوسروں تک پہنچائے، اس کے
 متعلق اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کو تاکید فرمائی "بَلِّغْ مَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" (السمائدہ) جو کچھ آپ کے رب کی طرف
 سے نازل کیا گیا، اُسے آگے پہنچادیں۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے
 فرمایا "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ كَانَ آيَةً" مجھ سے لے کر دوسروں
 تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی خاطر خواہ فائدہ
 ہوگا اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً سو لاکھ صحابہؓ کو خطاب کرتے
 ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا "أَلَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ
 الْغَائِبَ قَرِيبًا مَبْلَغَ أَوْعَى مَنْ سَامِعٍ سَمِعًا" جو
 لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیئے کہ یہ باتیں غیر حاضرین تک پہنچادیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود شخص تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا
 ہو۔ یہ حال فرمایا کہ یہ امانت تم تک پہنچا دی ہے، اُس کو آگے پہنچانا اب
 تمہاری ذمہ داری ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں کہ
مومن کا دل کبھی ان سے حسد اور کینہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا پہلی بات اخلاص العمل باللہ
اللہ کی خاطر عمل میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص میں خرابی آگئی تو عمل برباد ہو جائیگا،
لہذا ایک مومن کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے عمل کا اخلاص ضائع نہ
ہو، مومن اس بارے میں اپنے دل میں کبھی کھوٹ نہیں رکھے گا۔ فرمایا دوسری
بات والنصيحة للمسلمین ہے ہر مومن کو دوسرے مومن کی خیر خواہی
مطلوب ہوتی ہے۔ اگر اس ضمن میں بھی اس کے دل میں کوئی میل آگئی تو
اس کے ایمان میں خرابی آجائے گی، گویا ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی ضروری
ہے۔ اس کے متعلق حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي کی روایت بھی صحیحین
میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اس بات
کی بھی بیعت لی والنصح لكل مسلم کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی
کروں بہر حال حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری اہم بات لذو وجاعة
ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط رکھنا یعنی اتفاق و اتحاد کی فضا کو
برقرار رکھنا بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ من شد شد
جو جماعت سے الگ ہو گیا، وہ علیحدہ فرقہ بن گیا، پھر گمراہی آئی۔ اور
جماعت المسلمین میں کمزوری آئی۔ اس تفریق کے نتائج بھی بہت برے
نکلیں گے۔ الغرض! تبلیغ دین بنی نوع انسان کے ساتھ خیر خواہی کی
ایک صورت ہے جس کے متعلق سخت تاکید آئی ہے۔

اصل میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ سورۃ بلد میں ہے "وهدینہ
النجدة" ہم نے انسان کی دو اونچی گھائیوں کی طرف راہنمائی کر دی ہے
عام تفسیر میں اسے خیر اور شر کی گھائیوں سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی انسان
کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھا دی گئی ہے تاہم علمی اصطلاح میں اسے یوں
کہا جا سکتا ہے کہ ہر انسان کے لیے دو باتیں بڑی ضروری ہیں، ایک

انفرادی روحانی ترقی اور دوسری اصلاحِ عالم انسان خود اپنی اصلاح کئے تاکہ اُسے روحانی ترقی ہو اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے۔ جب اپنی اصلاح مکمل ہو جائے تو پھر اصلاحِ عالم کی ذمہ داری بھی اُس پر عائد ہوتی ہے کہ پوری نسل انسانی سے خیر خواہی کا سلوک کرتے ہوئے اللہ کا پیغام اُن تک پہنچائے اور اُن کی اصلاح کی کوشش کرے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان قرآنی پروگرام کو بھول چکا ہے، قرآنی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ آج اس کے اپنے افکار بدل چکے ہیں، اِس کی حالت بھی یہود، نصاریٰ، ہنود، مجوس اور دہریوں سے مختلف نہیں رہی۔ مسلمان آج اپنی اصلاح سے غافل ہے۔ یہ اقوام عالم کی اصلاح کیسے کرے گا۔ یہ خود گمراہ ہو چکا ہے، دوسروں کو راستہ کیسے دکھائے گا۔ اصلاحِ عالم کا فریضہ اسلام کے ابتدائی دور میں بطریقِ احسن انجام دیا جاتا رہا ہے۔ مگر آج پورا عالم اسلام اس سے غافل ہو چکا ہے۔

اس وقت صرف تبلیغی جماعت ہے جو تبلیغِ دین کے سلسلہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے۔ چونکہ خود اپنے بگڑ چکے ہیں۔ لہذا اولاً اُن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مگر اس محاذ پر بھی جماعت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑے بڑے مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں۔

گزشتہ سال کی بات ہے کہ تبلیغ کے لیے جماعت ادھر ہاڑھی علاقے میں گئی کسی بستی میں رات کو قیام کرنا چاہا تو اہل بستی نے ٹھہرانے سے انکار کر دیا، بلکہ اسی وقت وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا اتوں نے رات کے وقت تین چار میل دور دوسری بستی میں جا کر قیام کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو جماعت تبلیغِ دین کا اہم فریضہ انجام دے رہی ہے اس کے خلاف اہل بدعت، مشرک اور رسومی لوگ نہ ہر بلا پر اپنی پٹیاں اکھڑاتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں بے دین ہیں جو تمہیں بھی بے دین بنا دیں گے۔ ایسے مراحل تو

تبلیغِ دین
میں مشکلات

درمیان میں آتے رہتے ہیں، ان سے گنہگارانا نہیں چاہیے بلکہ اپنا پروگرام جاری رکھنا چاہیے، جو لوگ نیکی کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں بھی اس ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ جو کام خود ان کے ذمہ تھا، اُس کو انجام دینے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ جب یہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں تو دوسروں کی اصلاح کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ ذرائع مواصلات نے اب پوری دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ہاں کثرت سے آتے جاتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کتنی قومیں ایسی ہیں جنہیں سچے دین کی تلاش ہے مگر ان تک دین پہنچانے والا کوئی نہیں، ان میں نیکی کرنے کی ترغیب موجود ہے مگر ان کی راہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اثر بھی اسی بات کا ہوتا ہے جو کسی باعمل اور دین دار شخص کے منہ سے نکلی ہو۔ خالی خوری لیکر دینے سے بات نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں خاص تہذیب و سنہ رانی۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصف)

جو کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے، جو چیز دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہو اُس پر پہلے خود عمل پیرا ہو جاؤ، پھر بات بنے گی۔

آج مسلمان اپنے اسلامی مشن کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اختیار کے رسم و رواج میں اپنی عزت سمجھتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام کے ذریعے اصول دوسروں تک پہنچائے جاتے مگر آج ہم دوسروں کے لادینی نظریات اپنانے پڑے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب نے ایک غیر ملکی شخصیت کو تحفہ ایک مجسمہ کی شکل میں دیا۔ بت تراشی اور بت فروشی تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے مگر ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی تحفہ بھی نہ مل سکا۔

اسی طرح مسلمانوں اور کافروں کی قبروں پر پھول چڑھانا ایک بین الاقوامی رواج بن

مشن سے
وابستگی

چکا ہے، سربراہان ملک ایک دوسرے کے ملک میں جاتے ہیں تو خیر سگالی کے طور پر وہاں کی مشہور
ہستی کی قبر پر چادر چڑھاتے ہیں۔ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے یہ بھی کام شروع کر دیا ہے
ہماری ملک میں سڑ جناح اور علامہ اقبال کی قبریں اس چیز کی آماجگاہ بن چکی ہیں۔ اصل بات یہ ہے
کہ جب ہم اپنے مشن کو بھول گئے ہیں تو دوسروں کے نظریات اپنانے پر مجبور ہیں۔ آج مملکت
ایک اور مثال ہے جو اپنے نظریات پر کسی حد تک قائم ہے۔ پھلی دفعہ ابن سعود ہندوستان آیا تو
حسب دستور گاندھی کی ساڑھی پر کھپولوں کی چادر چڑھانے کی اسے

بھی پیش کش کی گئی مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسی چیزوں کو رد
نہیں سمجھتا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے نظریات پر قائم رہ کر اپنے ملک
اور اسلام کی عزت افزائی کی۔ اس طرح مصر کا کرنل ناصر روس گیا تو خوروشیف
کے ساتھ شراب پیش کی گئی مگر اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں شراب نہیں
پیتا، آخر انہیں وہ مے وساغراٹھانا ہی پڑا۔ ناصر کے ساتھ خوروشیف
نے بھی شراب نہیں پی۔ مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ اپنے سچے اصول دوسروں
کے سامنے پیش کرے تاکہ خود ان کی بدرو میں بہ جائے۔ بہر حال تبلیغ دین کے
سلسلے کی پہلی منزل یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی اصلاح کی جائے اور پھر
نہایت خلوص کے ساتھ اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے
ایک سچے مسلمان کی اپنے مشن سے وابستگی کی یہی دلیل ہے۔

تبلیغ دین کی طرف توجہ دلانے کے بعد اسلام کے بنیادی اصول توحید کو
ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةً اٰخَرٰی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ خدا تعالیٰ
کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ فرمایا اگر یہ لوگ کسی غیر اللہ کو معبود مانتے
ہوں تو قُلْ لَا اَشْهَدُ اَبَیْنِیْ اِلٰہًا سِوَا اللّٰهِ وَ اَحَدٌ
اس کے برخلاف میں تو یہی کہوں گا قُلْ اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَ اَحَدٌ
معبود برحق تو ایک ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وَ لَا نَسِیْ

بِنِجْمٍ مِّمَّا تَشْرِكُونَ اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم
 شریک بناتے ہو۔ میں غیر اللہ کو عبود تسلیم کرنے کے معاملے میں تم سے
 ہرگز اتفاق نہیں کر سکتا۔ اس معاملہ میں میرا اور تمہارا راستہ بالکل مختلف ہے۔
 آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا بھی تذکرہ فرمایا جو اسلام کی حقانیت
 کو پہچاننے کے باوجود خدائے کا سوا کرتے ہیں، ارشاد ہے الَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَهُودٌ وَنَصَارَىٰ جَنُّوا آسْمَانِي كُتِبَ عَلَيْهِمُ

پہنچیز اور قرآن
 کی تصدیق

يَعْرِفُونَ مِمَّا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا هُمْ يَسْتَكْبِرُونَ
 آخر الزمان کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے

ہیں کہ يَعْرِفُونَ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی جاتی ہے اور اس کا مطلب
 یہ ہے کہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ قرآن پاک وہی کلام ہے جس کے متعلق
 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ میں تمہارے بھائی بندوں میں سے ایک شخص کو بہ پاکروں گا اور اس کے
 منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ قرآن پاک وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسرہیلوں
 کے بھائی بند بنو اسماعیل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
 کیا اور پیغمبر اسلام کو تو یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ پہلی کتابوں میں موجود تمام
 علامات آپ پر صادق آتی ہیں۔ مگر اب جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں
 یہ لوگ مشرکین سے بھی بدتر ہیں۔ مشرک تو جہالت کی وجہ سے نبی آخر الزمان
 کا انکار کرتے ہیں مگر یہ اپنی ضد، مہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر آپ
 پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں اور ظاہر ہے تعصب جہالت سے زیادہ
 مہلک بیماری ہے۔ فرمایا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَجَنُّوا لَوْ كَانُوا
 نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 وہ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ مجرمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے فطرتِ سلیمہ

کو بگاڑ دیا ہے اور تعصب کو اختیار کر رکھا ہے یہ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔

سب سے بڑا ظالم

فرمایا دیکھو! یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ اور اگر پھر بھی تمہیں میری رسالت اور نبوت میں شک ہے تو سن لو

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

اِس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹا باندھے دوسری آیت میں فرمایا کہ اِس سے بڑا ظالم کون ہے جو یوں کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ وحی نازل نہ ہوتی ہو۔ مرزا قادیانی اور دیگر مدعیان نبوت یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اُن پر وحی آتی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں اور فرمایا۔ وہ شخص بھی ہے بڑا ظالم ہے اُو کَذِبَ بِآيَاتِهِ جُو اس کی آیتوں کو جھٹلائے وہ وحی الہی کی تکذیب کرتا ہے۔ ایسا کتنا بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے دوسرے پہلو کی وضاحت بھی فرمادی کہ میں تو اللہ کا سچا بنی ہوں اور نزول وحی کا میرا دعویٰ بھی سچا ہے مگر جو اس صداقت کو جھٹلاتا ہے اِس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔

فرمایا، یاد رکھو! إِنَّكَ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ ظلم کا انجام بہت بُرا ہوتا ہے۔ اس چند روزہ زندگی میں تو بچ جائیں گے مگر آخرت کی کامیابی کے دروازے ان کے لیے بند ہیں حقیقی کامیابی اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو ظلم کو چھوڑ کر عدل کا راستہ پکڑے۔ شرک کی بجائے توحید کو اختیار کرے اور نفاق کی بجائے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، تب وہ فلاح کا منہ دیکھ سکتا ہے، ورنہ ظالم تو اس سے محروم ہی رہیں گے۔

واذا سمعوا

الانعام ۶

درس ششم ۶

آیت ۲۲ تا ۲۶

وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَسِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا إِنَّا شُرَكَاءُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾
 ثُمَّ لَمَّا تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا
 مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ
 مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
 أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ
 يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾
 وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ
 إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

ترجمہ:- اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر

کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہیں تمہارے

وہ شریک جن کے پاسے میں تم گمان کرتے تھے ﴿۲۲﴾ پھر نہیں

ہو گی ان کی آزمائش سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے، قسم

ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، نہیں تھے ہم شرک کرنے

والوں میں ﴿۲۳﴾ دیکھو، کیا جھوٹ بولا ہے انہوں نے اپنی

جانوں پر اور گم ہو گئی اُن سے وہ بات جس کو وہ افتراء کہتے تھے (۲۴) اور بعض اُن میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف ، اور ہم نے اُن کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس بات سے کہ وہ اس کو سمجھیں ، اور اُن کے کانوں میں بوجھ ہے ۔ اور اگر دیکھیں وہ ہر قسم کی نشانیوں کو تو نہیں ایمان لاتے اُن کے ساتھ یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھجکا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی (۲۵) اور یہ کہتے ہیں اُس سے اور خود بھی دور ہوتے ہیں اس سے ، اور نہیں ہلاک کرتے یہ مگر اپنی جانوں کو اور نہیں سمجھتے یہ (۲۶)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں مشرکین کا ذکر ہوا، جنہوں نے اپنی فطری اور عقلی قوتوں کو ضائع کر دیا۔ وہ شرک کے مرتکب ہو کر ابد الابد تک نقصان ہی اٹھاتے رہیں گے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے شرک سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ جو لوگ آپ کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کرتے تھے اور اُس کا انکار کرتے تھے اُن کو اُن کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے ، وحی الہی کا انکار کرتا ہے یا نبوت کا تھوڑا دعویٰ کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے بارے میں بیٹے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ یا کسی کو اُس کی ذات ، صفات یا عبادت میں شریک کرتا ہے ، وہ بھی سب بڑا ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کو بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ خَسِرُوا انفسَهُمْ کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال لیا۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکین کے ساتھ پیش

مشرکین کو
ڈانٹ

آیتوں کے اسلوب کا ذکر کیا ہے انکی مختصر سی کیفیت بیان کی ہے اور پھر اتر کتاب شرک پر الکوٹہ پلاٹ پلائی ہے

اِنَّهَا هِيَ وَ يَوْمَ نَحْشُهُمْ جَمِيعًا اس دن کو اپنے دھیان

میں لاؤ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ دن قیامت

کا ہوگا جب تمام انسانوں کو بارگاہِ رب العزت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

اَسٰى كُوًّا مِمْصِرًا هُمْ اَنْ لُّوْكَوْلٍ كُو فَرَمٰئِسُ كُو جَنُوْلٍ نُو شَرِكُ كُو كُو اِيْتُ كُو

شُرِكَاؤُكُمْ اَلَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ تمہارے وہ شرک

کہاں ہیں جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے

اور تمہیں بچالیں گے۔ یہ سوال ہر قسم کے شرک کرنے والوں سے ہوگا۔

انسانی سوسائٹی میں شرک کی جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں سب کے مرتکبین کو

ڈانٹ پلائی جائے گی کہ لاؤ وہ تمہارے شرک آج کہہ کر گئے جن کے

سہارے پر تم اللہ وحدہ لا شریک کو بھول کر ان کے پیچھے لگے۔

قرآن پاک میں دو کمر مقام پر آتا ہے کہ قیامت والے دن تمام عابد

اور معبود اکٹھے ہوں گے مگر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ لوگوں سے پوچھے

گا کہ تمہارے شرک کہاں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں موجود نہیں

ہوں گے۔ اس اشکال کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس

آیت کہ یہ میں شرکیوں کی موجودگی کی نفی نہیں بلکہ دراصل ان کی سفارش کی نفی

ہے کہ وہ موجود ہونے کے باوجود سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ

فرمائیں گے کہ دنیا میں تو تم کہتے تھے "هٰؤُلَاءِ شَفَعَاءُ فَاَعِنَدُ اللّٰهُ"

(یونس) اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب انہیں کہو کہ وہ تمہاری سفارش کریں

اور تمہیں چھڑالیں، مگر وہاں کوئی دم نہیں مار سکے گا۔ "مَنْ ذَا الَّذِيْ

يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ" (بقرہ) کون ہے جو اللہ کی اجازت

کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت اس

کو دیں گے جو سفارش کی شرائط پوری کرے گا۔ یہ محض اُن کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائیگا کہ لاؤ، کہاں ہیں تمہارے شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ مشرکین سے یہ سوال کریں گے۔ لَقَدْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَا كَانُوا سِوَاكَ۔ یعنی جو ہمارے سوا کسی اور کو بھی پوجتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی جواب کیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اُن سے سوال کریں گے، تو اُن کا کوئی جواب نہیں ہوگا إِلَّا أَنْ تَالُوا سِوَاكَ اس کے کہ وہ کہیں گے وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے اس وقت اللہ کے سامنے اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ معبودانِ باطلہ کی سفارش کے معتقد مشرک اپنے شرک سے سکر جائیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اس مقام پر بھی اشکال واقع ہوتا ہے۔ یہاں پر تو فرمایا ہے کہ مشرکین اپنے شرک کا انکار کر دیں گے مگر دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ اقرار کریں گے شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وہ خود اپنے آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ واقعی ہم نے غلطی کی اور کفر و شرک میں مبتلا ہوئے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ میدانِ حشر میں ہر شخص کے حساب و کتاب کے لیے بڑا لمبا عرصہ درکار ہوگا اور اس دوران لوگ مختلف کیفیتوں سے گزریں گے۔ جس موقع پر یہاں انکارِ شرک کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بڑا مشکل وقت ہوگا، لوگوں پر وحشت طاری ہوگی اور وہ کسی چیز کا خیال کیے بغیر شرک سے انکار کر دیں گے مگر اُن کا یہ انکار بے سود ہوگا کیونکہ جو حقیقت واقع ہو چکی ہوگی، وہ چھپائی نہیں جاسکتی اور انہیں حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ پھر دوسرے موقع پر جب اُن کی حالت سنبھلے گی، ہوش و حواس قائم ہوں گے تو اپنے جرائم کا خود اقرار کریں گے۔ اور اگر زبان سے اقرار نہیں کریں گے تو اُن کے اعضا بول کر گواہی دیں گے،

شکر سے
انکار

اُن کے اعمال کے سامنے ہوں گے، فرشتے گواہی دیں گے بلکہ وہ خطِ ارضی گواہی دیگا جس پر جرم کا ارتکاب کیا گیا، لہذا انکار جرم کے ذریعے بچ نکلنے کی کوئی صورت ممکن نہ ہوگی۔

اللہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَيَّ اَلْفُسْهُمُ
 دیکھو! انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا جھوٹ بولا۔ انہوں نے شرک کا انکار
 کر کے خود اپنے آپ پر افتراء کیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا
 يَفْتُرُونَ اور اُن سے وہ باتیں کھو گئیں، جن کا وہ افتراء کیا کرتے
 تھے انہوں نے جو غلط عقیدے بنا رکھے تھے وہ سب ضائع ہو جائیں
 گے، کوئی زعم باطل کام نہیں آئے گا۔ اور انہیں اس کے سوا کچھ نہیں سوجھے
 گا کہ وقتی طور پر شرک کا انکار ہی کر دیں۔

مشرکین کا حال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر بھی
 کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَيْسْتَمِعُ الْمَلِكَ اور اُن میں سے
 بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یعنی آپ کی بات کو بڑے
 غور سے سنتے ہیں مگر اُن کا ارادہ اور نیت آپ کی اتباع کا نہیں ہے
 اس لیے وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ

يَفْقَهُوْهُ ہم نے اُن کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس بات سے
 کہ وہ اس کو سمجھیں۔ مطلب یہ کہ آپ کی بات سننے کے باوجود وہ اس کو
 سمجھنے سے قاصر ہیں کیونکہ اُن کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں انہوں نے
 اپنی صلاحیتوں کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ کوئی بات ان کے دلوں پر
 اثر ہی نہیں کرتی۔ جب کوئی انسان ضد، عناد اور مہٹ دھرمی پر پختہ ہو
 جاتا ہے تو پھر اس کا دل اچھائی کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہی کو کھو بیٹھتا ہے
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے تَعْرِضُ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ
 عُوْدًا عُوْدًا اَفْتِنَ دُلُوبٍ بِرِاسِ طَرِحٍ وَارِدٍ هُوَتِي هِي حَسِ طَرِحٍ اِيك

ایک تنکامل کر چٹائی بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ دل ہر قسم کی بھلائی کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بُرائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر جوں جوں گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے، دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپے لگائے ہیں۔ اور یہاں فرمایا ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے جسکی وجہ سے کسی بات کو ٹھیک طور سے سن ہی نہیں سکتے۔ کان بھاری ہونا محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کانوں سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا۔ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يَخُفُّونَ لَهَا اور وہ ہر قسم کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، گویا وہ لوگ اپنی آنکھوں سے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے سامنے بیشمار تکوینی اور تشریحی نشانیاں اور مستقل معجزات ہیں۔ اللہ کا کلام اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔

اب یہاں پر تینوں چیزوں کا ذکر آگیا یعنی، کان، دل اور آنکھیں، یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہیں "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولٍ رَبِّنَا" اور اللہ بیشک کان، آنکھ اور دل کے متعلق اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا "وَلَا تَكْفُرُوا بِالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ" (انفال) ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر فی الحقیقت انہوں نے نہیں سنا۔ سننے کا فائدہ تو جب ہے کہ انسان سن کر اسے دل میں جگہ دے، اس پر اعتقاد

سکھے اور پھر اُس پر عمل پیرا ہو جائے، جو ایسا نہیں کرتا، اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے۔ امام احمدؒ کی کتاب الصلوٰۃ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یُصَلُّوْنَ وَلَا یُصَلُّوْنَ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں پڑھتے۔ یعنی نماز پڑھنے کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ نماز کے فرائض، واجبات وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے تو ان کا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ امام احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سو مسجدوں میں نماز پڑھی اور دیکھا کہ اکثر لوگ نماز صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، چنانچہ انہوں نے کتاب الصلوٰۃ کے نام سے ایک رسالہ بھی لکھا ہے تاکہ لوگ اپنی نمازیں درست کر لیں۔ غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے کان دل اور آنکھیں تینوں چیزیں برباد ہو چکی ہیں لہذا ان پر کوئی اثر نہیں کر سکتی۔

قرمایا اللہ کے عطا کردہ حواس سے کام ہی نہیں لیتے حتیٰ اذا
 جَاءَ مَوْلَاکَ یُجَادِلُکَ یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں
 تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ یَقُولُ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اور کفر کرنے
 والے یوں کہتے ہیں اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ
 یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ مکے کے مشرکین کی بات ہو رہی
 ہے کہ جب انہیں اللہ کا قرآن پیش کیا جاتا تو وہ اُسے قصے کہانیوں کا نام
 دے کر منہ موڑ لیتے۔ ولید ابن مغیرہ جیسا تعصب اور عنادی مشرک کہتا کہ محمد تمہیں
 عاد اور ثمود کی قوموں کے قصے سناتا ہے، آؤ میں تمہیں بہمن اور اسفندیار کے
 قصے سناتا ہوں، اور اس طرح دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنتا۔

سبق آموز اور
 عبرتناک واقعات

اساطیر یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مفرد اسطورہ ہے اور اُسے
 انگریزی زبان میں بطور سٹوری (STORY) اپنا لیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے
 کہ محمد ہمیں سٹوریاں سناتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک نے پرانی قوموں کے جو واقعات

بیان کیے ہیں، وہ ایام اللہ یعنی تاریخی اعتبار سے نہایت سبق آموز اور عبرت ناک ہیں
 جہاں کہیں ایسا واقعہ بیان کیا ہے، وہاں فرمایا ہے "فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
 الْأَبْصَارِ" اے عقلمندو! اس سے عبرت حاصل کرو اور نصیحت پکڑو
 قرآن پاک نے محض افسانے کے طور پر کوئی واقعہ بیان نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا
 برحق کلام ہے ان واقعات کے بیان سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہے۔
 فرمایا خدا اور رسول کے یہ دشمن لوگوں کو وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ اُس سے
 روکتے ہیں۔ ۸ کی ضمیر قرآن پاک کی طرف بھی جاتی ہے اور مغیبر اسلام
 کی طرف بھی۔ یعنی مشرکین لوگوں کو قرآن پاک سننے سے بھی روکتے تھے اور
 نبی علیہ السلام کی مجلس میں جلنے سے بھی منع کرتے تھے اور اس کے لیے
 غلط پراپیگنڈہ کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ضماور نامی کاہن اور حکیم کا
 ذکر آتا ہے، جب وہ مکہ آیا تو مشرکین نے اُس سے کہا کہ یہاں ایک پاگل
 آدمی ہے (العیاذ باللہ) اُس کے پاس نہ جانا اور نہ اُس کی بات سنا
 وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا میں طبیب ہوں اگر اس آدمی
 سے ملاقات ہو جائے تو اس کا علاج ہی کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بڑی مشکل سے حضور علیہ السلام
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا محمد انی ارفی من ہذا الريح
 میں کئی قسم کی بیماریوں، آسپ اور جنات و جنون وغیرہ کا علاج کرتا ہوں،
 اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر بہت سے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے، اگر آپ چاہیں
 تو میں آپ کا بھی علاج کر دوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُس کو پاس بٹھایا اور
 الحمد للہ سے شروع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے خطبے کی ابتداء
 میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر جب آپ نے اہا بعد کہہ کر اُسکی
 توجہ آگے آنے والی بات کی طرف دلائی تو وہ خطبہ کے ابتدائی حصہ سے
 ہی گھائل ہو چکا تھا اُس نے وہی خطبہ تین دفعہ سنا اور پھر کہنے لگا۔ میں نے
 بڑے بڑے کاہنوں، شاعروں اور خطیبوں کا کلام سنا ہے، مگر مجھے یہ

بات کہیں نہیں ملی جو آپ کے خطبہ میں پائی گئی ہے۔ عرض کیا۔ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں ایمان لاتا ہوں۔

مشترکین مکہ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی مجلس میں جانے سے روکنے کے لیے رشوت ہانپنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اَعْتَشَى اس دور کا بہت بڑا شاعر تھا مکے آ رہا تھا تو ابو جہل اور اس کی پارٹی کو خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام کو بڑی تقویت حاصل ہو جائیگی، کیونکہ اگر اس نے دین اسلام کی تعریف میں کچھ اشعار کہہ دیئے تو لوگوں کی کثیر تعداد متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی چنانچہ انہوں نے اس شاعر کو اناج کے بھرے بھرائے ایک سواونٹ اس شرط پر دیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوگا۔ شوب ابی طالب میں تین سالہ محاصرے کے دوران مشرکین مکہ اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اَعْتَشَى جسے صنابۃ العرب یعنی عرب کا باجا کہا جاتا تھا، ایک دفعہ عکاظ کی منڈی میں آیا، وہاں کسی شخص کی جوان بچیاں تھیں جنہیں کوئی شخص قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس غریب آدمی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اَعْتَشَى شاعر کی دعوت کہہ دو، اگر اس نے خوش ہو کر تمہاری تعریف میں کچھ کہہ دیا تو تمہارا مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اونٹ ذبح کر کے اَعْتَشَى کی پرتکلف دعوت کی۔ اس نے اس شخص کی تعریف میں ایسا قصیدہ کہا کہ اس کی بچیوں کے لیے بڑے بڑے امراء کی طرف سے نکاح کے پیغامات آنے لگے، اس کے کلام میں اتنا اثر تھا، اَعْتَشَى کے اشعار اس کے دلیران میں موجود ہیں۔ بہر حال مشرکین مکہ نے ایسے شخص کو حضور علیہ السلام کی مجلس سے روکنے کے لیے ایک سواونٹ بیع اناج کی رشوت دی۔ یہ شاعر پیامہ کی طرف کسی جگہ کا رہنے والا تھا، جب اپنے وطن کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ہی اونٹنی سے گھر گھر ہلاک ہو گیا۔

فرمایا مشرکین ایک کام تو یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سے اور قرآن پاک

سے تاریخ ادب عربی ص ۱۸۲ (فیاض)

اپنے ہاتھوں
تباہی

سے روکتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وَيَنْتَوْنُ عَنْهُ اور خود بھی پیغمبر اسلام کی ذات مبارکہ اور اللہ کے سچے کلام سے دور رہتے ہیں۔ اگر خود قریب نہ جاتے، مگر دوسروں کو نہ روکتے تو پھر بھی کسی حد تک قابل برداشت تھا مگر ان بد بختوں نے دونوں محاذوں پر بیک وقت حملہ کیا اور دین اسلام اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں وَيَنْتَوْنُ عَنْهُ سے وہ مشرکین مراد ہیں جو ایمان کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود آپ کی طرف داری کرتے تھے اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ ان میں آپ کے چچا ابوطالب پیش پیش تھے مشہور ہے کہ ابوطالب نے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا مگر خود ایمان لانے سے قاصر رہا، آپ کا دین قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی مذمت بیان فرمائی ہے۔

فرمایا یہ لوگ دوسروں کو قریب آنے سے روکتے ہیں اور خود اس سے دور ہٹتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے وَإِنْ يَهْلِكُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ یہ لوگ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو یعنی یہ بد بخت اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، البتہ اپنے ہاتھوں اپنی ہی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سامان کہہ رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور اتنی سمجھ بھی نہیں رکھتے کہ وہ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔

واذا سموا

الانعام ۶

درس ہفتم

آیت ۲۷ تا ۳۰

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ السَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَنَا نُرَدُّ
 وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾
 بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ
 وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ
 لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ
 بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
 قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

۲۷

ترجمہ :- اور اگر آپ دیکھیں اس حالت کو جب کہ ان

کو کھڑا کیا جائیگا آگ پر، تو کہیں گے اے کاش! ہم لوٹائے

جاتے دنیا کی طرف اور ہم نہ جھٹلاتے اپنے رب کی آیات کو اور

ہم ایمان والوں میں ہوتے ﴿۲۷﴾ اُس وقت کی یہ تمنا مفید

نہیں ہو گی (بلکہ ظاہر ہو جائیگی ان کے سامنے وہ چیز جس کو

اس سے پہلے ہم چھپاتے تھے۔ اور اگر ان کو لوٹا دیا جائے

تو پلٹ کر کہیں گے وہی باتیں جن سے ان کو منع کیا گیا ہے

اور بیشک یہ جھوٹے ہیں ﴿۲۸﴾ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر

صرف ہماری دنیا کی زندگی، اور نہیں ہیں ہم (دوبارہ زندہ کمرے)

اٹھانے والے ﴿۲۹﴾ اور اگر دیکھے تو جب ان کو کھڑا کیا

جاٹے گا پروردگار کے سامنے تو فرمائے گا وہ کیا یہ بات سچ
نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں اور ہمیں اپنے رب کی قسم
تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ پس چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم
کفر کیا کرتے تھے (۳۰)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کی تردید فرمائی اور قیامت
میں پیش آنے والے حالات کا تذکرہ کیا، یعنی جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، اور
پھر مشرکین سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شرک کہاں ہیں جن کے متعلق تم گمان کرتے
تھے کہ وہ تمہیں چھڑالیں گے۔ فرمایا اُس موقع پر شرک کا انکار کر دیں گے اور جھوٹ
بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی مذمت بیان فرمائی، اللہ نے اُن کی یہ خصلت بھی بیان فرمائی
کہ جب خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے تو یہ لوگ اُس کا انکار یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ یہ تو پچھلے
لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ خود بھی قرآن پاک اور پیغمبر اسلام سے دُور رہتے ہیں، اور
دوسروں کو بھی قریب آنے سے روکتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے آخرت
کا کچھ مزید حال بیان فرمایا ہے۔

مضامین
قرآن

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت کو پوری تفصیل کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم کا چوتھا مضمون اس کی اپنی حقانیت اور صداقت
ہے۔ یہ چاروں مضامین اللہ نے مختلف سورتوں میں احسن طریقے سے بیان فرمائے ہیں
بعض سورتوں مثلاً سورۃ یونس میں قرآن حکیم کی حقانیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
اسی طرح سورۃ یس میں چاروں مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ان چاروں مضامین کو
بنیادی حیثیت حاصل ہے اس لیے قریب المرگ شخص کے اس کا پڑھنا مستحب ہے
تاکہ اُسکی فکر مستقیم ہو جائے اور وہ بہتر حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ پھر سورۃ
قصص، شعراء، صافات میں رسالت کا تفصیلی بیان ہے، اور اب اسی سورۃ النعام میں
توحید اور شرک کی تمام اقسام کا تذکرہ ہے تاہم باقی باتیں بھی ضمناً آگئی ہیں۔

جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ایمان کا اہم جزو ہے، اس کی ذات، صفات، اسمائے مبارکہ، اس کے اہیاد، کتب سماویہ، قرآن پاک کی حقانیت پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح معاد یعنی قیامت کے وقوع اور جزائے عمل پر ایمان لانا ضروری ہے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں جو کچھ اچھا یا بُرا کر رہا ہے، اُسے اُس کا نتیجہ مل کرے گا۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، نشوونما پاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اُس کا ایک وجود ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے تمام امور انجام دیتا ہے۔ جس طرح اُسے اپنے وجود اور ہستی پر یقین ہے، اسی طرح اُسے جزائے عمل پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ کہ جس اللہ تعالیٰ نے اُسے اس دنیا میں اپنے احکام دے کر بھیجا ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ اُسے اگلے جہان میں بھی کھڑا کرے گا اور پھر اُس سے اُس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ ہر انسان کو اس معاملہ میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔

تو یہاں پر معاد کے ضمن میں کچھ حالات بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ اُس دن مشرکین کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے

وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلٰی النَّارِ رَاۤءِیَ مَخَاطِبٍ ۚ

دیکھے کہ ان کو کھڑا کیا آگ پر۔ یعنی مشرکین کو دوزخ کے کنارے لاکھڑا کیا جائیگا اور وہ اپنے ٹھکانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہاں پر

مخاطب سے مراد سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے

پھر صحابہ کرامؓ اور پھر ہر شخص مخاطب ہے جس تک قرآن پاک کا پیغام پہنچے تو فرمایا جب مشرکین کو دوزخ میں ڈالنے کا وقت آئیگا اور انہیں اُس کے بالکل

قریب کر دیا جائے گا۔ فَقَالُوا تُوۡاۤسُّوۡا۟ وَتُوۡاۤسُّوۡا۟ وَتُوۡاۤسُّوۡا۟ ۚ

اے کاش! ہم دنیا کی طرف لوٹائے جاتے تاکہ اس عذاب سے بچ سکتے۔

بڑی تمنا کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں چلے جائیں وَلَا نُكٰذِبُ بِآیٰتِ

رَبِّنَا ۚ تُوۡاۤبِہِمُ اللّٰہُ تَعَالٰی كِیٰۤیٓمُوۡنٍ ۚ اُس وقت تو

ہم آیاتِ ربانی کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے، مگر اب ہمیں یقین آ گیا ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، لہذا اب ہم اس کی تکذیب نہیں کریں گے۔
 وَذَكَوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور ہم ایمان لائے بن جائیں گے یعنی اے مولا کریم! دنیا میں واپس جا کر ہم تیری وحدانیت پر ایمان لائیں گے، تیرے رسولوں اور کتابوں پر یقین کریں گے اور تیرے تمام احکام کو تسلیم کریں گے۔
 مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَكُوْتَرَىٰ کی خبر مخدوف ہے اور وہ یہ ہے کہ اے مخاطب جب تو دیکھے اُس حالت کو کہ مجرمین دوزخ کے کنارے پر پھٹا کیا جائے گا تو وہ بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ لَسَرَّآئْتَ اَهْرًا عَظِيْمًا آپ کو بڑی خوفناک چیز نظر آئیگی۔ اور پھر جو لوگ دنیا میں واپسی کی خواہش کریں گے اُن سے کہا جائیگا کہ اس وقت تمہارا تمنا کہنا کچھ مفید نہیں ہے، اب اپنے کیے کا بھگتان کرو۔ تمہاری دنیا کی زندگی عمل کی دنیا تھی، اُس وقت کا ایمان اور عمل ہی آج کام آسکتا تھا۔ اب تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، چنانچہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائیگا، اللہ فرمائے گا، کہ دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ہم نے دی تھی، وہ دور ختم ہو چکا، اب دوبارہ واپسی کا کوئی قانون نہیں، لہذا اپنے کیے کی سزا بھگتو۔

تمہارا کھل جائیں گے

فرمایا اُس دن کفار و مشرکین کی دنیا میں دوبارہ آنے کی خواہش تو پوری نہیں ہوگی بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ بلکہ جو چیزیں وہ اس سے چھپاتے تھے، سب ظاہر ہو جائیں گی۔ پہلی آیات میں گمراہ چکا ہے کہ قیامت کے دن ایک موقع ایسا بھی آئیگا جب مجرم لوگ کہیں گے
 ”وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ“ قسم ہے اللہ کی جو ہمارے پروردگار ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کریں گے مگر وہ چھپ نہیں سکیں گے، بلکہ اُن کے اعمال نامے سامنے آجائیں گے، اُن کے اعضا و جوارح اُن کے خلاف گواہی دیں گے

بلکہ جس خطہ ارضی پر جرم کیا گیا، وہ زمین بول اٹھے گی لہذا وہ لوگ اپنے کمر توڑ کر
 پر پردہ نہیں ڈال سکیں گے، بلکہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ اُس دن
 کا خاصہ یہ ہوگا "يَوْمَ تَبْلَى السَّارِبِ" (الطارق) اُس دن تمام
 بھید ظاہر ہو جائیں گے۔ "يَوْمَ يَدْعُرُ صُورٌ لَّا تَخْفَى مِنْكُمْ
 خَافِيَةٌ" (الحاقة) اُس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری
 کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔

امام مبرور فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں "بَدَّ اللَّهُ" اور مَا
 کے درمیان "وَبَالَ" کا لفظ مخدوف ہے اور اس طرح پوری قرأت اس
 طرح بنتی ہے "بَدَّ اللَّهُ وَمَا كَانُوا يُخْفُونَ
 مِنْ قَبْلِ" یعنی اُس دن اُن کے سامنے اُس چیز کا وبال ظاہر ہو
 جائے گا جس کو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے منافقوں کے متعلق تو یہ
 بات واضح ہے کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے
 تھے مگر دل میں نفاق چھپا رکھا تھا۔ اُس دن اُن کا نفاق یا اُس کا وبال کھل
 کر سامنے آجائے گا۔ یا اس جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے لوگ
 چھوٹے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے حقیقتِ حال کو واضح نہیں ہونے
 دیتے تھے بلکہ چھپا جاتے تھے، جیسا کہ سورۃ احزاب میں ہے "وَقَالُوا
 رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا"
 وہ لوگ کہیں گے۔ اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے
 لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر
 تمہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی تو اپنے بڑوں کی اطاعت کرنے سے پہلے
 اچھی طرح غور کر لیتے، اب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے سب
 جہنم میں داخل کئے جائیں گے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ ان لوگوں

نے اپنی استعداد کو خراب کر لیا تھا، لہذا وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
اگر بالفرض ان کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں واپس بھی بھیج دیا جائے تو پھر
بھی وہی باتیں کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور
ہے اور ہر شخص کی اندرونی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ ان کی ساخت کس قسم کی ہے
اور ان کے تصورات کیسے ہیں، یہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسی باتیں
کر رہے ہیں مگر ان کی فطرت نہیں بدلے گی۔ دنیا میں واپس جا کر یہ پھر کفر، شرک
ظلم، نفاق، سجاد اور معصیت کا ارتکاب ہی کریں گے۔ فرمایا وَالْهٰمْ
لَكَذِبُوْنَ۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ دنیا میں ان کا حال یہی رہا
ہے وَقَالُوْا اِنْ هٰی اِلَّا حٰیٰتُنَا الدُّنْيَا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے
لیے اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد ہمیں
کون زندہ کرے گا اور کون حساب کتاب لے گا، آج تک ہم نے کسی مردہ
کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، سب
مردہ زندہ ہو جائیں گے، اعمال نامے ملیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، اور
دوزخ یا جنت میں جانا ہوگا۔ ان چیزوں میں کچھ صداقت نہیں۔ یہ تو زمانے کا چمک
ہے، لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا
یہ لوگ دنیا کی زندگی میں اس قسم کے فاسد عقیدہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور معاد کا انکار کرتے
ہیں۔ اور بعض بد بخت کہتے ہیں رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ
یَوْمِ الْحِسَابِ اے اللہ! ہمیں جو کچھ دنیا ہے، اسی دنیا میں سے لے لے۔
ہمیں قیامت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد بھی
کوئی باز پرس ہوگی لَا بَعْثَ وَلَا حِسَابَ وَلَا نَارَ وَلَا جَنَّةَ شیطان نے
ایسی بڑی بڑھاری کھی ہے کہتے ہیں کوئی دوبارہ زندگی نہیں، نہ حساب کتاب ہے
اور نہ دوزخ جنت ہے بس جو کچھ ہے یہی دنیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ مَعَادُ بَرِّحَقِّ ہے۔ وَعَدًّا عَلَیْكَ

اِنَّا كُنَّا فَعَلَيْنَ (سورۃ انبیاء) ہمارا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ہم قیامت ضرور برپا کر دیں گے۔ پھر ہر شخص سے باز پرس ہوگی اور اس کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر اے مخاطب! وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوا عَلٰی رُءُوسِهِمْ جب تو دیکھے اس حالت کو جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائیگا۔ تو اس وقت ان مکتوبین کی کیا حالت ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے۔ کہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براہ راست باز پرس کریگا اور درمیان میں کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہر سول کا جواب خود ہی دینا پڑیگا۔ سورۃ نحل میں آتا ہے تَالِي كُلِّ نَفْسٍ مِّجَادِلٌ عَنْ نَفْسِهَا ہر جان کو اپنی طرف سے خود ہی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اس دنیا کی طرح کسی وکیل یا بیرسٹر کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی جو مجرمان کی طرف سے جواب دعویٰ داخل کریگا۔

فرمایا جب ان کو حق تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا قَالَ تُوَالِدُ اللّٰہِ تَعَالٰی پوچھیں گے اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا معاد اور بعثت بعد الموت واقع نہیں ہوا؟ اب جب کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہو، اب بتاؤ کہ میرے انبیاء نے جو تمہیں بتایا تھا کیا وہ سچ نہیں تھا؟ اس وقت کہیں گے قَالُوا بَلٰی وَرَبِّنَا ہمارے پروردگار کی قسم یہ تو بالکل برحق ہے ہم نے غلطی کی اور ہم دھوکے میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اب اپنے کفر و شرک کا مزہ چکھو۔ تم نے معاد کا انکار کیا۔ اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار کیا۔ قرآن کی صداقت کو تسلیم نہ کیا، اس کا بدلہ اب پالو۔ معاد کا مزید ذکر آگے بھی آ رہا ہے۔

اللہ کے
حضور پیشی

واذا سمعوا >

الانعام ۶

آیت ۳۱ تا ۳۳

درس ہشتم ۸

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ
 السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا
 فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ
 ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءٌ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
 إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ
 الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ
 الظَّالِمِينَ بَايِتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ :- تحقیق خائے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے

جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو یہاں تک کہ جب آپہنچی ان کے

پاس قیامت اچانک تو پھر کہیں گے، اے افسوس ہمارے

اُس پر جو ہم نے کوتاہی کی ہے اس بارے میں، اور وہ

اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر، سنو! برا ہے وہ

بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے ﴿۳۱﴾ اور نہیں ہے دنیا کی

زندگی مگر کھیل اور دل بہلاؤ اور البتہ آخرت بہتر ہے ان لوگوں

کے لیے جو ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں ﴿۳۲﴾ تحقیق ہم

جانتے ہیں کہ بیشک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو کہتے

ہیں یہ لوگ، پس بیشک یہ نہیں جھٹلاتے آپ کو لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار میں

﴿۳۳﴾ کہتے

گذشتہ دروس میں اللہ نے مشرکین کا رد کرنے کے بعد معاد کا مسئلہ بیان فرمایا "يَوْمَ نَخْتُمُ عَنْهُمْ سُرُوٰهٖمْ جَمِيْعًا" جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر مشرکین کے بڑے انجام کا ذکر کیا اور ان کے اس قول کو دہرایا کہ وہ کہتے ہیں "اِنَّ هٰٓى اِلَّا حَيٰٓاتُنَا الدُّنْيَا نَحْيٰٓيْنَهَا لَعَلَّ نَحْنُ اَوْرَٰثُهَا" تو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں "وَمَا نَحْنُ بِبٰٓعُوۡرِيۡنَ" اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ گویا انہوں نے معاد کا صریحاً انکار کر دیا۔ اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کیونکہ توحید، رسالت، قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ معاد پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جو شخص اس عقیدے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ قیمت کے دن جو بڑا معاملہ پیش آنے والا ہے، اس کا کچھ تذکرہ گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اب آج کے درس میں ان کا حال مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے ان آیات میں بھی مکذبین کا رد فرمایا ہے

ارشاد ہوتا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِلِقَآءِ اللّٰهِ تحقیق ختمائے میں مبتلا ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ لِقَاءُ اللّٰهِ سے یہی مراد ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ چیز اجزائے ایمان میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے اَنْ تُوۡمِنَ بِالْبَعۡثِ وَبِلِقَآئِهِ یعنی دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دہی کرنے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس بابے میں شک کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا۔ ایمان، توحید اور معاد کا منکر اپنی فطرتِ سلیمہ کو بھی بگاڑتا ہے اور عقلِ سلیم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہی

عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ دُنیا میں تو ایسا انسان عقل و فطرت کے نقصان میں مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں ابدی سزا کا مستحق ہو جائیگا اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حُسران کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ عصر میں بھی فرمایا ہے "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ" تمام انسان خسارے میں ہیں "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِحُزْنِ الْإِنْسَانِ" جو ایمان لائے اور دیگر امور انجام دیے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو محض بلا یا ہے یہ چیز عقل سلیم، تعلیم انبیاء اور وحی الہی کے بھی خلاف ہے اور زندہ ضمیر بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے۔ معاد کی تکذیب انسان کے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث ہوگی۔

انفرادی اور
مجموعی موت

فرمایا، دُنیا میں تو معاد کا انکار کرتے رہے حتیٰ اِذَا جَاءَ نَهْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً يَّهَاتُهَا تَكْذِبُ۔ وہ گھڑی اچانک آگئی۔ السَّاعَةُ سے مراد کل کائنات کی مجموعی موت یعنی قیامت بھی ہے اور ہر انسان کی انفرادی موت بھی۔ یہ دونوں موتیں اچانک آجاتی ہیں اور کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اُس کی موت کہاں اور کب واقع ہوگی۔ سورۃ لقمان میں موجود ہے "وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ" کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں اور کس وقت آئیگی۔ اس سورۃ کی ابتداء میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق اور نور و ظلمات کا بنانے والا ہے۔ تمام علویات اور سفلیات کا خالق، مالک اور متصرف وہی ہے۔ وہی مجبور و برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں بمشکل کشا، حاجت روا اور گھڑی بنانے

والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی مہم دان، مہم بین اور مہم توان نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے دو قسم کی مہلتیں مقرر کیں۔ ایک تو اَجَلًا ہے جو ہر انسان کے لیے ایک مقررہ مدت ہے جس کے بعد اُسے موت آنی ہے۔ یہ محدود موت ہے اور اس کا وقت کسی انسان کے علم میں

نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کو بتلادیتا ہے۔ حمل قرار پانے کے چوتھے
 مہینے میں اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ مولا کریم! پیدا ہونے والے اس
 انسان کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کس قدر ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت
 اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں فرشتوں کے رجسٹروں میں نوٹ کر دیتا ہے اور پھر اس
 کے مطابق اُس انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے اور آخر کار مقررہ وقت پر موت کی
 آغوش میں چلا جاتا ہے، تاہم موت کی جگہ اور وقت کے متعلق خود انسان کو
 معلوم نہیں ہوتا اور پھر وہ اچانک آجاتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو تعلیم دی
 گئی ہے کہ وہ ہر وقت محتاط رہے، ایمان اور نیکی کو اختیار کیے رکھے، کیونکہ
 کسی انسان کے علم میں نہیں ہے کہ اُس کی موت کب آجائگی۔
 اور دوسری آیت **مَتَّعْنَاهُم مَّا شَاءُوا** سے یہ پوری کائنات
 کی مجموعی موت یعنی قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے واقع ہونے کا
 علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ صرف نشانیاں بتلائی ہیں، مگر یہ بھی اچانک آجائے
 گی۔ بہر حال اس آیت کریمہ میں ساعت سے مراد دونوں اموات ہیں یعنی انسان
 کی انفرادی موت بھی اور اجتماعی بھی۔ پھر جب یہ آجاتی ہے تو ایک سیکنڈ
 بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور انسان کی مادی اور عملی زندگی ختم ہو جاتی ہے،
 اس کے بعد والی زندگی جزائے عمل کی زندگی ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں
 کرتا ہے، اُس کا بدلہ پانے کی زندگی ہے، اُسے جزا، یا سزا ملے گی جس کی ابتداء
 بزمِ رخ سے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بزمِ رخ یا قبر کی زندگی ایسی ہی ہے جیسے کسی
 ملزم کو جہتی سزا کا فیصلہ ہونے تک جوالات میں رکھا جاتا ہے اور پھر فیصلہ ہونے
 پر اُسے اصل سزا دی جاتی ہے یا بری کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے
 لیے بزمِ رخ کی راحت یا تکلیف عارضی نوعیت کی ہوتی ہے، پھر جب
 حشر کو ان کے تمام اعمال کا فیصلہ سنا دیا جائے گا تو پھر یا تو دائمی راحت
 میں چلا جائے گا یا مقررہ سزا کا مستوجب ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد

ہے مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جو شخص مر گیا اُسکی
قیامتِ صغریٰ تو برپا ہوگی۔ ہر انسان کی انفرادی ساعت تو اس کی موت
کی گھڑی ہے اور تمام انسانوں کی ساعت قیامت کا دن ہوگی۔

اپنے لیے
پر افسوس

فرمایا جب وہ قیامت کی گھڑی آن پہنچے گی قَالُوا تَوٰمَنكِرِينَ کہیں گے
يَحْسَبُونَ عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا اے افسوس ہمارے جو ہم نے
اس بائے میں کوتاہی کی۔ مگر اس وقت کی ندامت اور افسوس کچھ کام نہ
آئیگا، وہاں تو ایمان ہی کام آنے والی چیز ہے۔ قیامت کی تکذیب کرنے
والوں کو اس وقت ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، سورۃ حشر میں ہے
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرجاؤ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا محاسبہ کرے کہ اُس نے کل یعنی
قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ قیامت کے دن تو نیک عمل ہی کام
آئیگا، اپنی بدکرداری پر افسوس کا اظہار کچھ فائدہ نہ دے گا۔

اعمال کا بوجھ

اور پھر اُن مکنذہین کی حالت یہ ہوگی وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ
عَلٰی ظُهُورِهِمْ کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ بوجھ
اٹھانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان ہر بُرے عمل کو اپنی پشت پر
اٹھائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا
اے لوگو! یاد رکھو! خیانت نہ کرنا، جو آدمی خیانت کا مرتکب ہوگا، تو ہر
خیانت شدہ چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر کسی کی بگڑی چوری کی ہے تو
قیامت والے دن اُسے اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اگر گائے بھینس خیانت
کی ہے تو اُسے بھی اٹھانا پڑے گا، اونٹ چوری کیا ہے یا کوئی اور چیز غضب
کی ہے تو ہر چیز اُسے اپنے سر پر اٹھانی ہوگی حتیٰ کہ اگر کسی کی ایک بالشت
زمین بھی دبائی ہے تو طوقہ اِلٰی سَبْعِ اَرْضَيْنِ تو ساتوں
زمینوں تک کے اس بھگڑے کو گلے کا طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور

وہ اُسے کھینچ کر لائے گا۔

قیامت کے حالات کو اس دُنیا کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیئے
وہاں کے حالات بالکل مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں اتنی
طاقت پیدا کر دیں گے کہ بڑی سے بڑی چیز بھی اٹھانے کے قابل ہوگا۔
حضور علیہ السلام نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہ حق ہے۔ ہر نیکی بدی کو اپنی پشت
پر اٹھانا ہوگا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے نیک
اعمال اُن کے لیے سواری کا کام دیں گے، اس کے برخلاف بُرے لوگوں
کے بُرے اعمال خود اُن لوگوں پر سواری کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ انسان کا معروف جب اُس کے قریب آئے گا تو اُس کو خوشخبری دیگا۔
اور جب منکر متعلقہ آدمی کے قریب آئے گا تو وہ شخص کے گا کہ تو پیچھے رہ
مگر وہ منکر اُس کے ساتھ آکر چپٹ جائے گا۔

یہ ترقیامت کے دن کا حال ہے اور برزخ کے متعلق بھی حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ آدمی کے نیک اعمال خوبصورت انسانی شکل میں متشکل ہو کر اُس کے
پاس قبر میں آئیں گے تو وہ متعجب ہو کر پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے
گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں جو تیرے ساتھ مانوس ہونے کے لیے آیا ہوں،
تا کہ تجھے قبر میں وحشت نہ ہو۔ فرمایا انسان کے بُرے اعمال نہایت قبیح شکل
میں اُس کے پاس آئیں گے جنہیں دیکھ کر وہ سخت خوفزدہ ہوگا، اہم شاؤلی
بھی فرماتے ہیں کہ بُرے اعمال خاص شکلوں میں آکر انسان کے اوپر سوار ہو جائیں
گے اور اُن کا بڑا بوجھ ہوگا۔ یہ بوجھ لوگ اپنی گردنوں اور پشتوں پر اٹھائیں گے

اللہ نے فرمایا اَلَا سَاءَ مَا يَزِدُّونَ بہت بڑا بوجھ ہے جسے وہ
اٹھائیں گے۔ انہوں نے معاد کا انکار کیا مگر آج اُسکا بدلہ چھ لیں گے انہیں معلوم ہو جائیگا کہ جس چیز کا وہ
انکار کرتے ہیں وہ بہ حق ہے اور آج وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔

معاد کا انکار انسان اسی دنیا میں کرتا ہے مگر اس دنیا کی حقیقت

کیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور ول کا ہلوا و لعب یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو، جس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو۔ آج کل دنیا میں کھیلوں کو بڑا عروج حاصل ہے ان کے لیے خطیر رقم صرف کر کے وسیع انتظام کیے جاتے ہیں حکومتوں میں کھیلوں کی وزارتیں قائم ہیں کھیلوں کی ٹیمیں بیرون ملک بھیجنے پر لاکھوں روپے صرف کیے جاتے ہیں اور اس کی غرض وغایت محض تفریح ہے۔ اور لہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو مشغول کر دے۔ بچے کھیل کھیلتے ہیں کوئی بادشاہ بن جاتا، کوئی وزیر اور کوئی چور، بس تھوڑی دیر شغل کیا اور ختم، حاصل کچھ نہ ہوا۔ دنیا کی زندگی بجائے خود ایک کھیل ہے۔ بڑے لوگ اقتدار پر قبضہ کر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، بعض کو وزیر بنا رکھا ہے اور بعض ان کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس محدود اور ناپائیدار زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرْوَ بِالْحَدِيدِ" یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔

سریر زندگی

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسا قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ کل الناس یعدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها جب کوئی شخص رات گزار کر صبح صحت و تندرستی کے ساتھ بیدار ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت نصیب ہوتی ہے اس لیے انسان کے تین سو ساٹھ جوڑوں میں سے ہر عضو پر شکمہ یہ واجب ہو جاتا ہے، لہذا ہر عضو کی طرف سے صدقہ دنیا ضروری ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور! اس کی تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر عضو کی طرف سے ہر روز صدقہ ادا کرے، فرمایا، انسان کی ہر نیک بات اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہے کسی کو نیکی کی بات بتلائی یا برائی سے منع کر دے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ راستے

میں سے کاٹا یا پتھر ہٹا دے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے۔
 فرمایا اور کچھ نہیں تو چاشت کے وقت دو رکعت نفل ہی تمام اخضار کی
 طرف سے صدقہ بن جائے گا۔ کوئی شخص صحیح اعتقاد کے ساتھ "بسم اللہ"
 کہے تو وہ بھی اُس کے لیے صدقہ ہوگا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا بڑا
 قیمتی سرمایہ عطا کیا ہے، اس کے ساتھ اچھا سودا خریدو کیونکہ یہ سرمایہ قیمتی ہونے
 کے ساتھ ساتھ عارضی بھی ہے۔ انسان کی زندگی کی ناپائیداری کی مثال ایسی ہے
 جیسے برف کی ڈلی جو گرمی کی وجہ سے ہر آن پگھلتی رہتی ہے یہ

عمر برف است و آفتاب تومز

اند کے ماند و خواجہ غرہ ہنوز

زندگی برف کی ڈلی ہے مگر صاحبِ زندگی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں،
 دھوپ تیز ہے اور برف پگھل رہی ہے، وہ کتنی دیر تک ٹھہر سکے گی۔ بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی منافع عطا فرمائی ہے تاکہ اس سے نفع مند
 تجارت کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس قیمتی پونجی کو لگا کر بعض انسان واقعی
 اپنے نفس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے ایمان، توحید اور نیکی جیسی قیمتی چیزیں
 خرید کر اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں۔ مگر بعض ایسے بھی ہیں جو اسی
 پونجی سے کفر، شرک، نفاق اور بدعات خرید کر اپنے نفس کو ہلاک کر لیتے ہیں
 ایسی تجارت ہیں انہیں نفع کی بجائے سرمایہ نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 زندگی کے مصروف کو تجارت کی مثال دے کر سمجھایا ہے جسے تاجر لوگ بڑی
 آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص کی اصل پونجی ہی ضائع ہو جائے وہ کس
 قدر نقصان میں ہوتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا
 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حِينَ لَوْ كَانُوا يَدْرُسُونَ
 کا انکار کر دیا۔ وہ بڑے خسارے میں پڑ گئے یہ دنیا کی زندگی بظاہر جلد ختم ہو

جانوالی ہے مگر ہے بڑی قیمتی۔ اس سے انسان اچھا سودا خرید کر دائمی عیش و آرام کا مستحق بن سکتا ہے۔

فرمایا جو شخص اس سرمایہ زندگی سے آخرت کا سودا کرتا ہے وَلَدًّا اٰرَ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو لوگ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے ہیں، اپنی قیمتی زندگی کو غلط کام میں نہیں لگاتے بلکہ اس سرمایہ کو اچھے کاموں پر لگاتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے فرمایا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ اللہ نے تمہیں عقل جیسا قیمتی جوہر عطا کیا ہے تم اسے بروئے کار لاکر حقیقت کو سمجھتے کیوں نہیں۔ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں آخرت کو سنوارنے کا سامان پیدا کرو اور اس عمر عزیز کو فضول کاموں پر نہ گنوا بیٹھو۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں معاد کے منکرین اور مشرکین کا رد فرمایا ہے۔

حضور علیہ السلام کو تسلی

اب اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مذبذبین کی تکذیب سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ قَدْ نَعْلَمُ تَحْقِیْقًا ہم جانتے ہیں اِنَّكَ لَیَحْزَنُكَ الَّذِیْ یَقُوْلُوْنَ کہ وہ چیز آپ کو غم میں ڈالتی ہے، جو یہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ، ایمان، توحید، رسالت اور معاد کا انکار کر کے، قرآن پاک کو اساطیر الاولین کہہ کر اور وحی الہی سے استہزا کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مگر آپ یاد رکھیں فَاِنَّهُمْ لَا یُکَذِّبُوْنَكَ بیشک یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، کیونکہ جب مشرکین مکہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے بارہ میں پوچھا جاتا تو کہتے بڑا سچا ہے۔ سورۃ یونس میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ میں نے تمہارے درمیان عمر کا ایک بڑا حصہ یعنی چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے، کبھی میں نے

جھوٹ بولا ہے؟ یا کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو سب جواب دیتے کہ آپ صادق اور امین ہیں، مگر جب آپ نے خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا تو جھوٹا قرار دے دیا۔ وحدانیت کا پیغام دینے کے ساتھ ہی ساری برائیاں پیدا ہو گئیں۔ ابو جہل اور دیگر کفار آپ کی صداقت و امانت، شرافت اور نیک نیتی کے مداح تھے مگر اپنی سیادت کو قائم رکھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ معرکہ بدر کے دوران احنس بن شریق نامی مشرک نے ابو جہل سے پوچھا تھا کہ خدا را یہ تو بتاؤ کیا محمد واقعی جھوٹا ہے تو ابو جہل کہنے لگا، نہیں، وہ سچا ہے۔ اُس نے کہا پھر اسکی مخالفت پر کیوں تلکے بیٹھے ہو، تو کہنے لگا، قحطی بن کلاب کے خاندان میں پہلے سے لوہا بھی موجود ہے، حجابت بھی ان کے پاس ہے اور سقاہت بھی ہے اور اب اگر نبوت بھی انہی کے پاس چلی گئی تو باقی قریش کہاں جائیں گے معلوم ہوا کہ ان کی مخالفت محض جوہد راہٹا کے لیے تھی، وگرنہ دل سے وہ حضور کو بالکل سچا سمجھتے تھے قرآن پاک کے بیان کے مطابق بعض لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جوہد و گرام آپ لائے ہیں، وہ جھوٹا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللّٰهِ يَتَّخِذُونَ بَلٰكَةً ظَالِمِ اللّٰهِ تَعَالٰی کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آیات الہی کا انکار ہو گیا تو ایمان، توحید، رسالت، کتب سماویہ، معاد، جزائے عمل غرضیکہ ہر چیز کا انکار لازم آگیا۔ تو فرمایا انہیں آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پروگرام سے اختلاف ہے جس کو اپنانے سے انہی سیادت ختم ہو جاتی ہے اور دنیا میں جاہ و اقتدار کو بڑھی اہمیت حاصل ہے جس کے چھین جانے کے خوف سے مکہ کے مشرکین ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔

حب مال اور
حب جاہ

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں حب مال اور حب جاہ ہی ساری خرابیوں کا باعث بنتی ہیں۔ حب مال سے حلال عوام کی تمیز اٹھ جاتی ہے اور انسان ہر قسم کے ظلم و ستم پر آمرا آتا ہے۔ اسی طرح حب جاہ کی خواہش دنیا میں بد امنی کا باعث بنتی ہے۔ ہر ملک، شہر اور گھر میں حب جاہ ہی کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور پھر بین الاقوامی سطح پر بھی ہر ملک دوسرے کو زیر کر کے دنیا پر تسلط جانا چاہتا ہے۔ آج کی دنیا میں روس اور امریکہ کی سرد جنگ کس لیے ہے؟ چین اور روس ایک نظریہ ہونے کے باوجود کس چیز کے لیے ہر سر پیکار ہیں؟ برطانیہ اور امریکہ کی اندرون خانہ مخالفت کی کیا وجہ ہے؟ ان سب کے پیچھے حب جاہ کی خواہش ہی کار فرما ہے۔ ہر ملک دنیا میں اپنی سیادت چاہتا ہے، فرعون، نمرود، قیصر و کسری بھی اسی لعنت میں گرفتار تھے اور ابو جہل بھی اسی بڑائی کی خاطر حضور علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ دل برداشتہ ہوں۔ درحقیقت ان لوگوں کی مخالفت آپ کی ذات سے نہیں بلکہ وحی الہی کے پروگرام کے ساتھ ہے۔

واذا سمعوا >

الانعام ۶

آیت ۳۴ تا ۳۶

درس نہم ۹

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ
 مَا كَذَّبُوا وَذُوحَىٰٓ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
 لِكَلِمَةٍ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾
 وَإِنْ كَانَ كِبْرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ
 أَنْ تَبْتَغَىٰ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلْمًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ وَكُلُوشَاءُ اللَّهِ لَجَعَهُمْ عَلَىٰ
 الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ
 رَأَىٰٓ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

تجسس یا انصاف
 وقت منزل عند البعض علی یسمعون

ترجمہ :- تحقیق جھٹلائے گئے آپ سے پہلے بہت
 سے رسول، پس انہوں نے صبر کیا اُس بات پر جو ان کی
 تکذیب کی گئی اور انکو تکلیف پہنچائی گئی یہاں تک کہ آگئی
 ان کے پاس ہماری مدد۔ اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا
 اللہ کے کلمات کو اور البتہ آئے ہیں آپ کے پاس اللہ کے
 رسولوں کے کچھ حالات ﴿۳۴﴾ اگرچہ آپ پر شاق ہے ان لوگوں
 کا اعراض کرنا پس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ تلاش کر لیں
 سزگ زمین میں یا کوئی سیڑھی لگا لیں آسمان میں، پس لے

آئیں ان کے پاس کوئی نشانی اور اگر اللہ چاہے تو جمع کر دے
ان سب کو ہایت پر، پس آپ نہ ہوں نادانوں میں
سے (۳۵) بیشک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں
اور مردوں کو اٹھائیگا اللہ تعالیٰ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹے
جائیں گے (۳۶)

ربط آیات

گذشتہ کئی دروس سے کفر و شرک کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاد کا انکار
کرنے والوں کا ذکر کیا، پھر ان کے یہودہ اعتراضات کا جواب دیا۔ گذشتہ آیات میں فرمایا
کہ تکذیب کرنے والے خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت کف افسوس ملیں گے
جب کسی کو موت آجائیگی یا قیامت واقع ہوگی مگر اس وقت کی ندامت کچھ مفید نہ ہوگی۔
ان لوگوں کو اپنے کفر، شرک اور معاصی کا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھانا پڑے گا۔ اللہ نے واضح
فرمایا کہ یہ دنیا تو ناپائیدار بلکہ فانی ہے۔ یہ کھیل کود کی طرح جلد ہی ختم ہو جائیگی اور پھر ہر ایک
کو دائمی زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ فرمایا خدا خوفی رکھنے والوں اور کفر و شرک اور معاصی سے
پرہیز کرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی اور فرمایا کہ کفار و مشرکین کی ایذا رسانیوں سے ہم
واقف ہیں۔ ان کی طرف سے انکار اور دیگر یہودہ باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، مگر
آپ کے لیے صبر ہی بہترین ہتھیار ہے حقیقت میں یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے
بلکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو تو سچا، امین اور پاکیزہ اخلاق کا مالک
تسلیم کرتے ہیں مگر جو پروگرام آپ پیش کر رہے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار
نہیں۔ اس طرح آپ کو تسلی دی گئی۔

صبر پر ہمت

اب آج کے درس میں بھی مختلف انداز سے آپ کو تسلی دی گئی تاکہ آپ رنجیدہ
نہ ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ اَلَيْسَ
پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اور ان کے لئے ہوئے پروگرام کو تسلیم

کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ لوگ آپ سے بھی وہی سلوک کر رہے ہیں تو آپ اس سے گھبرائیں نہیں بلکہ پہلے انبیاء کا طریقہ ہی اختیار کریں۔ فَصَبِرُوا عَلٰی مَا كُذِّبُوا انہوں نے تکذیب شدہ چیز پر صبر کیا، برداشت کیا وَاُوذُوا اور انہیں ایذا پہنچائی گئی۔ اللہ کے اکثر نبیوں کو تکالیف میں مبتلا کیا گیا مگر وہ ہمیشہ صبر و تحمل سے ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے حَتّٰی اَتَتْهُمْ نَصْرُنَا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آن پہنچی۔ اور مگر بین اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگئے مقصد یہ ہے کہ جس طرح سابقہ انبیاء نے صبر و برداشت کا دامن تھامے رکھا، آپ بھی ویسے کریں تو اللہ کی مدد اپنے وقت پر پہنچ جائیگی، لہذا آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی موقع پر ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بیوہ بات کی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا رَحِمَ اللّٰهُ مُوسٰی لَقَدْ اُوذِيَ بِاَكْثَرِ مِنْ هٰذَا فصاحب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا، تو میں بھی ان کے اسوہ کے مطابق صبر کا دامن ہی پکڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حد تک ذہنی گرفت پہنچائی گئی کہ ایک فاحشہ عورت کو مجمع عام میں کھڑا کر کے اس سے کہلوا یا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے برائی کا ارتکاب کیا ہے (العیاذ باللہ) حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن پاک میں اشارت موجود ہے کہ انہیں کس کس طرح سے جسمانی، ذہنی اور مالی تکالیف پہنچائی گئیں۔ خود حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی ایذا و رسانی کر کے آپ کی گرفت کا باعث بنے مگر تمام انبیاء کی طرح آپ نے بھی صبر کا دامن چھوڑا۔ صبرِ ملتِ ابراہیمی اور دینِ اسلام کا بہت بڑا اصول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! تمہیں

کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ پورا ہو کر رہے گا مگر اس سے پہلے ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کرتا ہوگا۔

فرمایا وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ تحقیق اس سے پہلے آپ کے پاس رسولوں کے حالات (بذریعہ وحی) پہنچ چکے ہیں۔ آپ ان حالات کو پیش نظر رکھیں اور سابقہ انبیاء کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے تکالیف برداشت کریں اور صبر برپا قائم رہیں۔

فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اِنْ كَابُولِ حَقِّ سِیْلِهِمْ خَافُوا مِنْكُمْ اِنْ كَابُولِ حَقِّ سِیْلِهِمْ خَافُوا مِنْكُمْ
 سے اعراض آپ پر شاق گزرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک میں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ آپ کی قوم کے لوگ ایمان کو قبول کر لیں اور دوزخ سے بچ جائیں۔ مگر وہ لوگ بعض اوقات سخت بیسودہ باتیں کہتے تھے۔ معجزات کے لیے فرمائشیں کرتے تھے کہ فلاں نشانی آجائے تو ہم مان جائیں گے اور حضور علیہ السلام کی دلی خواہش بھی ہوتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مطلوبہ نشانی ظاہر فرمائے تو شاید وہ ایمان لے آئیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ کی یہ خواہش امور خیر کے متعلق ہے مگر یہ تکوینی مصلحت کے خلاف ہے۔ حکمت الہی میں سب لوگوں کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے اس قسم کی خواہش ابطال حکمت کے مترادف ہے، اس لیے آپ ایسی تمنا پر اصرار نہ کیا کریں سورۃ کہف میں ہے۔ قَلْعَكَ بِأَخِي لَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَسَفًا اے پیغمبر! آپ اس بات پر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ اس آخری پیروگرام پر ایمان نہیں لاتے آپ اتنا زیادہ غم نہ کیا کریں۔ آپ ان لوگوں پر کوئی داروغہ یا جبار تو نہیں ہیں کہ ان سے زبردستی ایمان قبول کرائیں اور پھر ان کا ایمان لانا ضروری بھی تو نہیں ہے۔

قبول حق کے
 لیے شدید خواہش

قبولِ حق اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی شخص میں قبولِ حق کی صلاحیت موجود ہے اور کس میں نہیں ہے۔ لہذا اس نے ایمان لانے کا اختیار مکمل طور پر بندے پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی صوابدید پر کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے "قَدْ تَبَيَّنَ بَيْنَ الرُّسُلِ مِنْ الرُّسُلِ" (البقرہ) ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا "لَا يَكْرَاهُ الْدِّينَ" (البقرہ) دین میں جبر بھی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف ہے۔ لہذا آپ اس معاملہ میں زیادہ دلبرداشتہ نہ ہوں۔

اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کے تمام ممکنہ اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ اس نے انسان کو زندگی، وجود، صحت، عقل اور جو اس ظاہرہ و باطنہ عطا کیے ہیں۔ اس کے ارد گرد بیشتر نشانیاں مہیلا دی ہیں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، ان کی طرف وحی نازل فرمائی، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول نہیں کرتا تو پھر اُسے جہنم میں جانے دیں۔ اس کے متعلق آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی "وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ"

اصحاب الجحیم (۱۱۹:۲) آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ تو خود دوزخیوں سے سوال ہوگا "مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ" (۴۲:۷۵) تم جہنم میں کس وجہ سے آئے تو وہ خود اعتراف کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ہم اہل باطل کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور ہم قیمت کے دین کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا آپ سے مجرمین کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آپ کے ذمے تو خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے آپ اپنا فرض ادا کریں اور ان لوگوں کی مطلوبہ نشانی کے لیے تمنا کریں۔

فرمایا ان کا حق سے اعراض آپ پر شاق گزرتا ہے فَاِنَّ
 اسْتَطَعْتُمْ پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اَنْ تَبْتَغِي لِنَفْسِكُمْ
 فِي الْاَرْضِ کہ زمین میں سرنگ تلاش کر لیں اَوْ سَلَمًا فِي السَّمَاءِ
 یا آسمان میں سیڑھی لگالیں، تو آپ ایسا کر گزریں فَتَاْتِيَهُمْ بِالْاَيِّ
 پھر لے آئیں اُن کے لیے کوئی نشانی جو وہ طلب کرتے ہیں۔ اس ضمن میں
 پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی معجزہ یا نشانی کا ظاہر کرنا آپ کے اختیار میں نہیں
 ہے اور اگر بالفرض اللہ تعالیٰ مطلوبہ نشانی ظاہر بھی فرمائے تو اس بات
 کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ضرور ہی ایمان لے آئیں گے ان کا سابقہ ریکارڈ تو
 ان کے حق میں نہیں جاتا۔ مثلاً مشرکین مکہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دینے کا معجزہ
 طلب کیا۔ جب اللہ کی مشیت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا
 اور چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک حصہ پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف
 چلا گیا۔ یہ واضح نشانی دیکھنے کے بعد کہنے لگے "سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ" (۲۰۵۲)
 یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر بندی کہ
 دی گئی ہو اور حقیقت میں چاند نہ پھٹا ہو، لہذا باہر دور دراز سے آنے والے
 لوگوں سے دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب قافلے آئے تو ان سے پوچھا
 گیا۔ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ فلاں دن فلاں مقام پر ہم نے چاند کو دو ٹکڑے
 ہوتے دیکھا۔ مگر اس کے باوجود مشرکین مکہ ایمان نہ لائے اور اپنی بات پر
 اڑے رہے۔

فرمایا یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لائیں
 گے، اَلْبَتَّةَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى
 اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے، سب کو مجبوراً ایک
 راستے پر لگا دے مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ جیسے کہ پہلے
 عرض کیا کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ تمام دلائل اس کے سامنے

رکھو کہ پھر اُس کو اختیار دیا گیا ہے "صَرَ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ" (سورۃ کہف) جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے بتا دیا "إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا" (کہف) ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ایمان قبول کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کے اپنے اختیار ہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے یا ناراض۔

محبت آمینز
وعظ و عتاب

فرمایا اگر اللہ چاہے تو سب لوگ ایمان قبول کر لیں، مگر آپ کیلئے یہی ہے "فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ" کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت اور وعظ کے طریقے پر فرمایا ہے کہ میری حکمت کے خلاف تمنا کر کے آپ نادان نہ بنیں۔ اس جملے میں محبت آمینز عتاب بھی ہے اور وعظ و نصیحت بھی کہ حد سے آگے نہ بڑھیں، ان لوگوں کے لیے جس قدر ضروری ہے اسی قدر اللہ سے طلب کریں اور ان کی ہر خواہش کی تکمیل کی تمنا نہ کریں۔

جہل کا لفظ علم اور علم دونوں کے مقابل میں آتا ہے یہ لفظ علم سے بے بہرگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بربادی کے خلاف واقع ہونے والی چیز کے لیے بھی۔ عربی شاعر کہتا ہے یہ

أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا
فَجْهَلٌ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ .

خبردار! ہمارے خلاف کوئی جہالت یعنی زور آزمائی نہ کرے کیونکہ ہم زور آزماؤں سے بڑھ کر زور آزمائی کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو صلے اور بربادی کے خلاف جو جلد بازی اور زور آزمائی ہوتی ہے، اُس پر بھی جہل کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف انداز میں

حضور علیہ السلام کو نصیحت فرمائی ہے کہ آپ نامناسب فرمائش کی حمایت کمرے
نادان نہ بنیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کے اس حصہ میں اگرچہ خطاب
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہے، مگر بات عام لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے
کہ بیشک تمام مسلمانوں کی خواہش ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، مگر
یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ کسی کو ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں
ہے، آپ تو اس کے لیے دعا، تمنا یا کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ کمرے
اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کیونکہ یہ اس کے علم میں ہے کہ کس شخص میں
ایمان قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اگر آپ چاہیں کہ تمام
کے تمام لوگ ہی ایمان قبول کر لیں۔ تو یہ نادانی کی بات ہے، اس کو اختیار
نہ کریں۔

فرمایا اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ بَشِكْ قَبُولِ

اہل فکر و نظر

وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں۔ اور جو آدمی سنتا ہی نہیں یعنی توجہ ہی نہیں

دیتا، اس کو سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دو کے مقام پر فرمایا "وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ"

(انفال) ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ

وہ نہیں سنتے۔ سننے کا فائدہ تو اسے حاصل ہوتا ہے جو کسی چیز پر توجہ سے

اس کو سمجھے اور اسے دل میں جگہ دے۔ برخلاف اس کے جو ایک کان

سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، اس کا سننا اور نہ سننا برابر

ہے فرمایا وَالسَّوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ مردوں

کو اٹھائے گا۔ امام رازی کہتے ہیں کہ یہاں مردوں سے مراد کافر ہیں اور

مطلب یہ ہے کہ جس طرح مردوں کو سننے کا کچھ فائدہ نہیں، اسی

طرح کافروں کا سننا اور نہ سننا برابر ہے، کافروں سے خطاب مردوں سے

خطاب کے مترادف ہے۔ اگر قبرستان میں کوئی شخص وعظ کرنا شروع کرے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہی حال کفر کرنے والوں کا ہے۔

فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے گا تو پھر سنیں گے آج کا سننا تو ان کے لیے کچھ مفید نہیں مگر وہاں کا سننا بھی مفید نہیں ہوگا کیونکہ سن کر ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ تسلیم کریں گے کہ دنیا میں ہمیں جو سنایا جاتا تھا وہ برحق تھا۔ مگر ہم ہی غلط راستے پر چلتے رہے، مگر اس وقت کا چھپتا کسی کام نہ آئیگا فرمایا تَسْمِعُ إِلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ پھر ان سب کو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ پھر محاسبہ ہوگا اور جیسا کسی کا عقیدہ باعمل ہوگا، اس کے مطابق سزا یا جزا پائے گا۔ غرضیکہ پھر علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ نے نسلی دی ہے کہ اگر کافر آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ زیادہ اصرار نہ کریں اور ان کی خواہش کے مطابق نشانیوں کی تمنا نہ کریں کیونکہ یہ حکمتِ خداوندی کے خلاف ہے۔ آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل جیسی نعمت کو ٹھیک طور پر استعمال نہیں کرتے۔ اس بات کا ادراک انہیں قیامت کے روز ہوگا، مگر اس وقت کی ندامت کسی کام نہیں آئے گی اور کافر اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے۔

الانعام ۶

آیت ۳۷ تا ۴۱

واذا سمعوا >

درس دہم ۱۰

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
 قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 طَيْرٍ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلَكُمْ
 مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ
 رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا
 وَبُكِمُوا فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلِّهُ
 وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾
 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَّاتِكُمْ
 السَّاعَةَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾
 بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ
 شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ :- اور کہا اُن لوگوں نے کیوں نہیں اتاری

جاتی اُس پر کوئی نشانی اُس کے رب کی طرف سے اے پیغمبر!

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ نازل

کرے کوئی نشانی، لیکن اُن میں سے اکثر ایسے ہیں جو علم نہیں

دیکھتے ﴿۳۷﴾ اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین

میں اور نہ کوئی پمذہ جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں (پروں) کے ساتھ
 مگر یہ بھی امتیں ہیں تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں کمی کی کتاب
 میں کسی چیز کی، پھر اپنے رب کی طرف یہ سب اکٹھے کیے
 جائیں گے (۳۸) اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں
 کو وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں دھجک رہے
 ہیں، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا
 ہے ڈال دیتا ہے صراطِ مستقیم پر (۳۹) اے پیغمبر! آپ کہ
 دیجئے، (اے لوگو!) بلاؤ اگر آجائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب
 یا آجائے تمہارے پاس وہ گھڑی، کیا اللہ کے سوا پکارو گے
 تم کسی کو، اگر تم سچے ہو (۴۰) پس اسی کو پکارتے ہو
 تو وہ دُور کر دیتا ہے اُس چیز کو جس کی طرف تم بلاتے
 ہو اگر وہ چاہے اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم اُس کے
 ساتھ شریک بناتے ہو (۴۱)

توحید، رسالت اور معاد کے انکار اور پیغمبر اسلام سے نشانیاں طلب کرنے
 کا سلسلہ کئی دروس سے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے مقابلے
 میں صبر کی تلقین فرمائی، جیسا کہ پہلے انبیاء کرتے رہے ہیں اور نشانوں کے متعلق فرمایا
 کہ اگر ان کو حسبِ خواہش نشانی مہیا بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ انکار ہی کریں گے۔
 آج کی آیات میں بھی مشرکین کی طرف سے نشانیاں طلب کرنے کا ہی ذکر ہے، اور
 پھر اس ضمن میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بعض آیات بھی دی گئی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے
 وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ انْ مِّنْكُمْ يَنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 نہیں اتاری جاتی اُس شخص پر کوئی نشانی اُس کے رب کی طرف سے۔ اور نشانی سے
 مراد اُن کے نزدیک ایسی نشانی ہے جس کو وہ خود طلب کرتے ہیں، مشرکین کہتے تھے

نشانی کا
مطالبہ

کہ ہماری خواہش کے مطابق نشانی کیوں نہیں آتی۔ یا نشانی سے مراد ایسی واضح نشانی ہے جو پہلے انبیاء پر ظاہر ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صالح علیہ السلام وغیرہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیں اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يُّنَزِّلَ اَيْدِيَكُمْ بِرِزْقِكُمْ اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر قادر ہے۔ یہ جس قسم کی نشانی بھی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اُس کے لیے کچھ مشکل نہیں، مگر بات یہ ہے وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ کہ ان میں اکثر بے علم اور بے سمجھ ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر نشانیاں تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ مگر ان کو ملاحظہ کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانی ظاہر کر دی جائے تو وہ ان کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے نشانی پا کر بھی انکار ہی کیا، تو پھر وہ خدا کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ پہلی قومیں اسی لیے عذاب میں مبتلا ہوئیں کہ انہوں نے خود معجزات طلب کیے مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ متعصب اور عنادی لوگوں کی فرمائش کو پورا کرنا حکمت الہی کا ابطال ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق مناسب حال نشانیاں ظاہر کرتا ہے مگر یہ بے عقل لوگ بہودہ مطالبات کر کے خود خدا کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری خواہش کے مطابق نشانی نازل کر دوں گا۔ لیکن اگر تم نے پھر ناشکر گزاری کی تو ایسی سزا دوں گا جو جان میں کسی کو نہ دی ہو۔ مگر اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں فرمایا اگر یہ لوگ نشانیاں دیکھنے پر ہی لبضد ہیں تو انہیں بتادیں کہ تمہارے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی قدرتِ تامہ اور حکمتِ بالغہ کی بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔

مثال کے طور پر فرمایا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إِلَّا أَعْلَمُ بِحَدِّهِ يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ كَالْحَبِّ ذَرَّاتٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

مثال کے طور پر فرمایا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إِلَّا أَعْلَمُ بِحَدِّهِ اور نہ کوئی ایسا پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے الا اعمہ امثالکم مگر یہ کہ وہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔ ان تمام جانوروں، پرندوں اور کھڑے مکوڑوں کی بھی جماعتیں اور گروہ ہیں۔ فرمایا اگر مشرکین کو اللہ کی نشانیوں کی تلاش ہے تو ان جانوروں اور پرندوں کو ہی دیکھ لیں۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور پھر ہر ایک کی نوع الگ الگ ہے، ان میں ایسی حیرت انگیز باتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا نمونہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑوں مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے درندوں تک ہر ایک جانور اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہا ہے۔ جانوروں کی ہر نوع کے لیے الگ الگ شریعت اور جدا جدا احکام ہیں۔ صرف زمین پر رہنے والے جانوروں کی اقسام والوابع ہی انسان کے علم سے باہر ہیں جب کہ پانی کے جانور اور ہوا میں اڑنے والی چیزیں ان کے علاوہ ہیں۔ ہر ایک کی نسل کشتی، ان کا پھرتا، رہائش اور خوراک کے ذرائع اور طور طریقے جدا جدا ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کے نشانات ہی تو ہیں۔ اگر انسان ان میں محوڑا سا غور فکر کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونے میں وقت پیش نہیں آئے گی۔

معرفت الہی

چھوٹے سے چھوٹے جاندار سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اشراف المخلوقات ہونے کے باوجود انسانوں کی اکثریت اس سے غافل ہے۔ حضرت ابو بردہؓ کی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جانور، چرند، پرند یَعْرِفُونَنِي مجھے پہانتے ہیں۔ يُوحِدُونَنِي میری توحید کو مانتے ہیں، یُسَبِّحُونَنِي میری تسبیح بیان کرتے وَحَمْدُونَنِي اور میری حمد و ثناء بیان کرتے ہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہی تو ہیں

"وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
 تَسْبِيحَهُمْ" (زبني اسرائیل) تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی
 ہیں مگر تم ان کی زبان اور تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ البورر راز کی روایت میں آتا
 ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تمام جانور مجھے پہچانتے ہیں، میری توحید
 کو بھی مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، خدا کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔
 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ دو
 بکریاں آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو عوف رضی
 بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، البورر! عرض کیا، حاضر ہوں فرمایا، کیا تم جانتے
 ہو کہ یہ بکریاں کیوں لڑ رہی ہیں۔ عرض کیا حضور میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا۔
 مگر اللہ جانتا ہے جس بات پر لڑ رہی ہیں اور قیامت کے دن ان کے
 درمیان فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت میں حضور علیہ السلام
 کا ارشاد مبارک ہے كَتُودُنَّ الْحَقُّوقَ الْمَآءِ أَهْلَهَا تَمَامِ حَقُّوقِ
 اُنَّ كَ اَهْلِ تَكْ سَهْجَايْ جَايْسُ كَ حَاثِي يُقْتَصُّ لِلْجَمَاءِ
 مِنْ الْقُرْنَاءِ يَهَا تَكْ اللّٰهُ تَعَالٰى قِيَامَتِ كَ دِنِ بَ سِينِغْ
 جانور کا سینگ والے جانور سے قصاص دلائیں گے۔ سینگوں والے نے
 اس پر کیوں ظلم کیا۔ تمام جانوروں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہوگا
 اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ جب جانوروں کے متعلق اس قدر
 باز پرس ہوگی تو پھر ظالم انسان اپنے ظلم کا بدلہ پائے بغیر کیسے بچ سکتے ہیں
 غرضیکہ فرمایا جانور اور پرندے بھی تمہاری طرح امت ہیں۔ ہر ایک
 کے الگ الگ احکام ہیں جن کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔
 سائنس دانوں نے اللہ کی مخلوق پر تحقیق کر کے حیرت انگیز انکشافات
 کیے ہیں۔ بعض لوگوں نے چالیس چالیس سال تک عرق ریزی کر کے
 چیونٹیوں جیسی ادنیٰ مخلوق پر ریسرچ کی ہے، ان کا اپنا نظام معاشرت

چیونٹیوں
 کا عالم

ہے، رسم و رواج ہیں اور خوراک جمع کرنے کے طریقے ہیں حتیٰ کہ مردے کو دفن کرنے اور صلح و جنگ کے احکام بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک زندہ چیونٹی دوسری مردہ چیونٹی کو اٹھائے جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ محققین کی تحقیق کے مطابق چیونٹیوں کے قبرستان ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، مرنے والی چیونٹیوں کو ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ چیونٹیوں کے خوراک جمع کرنے کا موسم مخصوص ہوتا ہے جس میں اپنے مطلب کی خوراک ذخیرہ کرتی ہیں، اس کام کے لیے چیونٹیوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ طنطاویؒ نے نظام العالم والاعم میں لکھا ہے کہ سائنس دانوں کی ریسرچ کے مطابق چیونٹیوں کے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیونٹی دشمن ملک میں چلی جائے تو وہاں پاؤں پر نہیں چلتی۔ بلکہ الٹی ہو جاتی ہے، اپنی پشت زمین پر لگا دیتی ہے، پھر اس علاقے کی فوج آتی ہے جو اسے اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیتی ہے۔ ان کے ہاں یہ صلح و جنگ کے اصول مردوج ہیں تحقیق کنندگان کہتے ہیں کہ ان چیونٹیوں میں دودھ پینے والے جانور بھی انہی کی نسل سے ہوتے ہیں۔ جن سے یہ دودھ حاصل کرتی ہیں۔ فرمایا یہ سب کچھ قدرت کے حیرت انگیز شاہکار نہیں؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کے بہت سے نشانات موجود ہیں۔

شہد کی
مکھیاں

دیگر جانداروں کی طرح شہد کی مکھیوں کا بھی ایک الگ جہان ہے جہاں ان کے قوانین نافذ ہیں، ان کے اپنے رسم و رواج اور لائحہ عمل ہے جس کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں اور کام کاج انجام دیتی ہیں۔ ان مکھیوں میں ایک بڑی مکھی ملکہ کہلاتی ہے۔ باقی سب مکھیاں اس کے ماتحت ہوتی ہیں اور اس کا ہر حکم بجالاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کے ذریعے انسان کے لیے ایک پاکیزہ مشروب شہد تیار کیا ہے۔ سورہ نحل

میں موجود ہے ”وَ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلَیْكَ النَّخْلَ تِیْرَے رَبِّ نَبِّ شَدِّدِ کی
 مکھیوں کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں
 میں اپنا گھر بنائیں اور ہر قسم کے پھل کھائیں پھر ان کے پیٹوں سے شفا بخش
 مشروب نکلتا ہے فرمایا اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ
 اس پورے نظام میں صاحب غور و فکر لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان
 مکھیوں کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ نجاست پر نہیں بیٹھیں گی، بلکہ
 ان کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ چیز پر بیٹھیں۔ چنانچہ شہد
 کی مکھی ہمیشہ مٹھائی، پھول اور پھل پر بیٹھے گی، کسی گندی چیز پر نہیں بیٹھے
 گی۔ اگر مکھیوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی ہم نسل کوئی مکھی کسی ناپاک چیز پر
 بیٹھی پائی گئی ہے تو اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، اُسے حاکم مکھی کے سامنے
 پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اگر الزام ثابت ہو جائے تو ایسی ملزمہ کو سزائے موت
 تک دیدی جاتی ہے یہ پورا نظام قدرت، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں
 معرفت الہی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی مطلوب ہے؟

غرضیکہ فرمایا کہ تمہاری طرح جانوروں اور پرندوں کی بھی امتیں ہیں۔
 جن کے پورے حالات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ سب کے سب
 اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں۔
 ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام جاندار اپنے معبود کو بھی پہچانتے اور اپنی
 روزی کے ذرائع کو بھی جانتے ہیں، نر اور مادہ ایک دوسرے کو خوب
 پہچانتے ہیں اور آپس کے تعلقات کے لیے آمادہ ہوتے ہیں چڑھیوں
 اور کبوتروں کی مثال لے لیں تنکا تنکا اکٹھا کر کے خود ہی اپنا گھونسلہ بناتے
 ہیں پھر چڑھی اور کبوتری اسمیں انڈے دیتی ہے۔ جنہیں نر اور مادہ باری باری
 سیتے ہیں۔ جب بچے نکلتے ہیں تو دونوں ان کی پرورش کی ذمہ داری قبول
 کرتے ہیں۔ نر اور مادہ اپنے اپنے منہ میں خوراک لاتے ہیں اور بچوں کے

پرندوں کی
 جبلت

منہ میں ڈالتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ قدرت کے حیرت انگیز کوششیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔

فَرَمَا مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ هُمْ

کتاب میں کسی کچھ کو نہیں سنے دیا۔ اس میں ہر چیز درج ہے۔ مفسرین

کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن پاک

بھی اور نامہ اعمال بھی۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور

قرآن پاک کے متعلق خود اُس کا اپنا دعویٰ ہے۔ "وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ" (انعام) یعنی ہر خشک و تر چیز کا بیان

اصولی طور پر قرآن میں موجود ہے۔ ہر شخص کا نامہ اعمال بھی تیار ہو رہا ہے

جو محاسبہ کے وقت اُس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اس میں بھی اللہ

کا ہر عمل شامل ہو گا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کچھ نہیں چھوڑی

ثُمَّ الرُّبُوبِيَّةُ جُشُورًا مِثْرَانِ سَبَّ كَوْنِهِ رِبِّ

کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اس کا حساب کتاب ہو گا۔

فَرَمَا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جَنُّ لُكُورًا كَرِهُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ

ان کی حالت یہ ہے صُورًا كَرِهُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ وہ برے اور گونگے ہیں۔ ظاہر

ہے کہ جس نے آیات الہی سے فائدہ نہ اٹھایا، جس نے حق کی بات سنی

ہی نہیں وہ بہرہ ہے اور جس نے ایمان کا حکم زبان سے ادا ہی نہیں کیا وہ

گونگا ہے۔ ایسے برے اور گونگے لوگ فِي الظُّلُمَاتِ اندھیروں میں

بھٹک رہے ہیں۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات سب اندھیرے ہیں جن

میں منکربین و مکذبین سرگمہ واں ہیں اور انہیں روشنی کی کوئی ریق نظر نہیں آتی

نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے "لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ" (ابراہیم) تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں

سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ مگر بد قسمت ہیں وہ لوگ جو محروم رہتے ہیں

مکذبین کی
حالت

پھر فرمایا مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَجَسَّ اللَّهُ جَابِتًا مَكْرَاهٍ
 کر دیتا ہے۔ اور اس کا اصول یہی ہے۔ کہ جو شخص ضد اور عناد کو اختیار کرتا
 ہٹ دھرمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پاک کا فیصلہ
 ہے "وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" (۲: ۲۵۸) اللہ تعالیٰ
 ظلم کرنے والوں کو ہدایت سے نہیں لوازتا۔ جب ظلم کو ترک کر کے نیچی
 کو اختیار کرے گا۔ کفر اور شرک کی بجائے ایمان اور توحید کو اپنلے گا، نیچی کی تڑپ
 اس میں پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی واضح
 کرے گا۔ وہ ہر شخص کی استعداد، صلاحیت، اور طلب کو جانتا ہے، اس

یے وَمَنْ يَشَاءِ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس راستے پر
 چلو "هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ" (الحجرات) یہی سیدھا راستہ ہے۔
 فرمایا تم نشانیاں طلب کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے ارد گرد لاکھوں نشانیاں

موجود اور
 مشرک

پھیلی ہوئی ہیں اگر ذرا بھی غور کرتے تو خدا تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آجاتی۔

قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے اَرَايْتُمْ كُمْ يَبْدُلُوْا اِنْ اَتَاكُمْ

عَذَابُ اللّٰهِ اِذَا اللّٰهُ كَا عَذَابِ تَمَّارٍ اَوْ اَتَاكُمْ السَّاعَةَ

یا وہ گھڑی تمہارے پاس آئے یعنی کسی کو انفرادی طور پر موت آجائے یا مجموعی

طور پر قیامت واقع ہو جائے اَغْيِرِ اللّٰهُ تَدْعُوْنَ تَوْكِيَا پھر اللہ کے

سوا کسی غیر کو پکارو گے اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اگر تم سچے ہو تو

تبدلو کہ کون ہے جو اس آمدہ گھڑی کو ٹال سکے۔ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ

ایسے کھٹن وقت پر بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ تم صرف اسی کو پکارتے ہو

جب تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اسی خدا کے وعدہ لاشریک

کے سامنے گڑ گڑاتے ہو فَيَكْتُمُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ

شَاءَ اِذْ اُتِيَ سَمْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَنْفًا مِمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ

شَاءَ اِذْ اُتِيَ سَمْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَنْفًا مِمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ

کر دیتا ہے۔ یہ اُس کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر پسند کرے تو تمہاری
مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ تمہاری تاریکی کو کھول دیتا ہے اور چہرہ تمہیں راحت
حاصل ہو جاتی ہے۔

فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا
كُنْتُمْ كَافِرِينَ تو اس وقت تم بھول جاتے ہو جو خدا کا شریک بناتے ہو۔
اُس وقت تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آسکتا
سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اُسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور
علیہ السلام نے فرمایا کہ دُعا ہمیشہ لجا جرت اور نچتہ طریقے سے مانگا کرو، کیونکہ
خدا کسی کا مجبور و محکوم تو نہیں، اُس کی مرضی ہے تو دُعا قبول کرے گا۔
اور تمہاری تکلیف کو رفع فرمائے گا اور اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا
جن کو قسم اللہ کا شریک مٹھراتے ہو، اس کا ساتھ بناتے ہو، اُس کی صفات
میں شریک کرتے ہو، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔

واذا سمعوا

الانعام ۶

آیت ۲۲ تا ۲۵

درس یازدہم ۱۱

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ
 بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٢٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ
 جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ
 شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
 بَغْتَةً فَاذًا هُمْ يُبْلِسُونَ ﴿٢٤﴾ فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت

سی امتوں کی طرف رسول، پس پکڑا ہم نے ان لوگوں کو سختی

کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ تاکہ وہ جھگڑ گھڑائیں اور عاجزی

کریں ﴿۲۲﴾ پس کیوں نہیں ہوا اس طرح کہ جب آئی ان

کے پاس ہماری گرفت تو وہ عاجزی کرتے، لیکن ان کے

دل سخت ہو گئے اور مزین کہ دکھائیں ان کو شیطان نے

وہ باتیں جو وہ کہتے تھے ﴿۲۳﴾ پس جب بھول گئے وہ اس

بات کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت اور یاد دہانی کرائی گئی

تھی تو ہم نے کھول دیے ان پر ہر قسم کی خوشحالی کے دروازے

یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس چیز کے ساتھ جو

اُن کو دی گئی تھی تو ہم نے اُن کو اچانک پکڑ لیا، پس وہ
 آس توڑ کر ناامید ہو گئے (۴۴) پس کاٹ ڈالی گئی جب اُن لوگوں
 کی جنہوں نے ظلم کیا اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے
 ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۴۵)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے احتمال کے طور پر مکذبین کو ڈرایا تھا کہ آپ
 ان لوگوں سے پوچھیں کہ اگر موت یا قیامت کی گھٹری آپہنچے تو خدا کے سوا تمہاری مصیبت
 کو کون دور کر سکتا ہے، یقیناً کوئی نہیں۔ وہ صرف خدا کی ذات ہے جس کے قبضے
 میں اقتدار اور تصرف ہے۔ لہذا یہ اُس کی مشیت پر موقوف ہے کہ تمہاری پکار یا دعا
 کو قبول کر کے عذاب کو تم سے طام سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ امتوں کے
 واقعات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو! اُن پر خدا کا عذاب فی الواقع آگیا
 اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ لہذا تمہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں تم پر بھی ایسا عذاب
 نہ آجائے کیونکہ تمہارے افعال و کردار بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلی قوموں کے تھے۔ پھر
 اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سرکشی اور عناد کا فلسفہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عام طور پر لوگ کس طرح
 کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے۔
 اور جب لوگ تفسیح حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک آجاتی
 ہے اور اُن کا کام تمام کر دیتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ارْسَلْنَا اِلَيْكَ اُمَمًا مِّنْ قَبْلِكَ تَحْقِيقًا

پہلے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے اہم امت کی جمع ہے اور
 مطلب یہ ہے کہ کسی ایک دو امت کی طرف نہیں بلکہ بہت سی امتوں کی طرف رسول
 مبعوث فرمائے۔ یہ خطاب حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہو رہا ہے کیونکہ آپ
 نبیوں اور رسولوں کے سلسلہ کی آخری کڑی ہیں وَاللّٰكِن رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ
 النَّبِيِّۦنَ (احزاب) آپ اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے

فرمایا فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا بِهَرَجِ بِنَاظِرِ طَرَفٍ
 سے تکلیف آپہنچی تو ان لوگوں نے کیوں نہ گریہ و زاری کی۔ مناسب تو
 یہ تھا کہ جب ہماری چھوٹی سی گرفت آئی تو فوراً سبھل جاتے اور اللہ تعالیٰ
 سے گڑگڑا کر معافی طلب کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا وَلَٰكِنْ
 قَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ بَلْكَهَ اُنْ كَعِ دِلِّ سَحْتِ هُوَ كَعِ۔ انہوں
 نے اس تبنیہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور معاصی سے باز نہ آئے، اس کے
 بِرِخْلَافِ هُوَ اِي كَرِ وَ زَيْنَ كَهْمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا
 يَفْهَمُونَ جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے اس کو مزین کر کے
 دکھا دیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو اور اسپر قائم رہو۔ یہ تکلیفیں
 اور مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں، ان کی کچھ پروا نہ کرو۔

اچانک گرفت

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ توبہ استغفار کرنے کی بجائے وہ برائیوں میں
 پہلے سے زیادہ منہمک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا دَسُّوا
 مَا ذُكِّرُوا بِهِ بِهَرَجِ بِنَاظِرِ طَرَفٍ اور نصیحت کو بھول گئے اس
 کا مثبت اثر قبول نہ کیا۔ بلکہ انہوں نے اس بات پر غور ہی نہ کیا کہ ہمیں
 یہ تکلیف کیوں پہنچی ہے تو فرمایا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ الْبُؤَابَ
 كُلَّ شَيْءٍ هَمُّنَا اُنْ يَهْرَجِ بِنَاظِرِ طَرَفٍ كَعِ مَحْوَلِ مِيءِ۔ اُن
 کی معیشت کو وسیع کر دیا اور دنیاوی عیش و آرام کے سامان مہیا کر
 دیے۔ حَتَّىٰ اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُولُوا بِهَرَجِ بِنَاظِرِ طَرَفٍ هُوَ
 كَعِ اُسْ جِيزِ سَعِ جُو اُنْ كُو دِي كَعِي۔ یعنی جب انہیں کھانے پینے،
 اچھی رہائش، اچھی سواری، زن و فرزند اور دیگر ہر قسم کی سہولتیں میسر آ گئیں
 اور وہ خیال کرنے لگے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔
 اَخَذْنَاهُمْ بِفِتْنَةٍ هَمُّنَا اُنْ يَهْرَجِ بِنَاظِرِ طَرَفٍ۔ ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ ہماری
 گرفت آئی اور وہ فوراً عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بسا اوقات ایسا

ہوا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر گئی تو کوئی آسمانی یا زمینی آفت آئی اور
 قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہنید آنے پر معافی
 نہیں مانگتے بلکہ معاصی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر تباہی ان کا مقدر بن
 جاتی ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ گنہگاروں کو
 اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ تھوڑی سی تکلیف دے کر رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے۔
 پھر اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے سامنے
 عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو نوح جاتے ہیں۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ ان پر
 خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر جب ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے
 کی بجائے گناہوں میں مزید ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 دفعاً پکڑ آجاتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو تھوڑی سی
 تکلیف پہنچے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اُسے کسی نشانی کے اظہار یا زیادہ مصیبت
 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی تہنید پر ہی سمجھ جانا
 چاہیے اور گڑگڑا کر اُس سے معافی طلب کر لینی چاہیے، اسی میں اس کا فائدہ ہے
 حضرت عقبہ بن عامر بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں۔ ان سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص
 گناہ میں مبتلا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل انعام و اکرام بھی
 ہو رہے ہیں، اُس کو ہر طرح سے وسعت حاصل ہو رہی ہے تو اُس سے
 ڈھوکا نہ کھانا، اللہ تعالیٰ اُس پر راضی نہیں ہے بلکہ یہ تو استدراج اور مہلت
 ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی گرفت کرنے پر قادر ہے، حضرت عقبہؓ
 فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی فَلَمَّا
 نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً
 فرمایا جب ہماری گرفت آجاتی ہے فَاذَاهُمْ مَبْسُوتًا

پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی گرفت میں مبتلا ہو کر ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا تو پھر نا اُمید ہو جاتے ہیں۔

میانہ روی
اور پاکدامنی

حضرت عبادہ بن صامتؓ انصاری مدینہ میں سے تھے۔ دس فٹ قد کے کٹیل جوان، دراز قامت، سانولی رنگت، حضور کے مخلص جانثاروں میں سے تھے۔ فتح مصر کے لشکر میں شامل تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اس قوم کو اقتصاد یعنی میانہ روی اور عفت یعنی پاکدامنی عطا فرماتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ رسم و رواج میں پڑ کر یا معیار زندگی کو حد سے زیادہ بلند کر کے میانہ روی کو ترک کر بیٹھتے ہیں۔ کھیل کود، رسومات، لباس اور رہائش اور دیگر مگر وہ امور پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح عفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حرام اور مشکوک چیزوں سے بچ جائے خوراک، لباس، شہوات اور دیگر معاملات میں عفت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر کوئی شخص اقتصاد اور عفت کی پروا نہیں کرتا تو اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ تباہی کے راستے پر گامزن ہے جو بالآخر اُس کی بربادی کا باعث ہوگا۔

خیانت کی
لحدت

فرمایا جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اُس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر وہ نماز اور روزے میں خیانت کرنے لگتے ہیں، وضو اور طہارت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، دکانداری اور ملازمت میں خیانت کرتے ہیں اپنے کاروباری ساتھی (PARTNER) کو دھوکا دیتے ہیں، غرضیکہ ان پر ہر طرف سے خیانت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بظاہر اُس قوم میں خوشحالی نظر آتی ہے لوگ کھیل تماشے میں مشغول ہوتے ہیں، فیشن کی بہتات ہوتی ہے مگر یہ خوشحالی نہیں بلکہ استدراج ہوتا ہے۔ یہ ترقی کی بجائے تنزل کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

ترقی تو ایمان کی دولت اور اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ اصولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہر گھڑی ٹیلیوژن کے ذریعے کھیل تماشے کی فراوانی ہے۔ شادی بیاہ کی رسوم پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں، انتظامات پر دل کھول کر خرچ کیا جاتا ہے۔ ادھر موت کی رسوم پر بھی دیکھیں کچھتی ہیں۔ پھر قبروں کو نچتہ بنایا جاتا ہے ان پر گنبد تعمیر ہوتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں اور اس طرح لوگ فضول خرچی کے امانت کی بجائے خیانت کرتے ہیں۔

ظلم کا بدلہ

فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے بگڑی ہوئی قوم کسی طریقے سے راہِ راست پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی فَقَطِّعَ دَابِرُ

الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالموں کو پھیر کر دینے والی قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔

ظلم صرف انسانی برادری سے ہی نہیں کیا جاتا بلکہ لوگ کفر اور مشرک جیسے ظلم عظیم کے کبھی مرتکب ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا عذاب انہیں اچانک آپکھڑتا ہے۔

پہلی امتوں میں بسا اوقات ایسا عذاب نازل ہوتا تھا کہ پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی، مگر اس آخری اُمرت کو حضور علیہ السلام کی برکت سے

ایسے سخت عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے عذاب کبھی زلزلے کی صورت میں آتا ہے اور کبھی طوفان کی شکل میں۔ کبھی کثرتِ اموات

عذاب کا ذریعہ بنتی ہیں اور کبھی ان پر دشمن کا تسلط قائم کر کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ظلم کیا ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ظالم لوگ چونکہ پوری انسانیت کے دشمن ہوتے

ہیں، لہذا ان کی جڑ کاٹ جانے سے پوری دنیا کا بھلا ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ سب تعریفیں اُس مالک الملک کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق کو ظالموں

کے ظلم سے نجات دیتا ہے۔

اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کو اسی لیے فرض قرار

دیا گیا ہے تاکہ مفسدین کی سرکوبی ہو سکے، مفسد لوگ معاشرے میں ایسے ہیں۔
 جیسے انسانی جسم میں پھوڑا۔ جس طرح انسان کی مھلائی اس جھک پھوڑے کو
 کاٹ پھینکنے میں ہی ہے، اسی طرح پوری نسل انسانی کی مھلائی اور خیر خواہی
 مفسدین کے قلع قمع میں ہے۔ معاشرہ جمعی پاک صاف ہو سکتا ہے جب
 ظلم کے تمام ذرائع کو کاٹ دیا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان ظالموں
 کو ختم کرنے میں ہی انسانیت کی مھلائی ہے۔

اموطا امام مالک کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا جب بڑا آدمی مرتا ہے تو درخت پھتر اور جانور اکھد لیتا کہ کہ اللہ کا
 شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ موزی آدمی نابود ہوا۔ ایسا شخص نہ صرف انسانیت
 کا دشمن تھا بلکہ درختوں، پھتروں اور جانوروں کے لیے بھی باعث وبال تھا
 اس کے برخلاف اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر عرض و سما
 روتے ہیں۔ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ آسمان کے وہ دروازے رنجیدہ ہو
 جاتے ہیں جن کے راستے نیک آدمی کے اعمال اوپر جاتے تھے، مگر ظالموں
 پر نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین، بلکہ ہر چیز کہتی ہے اکھد لیتا شخص کھم جہاں پاک

واذا سمعوا >

الانعام ۶

درس دوازدهم ۱۲

آیت ۴۶ تا ۴۹

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ
 وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ
 بِهِ أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿٤٦﴾
 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً
 أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ وَمَا
 نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ
 آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا
 يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو! بتلاؤ
 اگر اللہ لے لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہریں
 لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے معبود اللہ کے سوا
 جو لائے تمہارے پاس اس چیز کو، دیکھو! کس طرح ہم طرح طرح
 پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں باتوں کو، پھر یہ لوگ اعراض
 کرتے ہیں ﴿۴۶﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اے لوگو! بتلاؤ اگر
 آجائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک یا کھلے طور پر
 تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر وہ لوگ جو ظلم کرنے والے
 ہیں ﴿۴۷﴾ اور نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے

وائے اور ڈرانے وائے پس جو کوئی ایمان لایا اور اُس نے اصلاح کہ لی، پس نہیں ہے خوف اُن پر اور نہ وہ نغمکین ہوں گے (۴۸) اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو پہنچے گا اُن کو عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے (۴۹)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہات کا ذکر فرمایا کہ اگر کسی فرد یا قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آجائے تو اُس کا فرض ہے کہ ابتدائی پکڑ پر ہی توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑائے، عاجزی کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے نہ کہ کسی بڑی افتاد کا منتظر ہے۔ فرمایا معمولی تنبیہ پر ہی توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اللہ کے بڑے عذاب سے بچ جائے۔ پھر جب اُس کی سخت گرفت آجاتی ہے تو پھر کون ہے جو اُس کے سوا مصیبت کو دور کر سکے، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا حال بھی بیان فرمایا کہ ہم نے انہیں معاشی اور جسمانی تنگی میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ پھر اُن پر خوشحالی کا دور ڈال دیا۔ اُن پر عیش و عشرت کے دروازے کھول دیے، اُن کے لیے ہر چیز کی فراوانی ہو گئی، پھر جب وہ سرکشی میں بڑھتے چلے گئے تو ہماری گرفت اچانک آئی اور اُس قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔

کان، آنکھ اور دل

آج کے درس میں بھی تنبیہات کا ذکر ہی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مثالوں کے ذریعے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ بڑے افعال سے باز آجائیں۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی بڑے عذاب میں گرفتار ہو جائیں ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے۔ اَرَعَيْتُمْ يٰ بَلَاؤُ۔ عربی زبان میں یہ لفظ اَخْبِرْنِي کا معنی دیتا ہے۔ یعنی اس بات سے آگاہ کہ وَاِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ اِگر اللہ تعالیٰ چھین لے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں وَخَتَمَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ اور مہریں لگا دے تمہارے دلوں پر مِّنْ اِلٰهِ غَيْرِ اللّٰهِ يٰ تٰی كُمْ بِهٖ ط

تو اللہ کے سوا کون اللہ ہے جو ان چیزوں کو واپس لاسکے۔ ان عظیم نعمتوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے تمہیں یہ عطا کی ہیں، پھر اگر وہی ان کو واپس لے لے، تو ایسی کون سی طاقت ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس دلا سکے۔ انسانی جسم میں حواسِ ظاہرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے آنکھیں اور کان انسان کے ذرائعِ علم ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں۔ آنکھوں کے ذریعے انسان دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز نظر نہیں آئیگی اس سے کما حقہ استفادہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھ ہے تو جہاں ہے، زندگی کا لطف بنائی کے ساتھ ہی ہے، اگر آنکھیں نہیں ہیں تو پوری دنیا گھپ اندھیر ہے۔ اسی طرح کانوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ کان کے ذریعے ہی انسان معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر انہیں قلب تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ کان اور آنکھ کے بعد تیسری چیز دل ہے۔ دل ہی انسان کا مرکزِ حیات اور مرکزِ اخلاق ہے۔ اچھے یا بُرے تمام اخلاق دل ہی میں راسخ ہوتے ہیں کسی چیز پر عمل کرنے کا عزم دل ہی سے پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان وہ کام کر گزرتا ہے۔ غرضیکہ یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے ذرائعِ علم و عمل ہیں اور ان کے متعلق ہر شخص جواب دہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل اور دیگر مقامات پر آتا ہے "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسْتَوْلاً"۔ بیشک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے پوچھیں گے ہم نے تمہیں یہ یہ کتنا نفع دیا ہے عطا کی تمہیں۔ تم نے ان سے کہاں تک فائدہ اٹھایا کان سے نیکی کی باتیں، وعظ و نصیحت اور کلام اللہ سنا یا فحش گانے اور باجے گائے ہی سنتے رہے تم نے آنکھ سے عجائبات قدرت کا نظارہ کیا، والدین اور بزرگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، قرآن پاک

کی تلاوت کی یا گندی اور فحش فلمیں دیکھتے ہیں، تصویر سازی کا نظارہ کرتے ہیں یا نامحرم عورتوں کے تعاقب میں ہیں۔ فرمایا دل کے متعلق بھی باز پرس ہوگی کہ اس میں نیکی کو جگہ دی یا برائی کو۔ احکام الہی کی تعمیل، غزب و مساکین کی اہانت اعدائے کلمۃ اللہ کے منصوبے بنتے ہیں یا لوٹ مار اور غارتگری عیاشی اور فحاشی پر مائل ہوتا رہا۔ ان سب باتوں کے متعلق سوال ہوگا۔

آنکھ کی
پچیدہ ساخت

انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کی بیش قیمت نعمت ہے۔ تمام رنگوں کا امتیاز آنکھ ہی کا سر ہونِ منت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے ڈھیلے میں اپنی قدرت کے حیرت انگیز مناظر بند کر دیے ہیں۔ اس ڈھیلے میں رطوبت بھری رہتی ہے پتلی بالکل شفاف ہوتی ہے، جب یہ گدلی ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے۔ جسے آپریشن کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے۔ انسانی جسم کے اس نازک عضو پر تقیڑا کے زمانہ سے تحقیق ہو رہی ہے اور اب جدید سائنس نے تو اس کے تمام پوشیدہ گوشوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ شیشے جیسا نازک اور شفاف ڈھیلہ ایک خول میں بند ہے اس کی حفاظت کے لیے قدرت نے چہرے پر دو گھڑے بنا دیے ہیں جن کے اندر یہ دونوں ڈھیلے رکھ دیے گئے ہیں تاکہ کسی بھی بیرونی چوڑ سے محفوظ رہ سکیں۔ سامنے جو سوراخ نظر آتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے عجیب و غریب کارخانے لگائے ہیں۔ سامنے دیوار کے پیچھے اعصاب کا جال بچھا ہوا ہے۔ آنکھ میں پڑنے والا ہر عکس ڈھیلے کی شفاف رطوبت سے گزر کر اعصاب کے جال سے جا ٹکراتا ہے۔ وہ اس عکس کو مجمع نور تک پہنچاتا ہے۔ یہ مجمع نور آنکھ کے اوپر صلیب نما شکل میں دائیں آنکھ کا بائیں طرف اور بائیں کا دائیں طرف بنا ہوا ہے۔ جب کسی چیز کا عکس مجمع نور تک پہنچتا ہے تو وہ اسے پیچھے کی طرف جس مشترک کی سطح پر ڈال دیتا ہے، جو اسے قوت عاقلہ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ چنانچہ عقل فوراً فیصلہ کرتی ہے کہ رنگ سرخ ہے یا بنزہ، سفید یا نیلا ہے۔ آنکھ

جیسی قیمتی متاع کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس شخص کی دو پیاری پیاری آنکھیں لے جاؤں، اُسے چاہیے کہ صبر کرے اور مجھ سے ثواب طلب کرے۔ ایسے شخص کو میں جنت تک پہنچانے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ ایسے موقع پر صبر لازم ہے ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔

کان کی
عجیب ساخت

انسانی کان کی ساخت بھی خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ نہایت عجیب و غریب بنائی ہے۔ کان کے بیرونی حصہ میں پیچ و خم اور چینٹیں رکھ دی ہیں تاکہ باہر کی تیز ہوا کان میں براہ راست داخل ہو کر اس کے نازک نظام سماعت کو خراب نہ کرے۔ اس کی پچھرا ساخت کی وجہ سے ہوا کی لہریں کان کے سوراخ میں گھومتی ہوئی آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہیں۔ کان کے اندرونی حصے میں سوراخ کے اختتام پر ایک ڈھول سا بنا ہوا ہے جس کے اوپر ایک تختہ سا ہے۔ باہر سے آنے والی آواز اس تختے کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ تختے کے پیچھے رطوبت سے بھرا ہوا حوض ہے۔ آواز کے ٹکرانے سے رطوبت میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں حوض ختم ہوتا ہے وہاں ہر کان میں اعصاب کے کم و بیش تین ہزار ٹیلیفون ہیں۔ ہر ٹیلیفون اپنی استعداد کے مطابق بولی جانے والی آواز مثلاً نرم۔ سخت، کرخت، آہستہ، زور دار وغیرہ کو وصول کرتا ہے اور پھر اُسے دماغ تک پہنچاتا ہے جو اُسے بتاتا ہے کہ یہ کس قسم کی آواز آئی ہے۔ اور پھر دماغ اس آواز کے جواب کے متعلق سوچتا ہے اور کسی فیصلے پہنچاتا ہے۔

جاہل استفادہ

غرضیکہ کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان اور آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا کر انہیں بند کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو ان کو واپس لاسکے۔ کان اور آنکھ کے صنائع ہونے کے کسی مشاہدات ہوتے رہتے ہیں۔ معمولی سی چوٹ سے ان نازک اعضا میں موجود اللہ کی حکمت کے کارخانے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور انسان سماعت یا بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں

چشم زون میں انسان سماعت کی رنگارنگ چاشنی کھو بیٹھتا ہے یا اس کے لیے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر کان اور آنکھ میں کوئی خرابی واقع نہ ہو، اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی شخص ان اعضاء کے استفادہ سے محروم ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ پیدائشی طور پر بہرے یا اندھے ہوتے ہیں وہ عمر بھر ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق ہی بروئے کار لانا چاہیے۔ اچھی چیزیں دیکھنی چاہئیں، اچھی باتیں سنی چاہئیں اور اچھے خیالات کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ان عظیم نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

تعلیم کے طریقے

فرمایا اَنْظُرْ وَدِكْهُو! كَيْفَ ذُصِرْتُ الْاٰيَاتِ هَمْ اٰيَاتِ نَشَانِيَاں كَيْسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تَمَّ هُمْ لِيَصْدِقُوْنَ۔ پھر بھی یہ لوگ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی وحدانیت کے کبھی عقلی دلائل پیش کیے اور کبھی نقلی کبھی نیکی کی طرف ترغیب دی ہے اور کبھی برائی سے ترہیب کے رنگ میں بات سمجھائی ہے کبھی کوئی بات مثال کے ذریعے بیان کی ہے اور کبھی گذشتہ قوموں کا حال بیان کر کے ڈرایا ہے مختلف انداز سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے حقیقت کو پالے فرمایا تِلْكَ الْاُمَّةُ كَمَا نَصَّبْتُمْ لَهَا لِلنَّاسِ (الحشر) یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے فہم کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تاہم سمجھتے وہی لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں وگرنہ اکثر لوگ اعراض ہی کرتے ہیں تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان، آنکھ اور دل جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لہذا ان سے فائدہ اٹھاؤ اگر خدا تعالیٰ ان کو چھین لے گا تو پھر کوئی واپس لوٹانے والا نہیں ہوگا۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر علیہ السلام! آپ ان سے کہہ دیں اَنْزِلْنَاكُمْ

ظالموں کی ہلاکت

إِنَّ إِلَهُكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْدَ نَكْتَةٍ أَكْرَمَ انْ كَسِبَ اللّٰهُ كَا
 عَذَابِ اِجَانِكْ اَجَانُ اُور اِجَانِكْ كَا مَطْلَبِ يِهْ يِهْ كِهْ پِهْلے سَ اِسْكِي
 كُوئِي نَشَانِي نَهْ ظَاهِرِي كِي گِي يَا كُوئِي تَبْدِي نَهْ اَنِي هُو، فَرِيَا يَحْكُمُ عَذَابِ اَجَانُ
 اَوْ جِهْرَةً يَا كُحْلے طُورِ پَر اُنْے يَعْنِي عَذَابِ كِهْ اُنْے كِي پِهْلے سَ كُوئِي عِلَا
 ظَاهِرِي هُو چِي هُو۔ فَرِيَا دُونوں صُورَتوں ميں يَعْنِي نَوَاهِ اللّٰهُ كَا عَذَابِ اِجَانِكْ اَجَانُ
 يَا وَا رَنْتْ رُے كِهْ اُنْے هَكَلُ يَهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُونَ
 تُو بَتَا وُظَالِمُونَ كِهْ عِلَا وِهْ كُونِ هَلَاكِ هُو كَا مَقْصِدِي كِهْ عَذَابِ بِهْرِ صُورَتِ ظَالِمِ
 لُو كُونِ كِهْ مَقْدَرِ ميں هِي هُو تَا بَهْ وِهِي اِس ميں مَبْتَلَا هُو تَهْ يِهْ۔

بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر عذاب آتا ہے تو اس میں
 نیک و بد سب گم ہوتا ہے جیسے سیلاب آجائے زلزلہ آجائے،
 آسمانی بجلی گرسے، کوئی دھماکا بیماری پھیل جائے تو اس کا نشانہ ہر قسم کے لوگ
 بن جاتے ہیں۔ اور اس میں اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کی تمیز باقی نہیں رہتی
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس اشکال کو اس طرح حل فرمایا ہے
 يُبْعَثُونَ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ أَوْ نِيَّتِهِمْ فرمایا ہم نیک
 اور آخرت میں سب لوگ اپنے اعمال اور نیت کے مطابق اٹھائے جائیں
 گے۔ اگرچہ وہ دنیا میں کسی آفت کا شکار ہو چکے ہوں مگر ان کے ساتھ آخرت
 کا معاملہ ان کے عمل اور نیت کی بنیاد پر طے ہوگا۔ وہاں اچھے لوگ کسی سزا
 میں مبتلا نہیں ہوں گے، برخلاف اس کے ابدی عذاب کے مستحق ظالم لوگ
 ہی ہوں گے۔

باقی رہا کنز بن کا یہ مطالبہ ”كَوْلًا نَزَّلَ عَلَيْهِ اَيُّهُ مِّنْ رَّبِّهِ“
 کہ پیغمبر خدا پر ان کی پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ تو اس کے جواب میں
 اللّٰهُ نَزَّلَ وَمَا نَزَّلَ الْمُرْسَلِينَ لَئِنْ هُمْ لَيُبْصِرُونَ
 رسولوں کو اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ مَّا نَزَّلَ سَانِيَةً وَا لَةً اُور

ڈرانے والے ہر مطلب پر کہ ہمارے انبیاء کی بعثت کا مقصد نشانیاں ظاہر کرنا نہیں بلکہ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے اور نافرمانوں کو ان کی قبیح حرکات سے ڈرانا ہے تاہم جب کبھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو، وہ کوئی نشانی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ اس کی مصلحت پر موقوف ہے، محض معجزات پیش کرنا نبی کا کام نہیں ہوتا۔ وہ تو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے اور پھر اس کے مطابق لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔

ایمان اور
اصلاح نفس

قرمیا نبی کی تعلیم و تربیت سے فیض یاب ہو کر فَمَنْ آمَنَ
جو شخص ایمان لے آیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے انبیاء، کتب اور یوم آخرت کو تسلیم کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَصْلَمَ اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، اعمال خیر کو اختیار کر لیا اور اعمال شر سے بچ گیا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا، دوسرے کے حقوق کو پہچان لیا۔ اگر کسی کا حق تلف ہوئے تو اس کو ادا کیا یا معاف کر لیا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ تو انہیں اللہ کی طرف سے بازپرس اور گرفت کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لے گا۔ اسے اطمینان حاصل ہو جائے گا اور وہ اپنے سابقہ اعمال پر نادم نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے جو نہ ایمان لایا اور نہ اپنی اصلاح کی اس کے متعلق تو سابقہ آیات میں گنہگار ہے کہ وہ کہے گا۔ يَحْسَبَنَّ عَلَيْنَا مَا فَرَّطْنَا افسوس میں نے اللہ کی دی ہوئی مصلحت سے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ الٹا جزائے عمل کو ٹھٹھا کرنا اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرنا رہا۔ بہر حال فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اور اس نے اصلاح نفس بھی کر لیا اسے نہ تو سابقہ اعمال پر افسوس ہوگا اور نہ مستقبل کی فکر ہوگی۔

مکذبین کے
لیے سزا

فرمایا قَالِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالآيَاتِنَا جَنُودُنَا فِي مَقَامِنَا كَمَا جَاءُوا

کو جھٹلایا۔ آیات میں تو کوینی نہ تنزیلی اور تشریحی تمام آیات شامل ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزات اور گرد و پیش میں پھیلی ہوئی دیگر نشانیوں کا انکار بھی اسی تکذیب میں آتا ہے۔ تو جس نے ہماری آیتوں خاص طور پر ہماری نازل کردہ آیات کو جھٹلایا يَسْتَهْزِئُ بِالْعَذَابِ يٰۤاِنَّ كُوْذٰبًا جَهِيْمًا گا، وہ سزا کے مستحق ہوں گے يٰۤاِنَّ كُوْذٰبًا جَهِيْمًا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اگر نافرمانی عقیدے میں ہو تو انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اعمال میں خرابی ہے تو وہ بھی فاسق ہے مگر کم درجے کا۔ بہر حال چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ پر فسق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ دراصل فسق کا لغوی معنی اطاعت سے باہر نکل جانا ہے۔ امام بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کسی پھل وغیرہ کی گٹھلی اس سے باہر آجاتی ہے تو کہتے ہیں فسقت النوى اسی طرح جب کوئی شخص ایمان، نیکی اور اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص فاسق ہو گیا ہے۔ یعنی فسق کا معنی خروج عن الاطاعة (اطاعت سے باہر نکل جانا) ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی وہ اپنے فسق کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہوں گے۔

واذا سمعوا

الانعام ۶

آیت ۵۰ تا ۵۱

درس سیزدہم ۱۳

قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
 أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ
 أَتَيْتُ إِلَّا بِمَوْحٍ إِلَىٰ قُلُوبِهِمْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
 وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُجْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
 مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے، اے لوگو! میں
 نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔
 اور میں نہیں جانتا غیب، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں
 فرشتہ ہوں۔ میں نہیں پیروی کرتا مگر اُس چیز کی جو میری
 طرف وحی کی جاتی ہے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے، کیا برابر
 ہے اندھا اور دیکھنے والا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ﴿۵۰﴾
 ڈرا دیں آپ اس (قرآن) کے ذریعے ان لوگوں کو جو
 خوف کھاتے ہیں کہ ان کو اکٹھا کیا جائیگا ان کے رب کے
 پاس نہیں ہو گا ان کے لیے اس کے سوا کوئی کارساز اور
 نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں ﴿۵۱﴾

گذشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین حضور علیہ السلام سے نشانیاں
 طلب کرتے تھے اور کہتے تھے "لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ" ربط آیات

یعنی مدعی رسالت کو ہماری مرضی کے مطابق نشانی ظاہر کرنی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نشانی ظاہر کرنے پر قادر ہے مگر یہی لوگ علم سے بے بہرہ ہیں۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اپنی فرمائش حاصل کرنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا میں مبتلا کر سکتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو مہلت بھی نہیں دلا کرتی۔ تاہم یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ ہر مطلوبہ نشانی کو نازل فرمائے۔ البتہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جو کسی نشانی مناسب سمجھتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کی حیثیت کو واضح فرمایا
 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ پھر یہ بھی واضح کیا کہ جو شخص ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے گا نیکی کو اختیار کرے گا۔ بدائی سے بچ جائے گا، ایسے لوگوں پر نہ خوف مسلط ہوگا اور نہ ہی وہ بھگین ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا۔ بہر حال فرمایا کہ نشانیاں پیش کرنا رسولوں کے منصب میں داخل نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی رسول کے ہاتھ پر کوئی نشانی ظاہر فرما دیتا ہے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت و رسالت کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ نبی اور رسول الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتے اور نہ ہی فرمائش پوری کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ ہر نبی وہی بات کہتا ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہلائی ہے ہر نبی اعلان کرتا ہے کہ نہ تو وہ الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ ہی کسی خدائی صفت سے متصف ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ فَلَا يَسْتَفِيحُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! لَا
أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے
 پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ کہ جس کو چاہوں دے دوں اور جس کو چاہوں
 محروم کر دوں، یہ میرے اختیار میں ہرگز نہیں کہ کسی کو دولت مند بنا دوں اور کسی
 کو فلاش کمردوں۔ ایسا کہنا تو صریحاً کفر اور شرک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے
 نبی کی زبان سے اس کی نفی کرادی۔ دوسری جگہ پر موجود ہے کہ تمام قسم کے خزانے
 اللہ جل جلالہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے
 چھین لے سُورَةُ حَجْرٍ فِي فَرَمَايَا وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا
خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
 ہر چیز کے خزانے اُس کے پاس ہیں۔ اور وہ اپنی حکمت، مصلحت اور اندازے
 کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ خزانہ پانی کا ہو یا ہواؤں کا، اُس کی حمت
 کا ہوز حمت کا، سب اسی کے تصرف میں ہیں، لہذا پیغمبر کو خزانوں کا مالک
 سمجھنا منصف بنوت کے خلاف ہے۔

خزانوں کا
 مالک اللہ ہے

غیب دان
 صرف اللہ

اس آیت کریمہ میں جو دوسری چیز نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلائی گئی ہے
 وہ ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ اور میں غیب بھی نہیں جانتا یہ میرے علم میں نہیں
 ہے کہ کسی کی موت کب واقع ہوگی یا قیامت کب آئیگی۔ غیب کیا ہے؟
 اہم بیضاوی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں غیب پست جگہ کو کہتے ہیں اور اس
 سے مراد مخفی یا پوشیدہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت
 مختصہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ
 یعنی تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ غیب اور شہادت
 کی یہ اصطلاح مخلوق کی نسبت سے ہے، نہ کہ خالق کی نسبت سے بعض
 چیزیں انسانوں کی نسبت سے اور بعض جنات کی نسبت سے غائب اور
 حاضر ہیں وگرنہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ اہم بیضاوی

فرماتے ہیں کہ غائب وہ چیز ہے جسے نہ حواس سے، نہ عقل سے اور نہ کسی واسطے سے معلوم کیا جاسکے۔ جو چیزیں حواس ظاہرہ یا باطنہ، غور و فکر یا کسی دوسرے ذریعے سے معلوم ہوں، وہ غائب نہیں کہلاتیں، بہت سی نامعلوم چیزیں غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔ یہ علم غیب نہیں ہے بعض چیزوں کو انسان سٹول کہہ چکھ کر یا سوچ کر معلوم کر لیتا ہے بعض چیزیں دوسروں کی وساطت سے معلوم ہو جاتی ہیں تو انہیں غیب کا علم نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب صرف وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

انبیاء کے
ذرائع علم

باقی رہی یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام کو جو وسیع علم حاصل ہوتا ہے، اس کی کیا نوعیت ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ انبیائے کرام کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یا تو وحی کے ذریعے ہوتا ہے یا الہام کے ذریعے۔ اسی طرح بعض اوقات اولیاء اللہ کو بھی الہام کے ذریعے بعض چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، چونکہ یہ چیزیں کسی واسطے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے غیب کی تعریف میں نہیں آتیں بلکہ یہ چیزیں اخبار غیب یعنی غیب کی خبریں بن جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے جب انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا

یٰۤاٰیُّهَا النَّبِیُّ نُوْحِیْهَا اِلَیْكَ (ہود) یہ غیب کی خبریں ہیں تو ہم اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے بتلائیے ہیں وگرنہ "وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا"

آپ نہیں جانتے تھے آپ وہاں حاضر تو نہیں تھے۔ ہر مقام پر موجود ہونا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا اس نے حضور علیہ السلام کی ہر جگہ موجودگی کی بھی نفی فرمائی، غیب تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے "قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَیْبَ اِلَّا اللّٰهُ" (النحل) زمین و آسمان

کی کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کسی انسان کو علم غیب حاصل ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل متفق اور صحیح ہے کہ انبیاء علیہم السلام غیب نہیں جانتے إِلَّا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ سوائے اس کے کہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے، اور اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق میں انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے اور پھر انبیاء اور رسل میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے، مگر وہ بھی علم محیط نہیں بلکہ خدا کے علم کی نسبت سے محدود ہے انبیاء اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے۔ "عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ" (الجن) عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کرتا ہے ان پر وحی کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اور احکام وحی کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ حظیرة القدس اور عالم بالا کی باتیں وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو بتاتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب "تفہیمات الہیہ" میں لکھتے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، مخلوق سے ان کی نفی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً قدرتِ تامہ، علم محیط اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے، لہذا باقی تمام مخلوق میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتیں۔ انبیاء علیہم السلام نے سینکڑوں گذشتہ اور آنے والی باتوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا حضور علیہ السلام نے کمر و رول جزایات بتلا دیں۔ مگر یہ سب کچھ وحی الہی کے ذریعے علم ہوا، اس لیے اسے غیب نہیں کہا جاسکتا کیونکہ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو۔

شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتقاد رکھے کہ فلاں آدمی کو ہر چیز

کا علم ہے، اُسے ہمارے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، تو یہ شرک ہے کیونکہ
 ہر چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وحی اور الہام نبیوں کو ہوتا ہے۔ کشف
 اور الہام اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید طبقات میں لکھتے ہیں۔
 کہ کشف اور الہام گیارہ اقسام سے ہے مگر ہر حال کسی نہ کسی واسطے سے
 ہوتا ہے، لہذا اُسے علم غیب پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر
 آخر الزمان کی زبان سے کہلایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
 إِنِّي مُلْكٌ اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔

اتباعِ وحی

فرمایا آپ صاف صاف اعلان فرمادیں اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
 يُوحَىٰ رَأَيْتُ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے
 یعنی میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں۔ میں نہ تو فرشتہ ہوں جو کھلے سینے
 اور لوازمات بشریہ سے پاک ہوں اور نہ میں غیب دان ہوں بلکہ میں تو عبد ہوں
 اور اس حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں وحی الہی کا اتباع کروں۔ تو
 انبیاء علیہم السلام امثال امر الہی میں کمال درجہ رکھتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے
 ہیں "در امثال امر الہی بہ ہیئت وجہ تقصیر نہ کردہ اند" یعنی اللہ تعالیٰ کے
 حکم کی تعمیل میں اس کے — بنی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو شخص یہ
 اعتقاد رکھے کہ کسی نبی نے حکم الہی کی تعمیل میں کوتاہی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ البتہ بعض
 اوقات انبیاء سے اجتہادی خطا سرور ہو جاتی ہے۔ جب کوئی چیز وحی الہی کی
 عدم موجودگی میں اپنی صوابدید سے کرتے ہیں تو اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے
 اور اگر ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔
 البتہ غیر نبی اگر کوئی اجتہادی غلطی کرے تو اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔
 اسی طرح خواب کی تعبیر میں بھی نبی سے غلطی ہو سکتی ہے، ایک دفعہ
 حضور علیہ السلام نے خواب میں کچھ دیکھا اُس کی تعبیر ایسی فرمائی جو حقیقت میں نہیں
 تھی۔ آپ نے اس طرح کا ذکر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بھی کیا کہ
 جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر اسی طرح ہے تو پھر فلاں چیز یقیناً ہو کر ہے گی۔

تو معلوم ہوا کہ خواب میں نظر آنے والی چیزیں بعض اوقات اصلیت کے مطابق نہیں ہوتیں اور تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے بہر حال عصمتِ انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جان بوجہ کہ حکمِ الہی میں کوتاہی نہیں کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے فضل نے نہیں ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا ہوں، بلکہ میرا فرض منصبی تو یہ ہے کہ میں وحیِ الہی کا اتباع کروں۔ اس کے بعد فرمایا فَلْاَسْئَلُكُمْ دِينِ الْاسْحٰبِ اور فرمایا اَلَا اَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں۔ مومن بنیاد ہے اور

کافر اندھا، بھلا یہ دونوں یکے برابر ہو سکتے ہیں۔ مومن کامل درجے کی بصیرت رکھتا ہے اور پھر نبی کو پوری نوری نفع انسان میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کفر و شرک کا مرتکب اندھا ہے جو اندھیرے میں سرگرداں پھرتا ہے حضور علیہ السلام نے ذکرِ الہی کرنے والے اور نہ کرنے والے کو وحی اور میت سے تعبیر کیا ہے۔ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی مثال زندہ کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ جو ہدایت کے راستے پر ہے وہ بصیر ہے اور جو گمراہی کے راستے پر ہے وہ اندھا ہے۔ اور اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔

اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ یہ اتنی واضح اور غیر مبہم چیز ہے کہ ذرا سا غور کرنے پر ہی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔

فرمایا اے پیغمبر! وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُجَسَّسُوْا اِلَيْهِمْ آپ ڈرائیں اس قرآنِ پاک کے ذریعے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ جن کے دل میں معاد کا خوف ہوگا وہ فوراً ایمان لے آئیں گے اور اگلے جہان کی فکر میں لگ جائیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں آخرت میں محاسبے کے عمل

اندھا اور
بینا

سے گزرنا ہے اور وہاں لیس لکھ صحت دُونِدِ وَلِيٍّ
 اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہ ہوگا۔ وہاں ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا جو
 انہیں عذابِ الہی سے بچا سکے۔ دنیا میں لوگ کئی قسم کے سہارے ڈھونڈتے
 تاکہ کسی طرح افتاد سے بچ جائیں۔ بعض اوقات دھوکہ اور فریب بھی وقتی
 طور پر چل جاتا ہے مگر قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔
 اس کے علاوہ وہاں کوئی کارساز نہیں ہوگا۔

مشلہ سفارش

فرمایا اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہوگا وَلَا شَفِيعٌ اور نہ ہی کوئی سفارش
 کرنے والا ہوگا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس سفارش سے وہ سفارش مراد
 ہے جس کے قابلِ مشرکین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا پیر، بزرگ یا معبود ہر حال
 میں ہمیں قہر الہی سے چھڑالیں گے۔ یہاں پر اسی جبری اور قہری سفارش کی
 نفی کی گئی ہے۔ البتہ جو سفارش فرشتے، انبیاء اور نیک لوگ کریں گے وہ
 دوسری سفارش ہے اور وہ بِإِذْنِ اللَّهِ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما
 دیا ہے ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ (البقرہ)
 اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی بھی سفارش کرنے کی صہرات
 نہیں کر سکے گا۔ مگر یہودیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں ہمیں
 حضرت ابراہیم علیہ السلام بچالیں گے۔ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہونگے
 اور ہر سخت شدہ اسرائیلی کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہی
 اعتقاد بعض لوگ اپنے پیروں کے متعلق رکھتے ہیں جو کہ قطعاً باطل ہے۔ یہ
 شکر یہ سفارش ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ
 موجود ہے۔ ”وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى“ (الانبیاء)
 خدا تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوگا، جس کا عقیدہ خدا تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ جس کا
 ایمان صحیح ہوگا، سفارش کی اجازت اسی کو ملیگی۔ انبیاء اولیاء اور اہل ایمان
 کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے جو کامل الایمان آدمی اللہ کی

راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تتر آدمیوں کی سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیگا۔ یہی اصل سفارش ہے جس کی اللہ تعالیٰ خود اجازت مرحمت فرمائیں گے۔

فرمایا آپ ان لوگوں کو اس قرآن پاک کے ذریعے ڈرا دیں کہ محاسبہ کا وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے ایمان کو درست کر لو لَوْلَا أَنَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر بات ان کی سمجھ میں آگئی تو پھر یہ بڑے اعتقاد اور معاصی سے بھی بچ جائیں گے۔ بلکہ شکوک و شبہات تک میں مبتلا نہیں ہوں گے ان کا ایمان بالکل راسخ ہو جائے گا اور وہ کامل حجے کے متقی بن جائیں گے۔ بہر حال موضوع یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو برائی سے ہٹا کر نیچے پر لگایا جائے اور حد کمال تک پہنچایا جائے ان کی قوت فخریہ اور قوت عملی درست ہو جائے تاکہ یہ جہنم کے دائمی عذاب سے بچ جائیں۔

الانعام ۶

آیت ۵۲ تا ۵۵

وإذا سمعوا

درس چہارم ۱۲

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ
شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَطْرَدَهُمْ
فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ
مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ
فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ :- اور نہ دھکیں آپ ان لوگوں کو جو

پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، وہ چاہتے ہیں

اُس کی رضا۔ آپ پر ان کا حساب نہیں ہے اور نہیں

ہے۔ آپ کے حساب میں سے ان پر

کچھ۔ پس آپ ان کو دھکیل دیں تو ہو جائیں گے آپ

ناانصافوں میں سے ﴿۵۲﴾ اور اسی طرح ہم نے آزمایا

ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ تاکہ یہ (آسودہ حال لوگ) کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے۔ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا۔ شکر گزاروں کو (۵۳) اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، پس آپ کہہ دیں ان سے سلامتی ہو تم پر۔ لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اُوپر رحمت کو۔ بیشک تم میں سے جو شخص کوئی برائی کریگا نادانی کے ساتھ، پھر وہ توبہ کریگا اسی کے بعد اور اصلاح کرے گا، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے (۵۴) اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ (۵۵)

ربط آیات

پہلے اللہ تعالیٰ نے منصبِ نبوت و رسالت کو بیان فرمایا اور اپنی مرضی کی نشانیاں طلب کرنے والے لوگوں کا رد کیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ ہر نشانی ظاہر کر سکتا ہے مگر ایسا یہودہ مطالبہ کرنے والے ہی بے سمجھ ہیں۔ جو لوگ مطلوبہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام بھی بڑا سخت ہے وہ ناقربان قوم کو فوراً سزا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی تو بشر اور مندر ہوتے ہیں، معجزات ظاہر کرنا ان کے فرائض میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، نہ میں غیب دان ہوں اور نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے میں اسی کا اتباع کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام نے خود اپنے متعلق ان امور کی نفی فرمادی تو پھر دوسرے شخص کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ خزانوں کا مالک

ہو یا غیب کی باتیں جانتا ہو۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین حضور علیہ السلام کے انسانی تعلقات پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ کھانا پیتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ بازار سے سودا سلف لاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں جو ان چیزوں سے مبرا ہوں میں تو انسان ہوں اور باقی انسانوں کی طرح تمام لوازمات بشریہ مجھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز منضبط نبوت و رسالت کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی انبیاء کو منتخب کرتا ہے، ان کو اعلیٰ اخلاق عطا کرتا ہے اور پھر انہیں دوسروں کے لیے نمونہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بھائی سرزد نہیں ہونے دیتا۔ وہ پاک ہوتے ہیں اور وحی الہی کا پورا طریقے سے اتباع کرتے ہیں۔

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مکہ کے آسودہ حال مشرکین حضور علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے۔ کہ آپ کے اردگرد غریب اور کمتر حیثیت کے لوگ جمع ہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق ایسی مجلس میں جانا ان کی توہین کے مترادف تھا، لہذا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے اس وقت آپ کے پاس آسکتے ہیں جب آپ صہیبؓ، عمارؓ، اور عبداللہ بن مسعودؓ جیسے نادار لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا کریں۔

بڑے چھوٹے، امیر غریب اور آقا غلام کی تفریق صرف مشرکین عرب میں ہی نہیں بلکہ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بھی موجود تھی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی آپ سے ہی کہتے تھے۔ کہ آپ کا اتباع کرنے والے ادا ذلکنا بادی العراچی ہم میں سے ذلیل لوگ ہیں۔ حقیر اور معمولی حیثیت کے مالک ہیں اور ان کی رائے کی بھی کوئی حیثیت نہیں، لہذا

امیر و غریب
کافترق

ہم ان کی ہم نشینی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں جو صاحبِ حیثیت ہوں، اپنی قوم کے سردار ہوں، جن کے پاس لوگوں کا کمرہ ہوں، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں، تمہارے پیچھے لگنے والے تو سرسری رائے کے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کو یہی جواب دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو زبانِ نردعام ہیں۔ فرعون اس قدر مغرور تھا کہ وہ خود موسیٰ علیہ السلام کو حقیر جانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مغرور بھی اسی باطل زعم میں مبتلا تھا۔ بہر حال حضور علیہ السلام کے اپنے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی ہر دور میں امرؤ نے اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع مخلوق سمجھ کر چھوٹے درجے کے لوگوں سے میل ملاپ ترک کر رکھا تھا۔

بہر حال مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ان چھوٹے لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا کریں

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ

حضور علیہ السلام زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ایمان لانے پر بہت حریص تھے، اس لیے کسی وقت آپ کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ اپنے تو اپنے ہی ہیں اگر دوسرے لوگوں کو تبلیغ کرنے کی خاطر ان کو تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے علیحدہ بھی کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے رؤسا ایمان لے آئیں اور ان کے پیچھے اور بھی بہت سے لوگ آجائیں اور اس طرح دین کو تقویت حاصل ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایسا کرنے کی اجازت

نہ دی اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

بِالْعَدَاوَةِ وَالْبُغْضِ ۗ اِنَّ لَكُمْ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرٰتٍ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ ۗ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
دور نہ کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

پر انکا مکمل ایمان ہے اور وہ نہایت خلوص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کا مطمع نظریہ ہوتا ہے يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ وہ اپنے رب کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں یعنی اس کی رضا چاہتے ہیں، صبح شام پکارنے سے ان کی یہی مراد ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے وَجْهَهُ کو ظاہر پر محمول کیا ہے اور اس طرح مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہیں جو کہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے لہذا آپ ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے محروم نہ کریں۔

طرود کا معنی اہانک دینا یا دھکیل دینا ہوتا ہے اور طراد لڑائی کو بھی کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے دو مقابل ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا۔ اور اتنزلون فانا معشى نزل دشمنوں نے کہا ہم تو طراد یعنی جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا یہ تو ہماری عاد ہے۔ اگر نیچے اتر کر مقابلہ کرنا چاہتے ہو۔ تو ہم بھی تلوار چلانا جانتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنے سچے ساتھیوں کو

دور مٹانے کا نہ سوچیں کیونکہ ما علیک من حسابہم
ممن شئ آپ پر ان کے حساب کے متعلق کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا حساب تو خود اللہ تعالیٰ نے لے گا کہ یہ لوگ اس کے ہاں کس حیثیت اور مرتبے کے لوگ ہیں فرمایا وما من حسابك علیہم ممن شئ اور نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ ہر نفس کو اپنا حساب خود پیش کرنا ہو گا۔ یہ کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا کہ کون کس قدر کامل الایمان ہے۔ لہذا آپ ان کو علیحدہ نہ کریں فتطردہم اور آپ نے ایسا کیا۔ ان ایمانداروں کو مٹا دیا۔ فتکون من الظالمین تو یقیناً آپ نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دیا۔ کہ بڑے لوگ ایمان لائیں

یا نہ لائیں آپ ان کم تر لوگوں کو اپنی مجلس سے محروم نہ کریں۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے کہ حُبِّ مال اور حُبِّ منصب دو ایسی بیماریاں ہیں جو ایمان قبول کرنے میں ہمیشہ مانع رہی ہیں۔ حُبِّ جاہ و منصب اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پر ایمان لاکر اپنی چوڑھڑھڑٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اپنی خود ساختہ بڑائی کو قربان کر کے مساوات کی سطح پر نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں لہذا ہمارے ساتھ کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس طرح بڑے اور چھوٹے میں فرق کیا رہ گیا۔ اسی طرح مال و دولت کی محبت بھی انسان کو خود غرضی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ مال و دولت کی حد سے زیادہ محبت کو شریعت میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ فجر میں موجود ہے "حَبُّونَ الْكَمَالِ حُبًّا حَبًّا تَمْحِي بَهْرَ كَرَمَالٍ سَعَةَ مَحَبَّتٍ كَرْتَهُ هُوَ يَهْمُ مَحَبَّتِ تَمَّهِي تَبَاهٍ كَرَّ كَ حَبُّوْرَے كَى۔"

مساکین
سے محبت

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غربا و مساکین سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے کبھی ان کو خود سے علیحدہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ان کے درمیان ہونے کو پسند فرمایا چنانچہ آپ دعا کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَسْكِيْنَا وَ اَمِتْنِي مَسْكِيْنَا وَ اَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسْكِيْنِ اے اللہ! مجھے زندہ رکھ تو مساکین کے درمیان اور جب موت سے تو بھی مسکینی کی حالت میں اور میرا حشر بھی اتنی کے ساتھ کر۔ آپ نے یہ بھی دعا کی وَ اَرْزُقْنِي حُبَّ الْمَسْكِيْنِ اے اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عطا کر۔ غرباء و مساکین اہل اللہ کے متعلق سورۃ کہف میں بھی ایسے ہی الفاظ آتے ہیں وَ اَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُوْنَ وَجْهَهُ جُوْلُوْكَ صَبْحٍ وَ شَاْمٍ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں آپ

اُن کے ساتھ عبرت کرتے رہیں "وَلَا تَقْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ" اور آپ اُن سے صرف نظر نہ کریں بلکہ اُن پر شفقت کی نگاہ رکھیں۔

حضرت علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پر ہر قیل قیصر روم کو بھی خط لکھا تھا۔ جب یہ خط قیصر کے پیش ہوا تو اُس نے حکم دیا کہ اگر عرب کا کوئی شخص مل جائے تو حاضر کیا جائے۔ اُن دنوں غزہ میں ابوسفیان کی قیادت میں قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ مقیم تھا۔ چنانچہ ابوسفیان کو ہر قیل کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور ہر قیل نے اُن سے حضرت علیہ السلام کے متعلق مختلف سوال کیے۔ جن میں ایک سوال یہ بھی تھا۔ کہ جس مدعی نبوت کا خط مجھے پہنچا ہے اُس کے اولین متبعین کمزور لوگ ہیں یا بااثر شخصیتیں۔ تو ابوسفیان نے کہا کہ نادار اور کمزور لوگ ہیں۔ اس پر ہر قیل پکار اٹھا کہ ابتداء میں نبیوں کے پیروکار ہمیشہ ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ اس وقت ایمان لاتے ہیں۔ جب اُن کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں رہتا، ہر قیل کا یہ مقولہ سابقہ کتب کی تعلیم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھا دی ہے کہ مال و دولت یا جاہ و منصب پر اترنا غلط بات ہے۔ اصل میں مدارِ عزت ایمان ہے نہ کہ جاہ و حشمت، اللہ کے ہاں باعزت وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نیکی اور پیمانہ نگاری جس کا شیوہ ہے۔ اور یہ صفات ان غریب و مساکین میں پائی جاتی ہیں۔ مگر مالدار اور چوہدری قسم کے لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو نا انصافیوں میں شامل ہو جائیں گے۔

فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض سے۔ یعنی بعض آدمیوں کو ہم نے مال و دولت

یا جاہ و حکومت سے کر آزمایا کہ یہ اپنے ماتحتوں یا کم تر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں انکو حقیر سمجھ کر حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں یا انکا احترام کرتے ہیں اور خوشدلی سے پیش آتے ہیں

اسی طرح مساکین کو عسرت میں مبتلا کر کے آزمایا ہے۔ سورۃ فرقان میں موجود ہے "وَجَعَلْنَا لِبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً" ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے "اَلصَّبْرُ وَن" کیا تم صبر کرتے ہو؟ مقصد یہ کہ عزباد کو غربت میں مبتلا کر کے آزمایا ہے کہ آیا یہ امر کی امارت دیکھتے کے باوجود صبر کرتے ہیں؟ "وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا" تیرا رب تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ امیر کو دولت دیکھ کر آزماتا ہے کہ یہ مساکین کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے اور غریب کو غربت دیکھ کر آزماتا ہے کہ یہ کس حد تک صبر کرتا ہے۔ مسکرت مقام افسوس ہے کہ اس آزمائش میں دونوں طبقے ناکام رہے ہیں، نہ تو دولت مند عزباد کا خیال رکھتے ہیں اور نہ مساکین صبر سے کام لیتے ہیں۔

روس میں ۱۹۱۷ء کا انقلاب اسی امیر غریب کے سوال پر ہی آیا تھا جس کی بھینٹ تین کروڑ آدمی چڑھ گئے۔ امراد نے عزباد پر مظالم توڑے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غریبوں نے تحریک چلائی۔ کروڑوں گمراہ بدین تھے، غریبوں نے امیروں کو مردار کتوں کی طرح گھسیٹا۔ یہ غریبوں کو حقیر سمجھنے کا شاخسانہ تھا، نہ امیروں نے حقوق ادا کیے، نہ غریبوں نے صبر کیا جس کا نتیجہ کشت و خون کی صورت میں نکلا۔ شیخ سعدی نے گلستان میں ایک ایسا عمدہ فقرہ کہا ہے جس کے متعلق لوگوں نے کہا کہ ہماری ساری کتابوں کے بدلے یہ ایک فقرہ ہمیں دے دیں۔ کہتے ہیں۔

"خواہندہ مغربی در صفت بزازان حلب میگفت اے خداوندان نعمت اگر شمار انصاف بود و مارا قناعت رسم سوال از جہاں برخاستے، ملک کے مغرب ہیں ایک محتاج نے بزازوں کی صفت میں کھڑے ہو کر کہا، اے دولت کے مالکو! اگر تم میں انصاف اور ہم میں قناعت ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی سوال نہ کرتا یعنی سوال کی رسم ہی بدخواست ہو جاتی

ہم دونوں مجرم ہیں۔ تم میں سخاوت نہیں ہے اور ہم قناعت سے محروم ہیں۔ دولت کے ہوتے ہوئے تم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے اور ہم صبر سے عاری ہو چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مصائب کا شکار بنی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے اس دولت کو لعنت کے برابر کہا ہے جس میں سے غریبوں حقوق نہ ادا کیے جائیں، ایسی دولت مندی باعث وبال ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے مال سے تمام فرضی، واجبی حقوق ادا کرتا ہے تو پھر یہ دولت جائز ہے اگر علت و حرمت کا امتیاز ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ سرمایہ داری

اسلامی نظام
معیشت

(Capitalism) ہے۔ اس کا حامی سرمایہ پرست ہے۔ اور دوسری طرف نفرت اور عداوت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ کہ سرمایہ داروں کے پاس سرمایہ کیوں ہے خواہ اس نے جائز ذرائع سے ہی کیوں نہ حاصل کیا ہو اور وہ تمام حقوق بھی پورے نہ ادا کرتا ہو، مگر محض صاحب مال دولت ہونا ہی گردن زدنی سمجھ لیا گیا ہے یہ بھی غلط ہے یہ لوگ نہ صرف سرمایہ داری کے خلاف ہوتے ہیں بلکہ آگے چل کر مذہب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں کہ سرمایہ داروں نے لوگوں کو اٹوٹ بنانے کے لیے مذہب کی اڑے رکھی ہے سوشلسٹ ملکوں میں یہی کچھ ہوا ہے پہلے سرمایہ داروں کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر آہستہ آہستہ مذہب کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ ان کی بات کسی حد تک درست بھی ہے۔ اکثر و بیشتر اقتدار پسند سرمایہ داروں اور ملوک نے مذہب کو غلط استعمال کیا ہے۔ البتہ کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اورنگ زیب عالمگیر بھی تو بادشاہ تھے، سلطان ناصر الدین التمش بھی اسی سرزمین پر سناقتدار پر رہا ہے، اس کے پاس کابل سے برما تک کی حکومت تھی مگر دل میں خوف خدا رکھتے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے بلند پایہ لوگ بھی تو ہوئے ہیں جن پر اقتدار کا نشہ غالب نہیں آیا اور جنہوں نے مستحقین کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن یہ مذہب کا غلط استعمال تھا جس کی وجہ سے ملحدوں کو مذہب کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کا موقع ملا۔ غرضیکہ یہ

غزوات کے
لیے رحمت کی دعا

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ آپ اہل ایمان میں سے ہیں
کو اپنے آپ کے علیحدہ نہ کریں بلکہ وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْوَحْيِ نَقُولُ
فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ان سے کہیں کہ تم پر خدا تعالیٰ کی طرف
سے سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے مقام تک پہنچائے ان کے
حق میں رحمت کی دعا کریں۔ کیونکہ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةُ تَهَيَّأَ پروردگار نے اپنے فی رحمت کو لکھ لیا ہے
جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے
اللہ نے عرش پر لکھ رکھا تھا إِنِّي رَحِيمٌ سبقت غَضَبِي
بیشک میری رحمت میرے غصے سے سبقت کرنے والی ہے۔ میرا غصہ اسی
پر وارہ ہوتا ہے جو بالکل ہی سرکش ہو جائے۔ دگر نہ میری رحمت عام ہے۔

پھر فرمایا میری رحمت کا اس قدر وسیع ہے کہ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ
مِنْكُمْ سَوْءًا أَوْ جَاهِلَةً جو کوئی تم میں سے نادانی کی وجہ سے
کوئی برائی کا کام کرے بیٹھے۔ ظاہر ہے کہ بڑا کام ہمیشہ جہالت اور نادانی کی وجہ
سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب عقل و علم بھی ہے تو بڑا کام اسی وقت
کرنے کا جب اس پر جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ فرمایا جو کوئی جہالت کی
بنیاد پر کوئی غلط کام کرتا ہے، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ پھر اس
کے بعد توبہ کر لی وَأَصْلَحَ اور اصلاح بھی کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا،
حقوق و فرائض پر کار بند ہو گیا۔ آئندہ بُرائی سے باز رہنے کا عزم کر لیا۔ تو فرمایا
فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور از حد
مہربان ہے۔ وہ خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ
نُفِصِّلُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ توجیہ
کے دلائل اور منصب رسالت کی تفصیل وغیرہ سب کچھ وضاحت

کے ساتھ بیان کرتے ہیں **وَلَا تَسْتَبِیْنَنَّ سَبِيلَ الْمُجْرِمِیْنَ**
 تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ جب اہل ایمان کے راستے کی سمجھ
 آجائے گی تو اس کا مخالف ہر راستہ مجرموں کا راستہ ہوگا اور یہ راستہ کفر، شرک
 اور بدعات کا راستہ ہے، حپ مال و جاہ کا راستہ ہے، عزربا کو حقیر جاننے
 اور انسانیت کے خلاف کرنے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے
 اس راستے کو واضح کر دیا ہے، اب اس سے بچنا ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے،

واذا سمعوا

الانعام ۶

آیت ۵۶ ۵۸

درس پانزدہم ۱۵

قُلْ اِلٰى نُهَيْتُمْ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعْ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ اِذَا وَاَمَّا اَنَا فَاَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴿۵۶﴾ قُلْ اِلٰى عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِيْ مَا اسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنْ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا اسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بِيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظٰلِمِيْنَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! کہہ دیجئے، بیشک مجھے روکا گیا ہے اس

بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ

کے سوا۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری

خواہشات کی میں تو اس وقت تک جاؤں گا، اور نہیں رہوں

گا میں ہدایت پانے والوں میں سے ﴿۵۶﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ

دیجئے، بیشک میں کھٹلی دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے

اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ نہیں ہے میرے پاس وہ

بات جس کی تم طلب کرتے ہو۔ نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ

کے لیے وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا

ہے ﴿۵۷﴾ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اگر ہو میرے پاس وہ

بات جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے
کا میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے

دالوں کو (۵۸)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ فرمایا تھا جن کا تعلق اہل ایمان کے
ساتھ تھا، مثلاً یہ کہ آپ ضعیف اور نادار اہل ایمان کو اپنے آپ سے دُور نہ کریں بلکہ ان پر
نگاہِ شفقت رکھیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا ہے تو عین ممکن
ہے کہ کمزور لوگ باصلاحیت اور ایمان دار ہوں اور اعلیٰ صلاحیت کے مالک گمراہ ہوں
اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہی ایمان قبول کرتے ہیں۔ جب کہ اگر اپنے
غرور اور تکبر اور مال و دولت کے گھمنڈ میں ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ
نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان ناداروں کو مجلس سے دُور نہ کریں بلکہ جب
وہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی بشارت سنائیں
اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور اُس کی رحمت بے پایاں ہے اُس
مالک الملک کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نادانی کی وجہ سے غلطی کا ارتکاب
کر بیٹھے، پھر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو میں اُسے معاف کر دوں گا۔ یہ سب
باتیں اہل ایمان سے متعلق تھیں۔ اور اب آج کے درس میں ان باتوں کا ذکر ہے جن کے
لیے مکذبین کو خطاب کرنا زیادہ مناسب ہے تاکہ ان مجرمین کو تہنید ہو سکے۔ اس کے
علاوہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور مقام توحید کی تشریح بھی بیان فرمائی ہے۔

غیر اللہ کی
پرستش
کی ممانعت

ارشاد ہوتا ہے فَلَا يَغْنِيْهِ اَنْ يَّكْفُرَ بِهٖتُمْ مجھے منع کیا
گیاہے۔ نَهَيْتُمْ مجھول کا صیغہ ہے یعنی مجھے روک دیا گیا ہے اَنْ اَعْبُدُوْا
الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں
جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یعنی عبادت کرتے ہو اور یہی صریح شرک ہے اور اللہ تعالیٰ
نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک کر لے گا میں ایسے شخص

کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی انسان کا ضمیر بالکل مُردہ نہیں ہو گیا، تو وہ گواہی دیتا ہے کہ شرک بہت بُری بات ہے، اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، شاعر نے خوب کہا ہے۔

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ كَذِبٌ آيَةٌ
تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

یعنی انسان کے لیے ہر چیز میں نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اُس کا کوئی شریک نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ صاحب عقل آدمی درختوں کے پتے دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو کوئی شخص کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا آباد ہے، کوئی دوسرا انسان اُس تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اُس کے پاس نہ کوئی نبی آتا ہے نہ رسول اور نہ ہی کوئی دوسرا مبلغ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہوگا کہ فرائض دین یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے لیے تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ چیزیں انبیاء اور پھر ان کے مبلغین کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، البتہ اگر اُس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا بلکہ شرک کا ارتکاب کیا، تو پکڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے عقل حبیبی عظیم نعمت عطا کی۔ اُس کے ارد گرد اپنی قدرت کی ہزاروں نشانیاں بکھیر دیں جنہیں دیکھ کر اُسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر پھر بھی اُس نے شرک کیا ہے تو اس کا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا ضمیر اور عقل سلیم بھی شرک کے خلاف ہیں۔ خود انسان کا وجدان اور اُس کا نور و شہود بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو شرک کے ارتکاب سے روکتی ہیں، اسی لیے یہاں پر فرمایا اِنْتِ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكَ عَلَيِّكَ حُكْمٌ دِيَاگیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کروں تو قرآن پاک تو وحی الہی ہے، یہ تو بہر صورت

شُرک سے منع کرتا ہے مگر اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں اور دلائل ہیں جو انسان کو شرک سے روکتے ہیں۔ تَدْعُوْنَ کا معنی ہے جن کو تم پکارتے ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم مصیبت میں پکارتے ہو، ان سے حاجتیں طلب کرتے ہو، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، میں ان کی پوجا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کیونکہ ہر چیز کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت کو دور کرنے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے لہذا اس کے علاوہ میں کسی ہستی کی پرستش کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔

یہاں پر لفظ مِنْ دُونِ اللّٰهِ بھی توجہ طلب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا خدا ماننے کے باوجود بعض چھوٹے چھوٹے خداؤں کی پرستش بھی کی جاتی ہے۔ اور مشرکین قدیم زمانے سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اصل خدا تعالیٰ تو وہی ہے مگر یہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی کچھ نہ کچھ کام بناتے ہیں۔ بڑے اللہ نے ان چھوٹوں کو بھی بعض اختیار دے رکھے ہیں لہذا ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ ابتدائے سورۃ میں عرض کیا گیا تھا کہ اس سورۃ مبارکہ میں تمام قسم کے شرکوں کی تردید کی گئی ہے۔ شرک خواہ اعتقاد میں ہو۔ قول میں ہو یا فعل میں، یہ بہر حال بدتمہین جرم ہے عملی شرک کی بعض صورتیں بھی آگے بیان ہوں گی کہ لوگ کس طرح غیر اللہ کی نذر و نیاز دے کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں کس کس طریقے سے شرک بنائے جاتے ہیں۔

ایک اور بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سورۃ مبارکہ سے پہلی سورتوں میں طرتِ حنیفیہ والوں یعنی یہود و نصاریٰ وغیرہ اور مشرکین عرب کو زیادہ تر خطاب کیا گیا تھا۔ اور اس سورۃ کے مخاطبین صابی قوموں کے لوگ ہیں جن میں ہندو، بدھ، چینی، رومی اور یونانی وغیرہ شامل ہیں۔ وہ بھی اسی

طرح مشرک ہیں جس طرح یہود و نصاریٰ اور مشرکین عرب تو فرمایا مجھ کو منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کو اللہ مانتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو۔

نفسانیہ
خواہشات
سے اجتناب

اس کے بعد ارشاد ہے فَلَا تَتَّبِعُوا اہل کفر میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہوتا ہے۔ تمام شرکیہ رسوم اور بدعات اسی نفس پرستی کی پیداوار ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوا یا کہ میں تمہاری یہودہ خواہشات کے پیچھے نہیں لگ سکتا۔ سُورَةُ فِرْقَانٍ میں موجود ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ کیا آپ نے اُس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے کسی نے مسیح علیہ السلام کو معبود بنا لیا، کسی نے پتھر کو مان لیا، کسی نے کسی قبر والے کو، اور کسی نے جن بھوت، پریت اور فرشتے کو اپنا معبود بنا لیا۔ توحید کی بنیاد فطرتِ عقل سلیم اور وحی الہی پر ہے۔ جب کہ شرک کی بنیاد خواہشاتِ نفسانیہ پر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا قَدْ ضَلَلْتُ تو میں بہک جاؤں گا۔ اگر میں تمہاری ان مشرکانہ رسوم اور بدعات پر عمل کرنے لگوں تو میں بہک جاؤں گا۔ اصل راستے سے ہٹ جاؤں گا إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اور ایسی صورت میں میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ اگر خدا کا معصوم نبی ہی مشرکانہ رسوم اور بدعات کو اپنانے لگے تو پھر ہدایت اور گمراہی میں کیا فرق رہ گیا۔ ہم تو ہدایت کے راستے پر ہیں جو وحی الہی پر مبنی اور جس کی گواہی خدا کی تعلیم، فطرتِ سلیمہ اور عقلِ سلیم بھی دیتی ہے۔ ہم گمراہی کے راستے پر نہیں جا سکتے۔

قرآن کریم
کے ساتھ
والبقی

فَرَمَا قُلْ لِي سَمْعًا بِمَا كَرِهْتُمْ
مَنْ رَبِّكَ سَمْعًا بِمَا كَرِهْتُمْ

ہوں۔ اس مقام پر کھلی دلیل سے مراد قرآن کریم ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں تو قرآن پاک کے احکام کے تابع ہوں، میرے لیے اللہ کا کلام ہی حجت ہے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اس کی تکذیب کر دی ہے قرآن پاک کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہاں پر بہ کی ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ بینہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اسی سورۃ میں آگے آئے گا قَدْ جَاءَكُمْ

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ اللہ کا یہ قرآن تمہارے دلوں میں بصیرت پیدا کرنے والی چیز ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، تمام تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کے اندر اخلاقِ حسنہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں نزول قرآن کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا ہے لِنُخْرِجَ

النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ گناہ، کفر، شرک، بدعات سب اندھیرے ہیں۔ اور ایمان، اخلاص، توحید اور نیکی روشنی ہے۔ بہر حال یہاں پر بینہ سے مراد قرآن حکیم ہے اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے کہ آپ کہ دیں میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل

یعنی قرآن حکیم پر ہوں، میرا نصب العین وہی ہے جو قرآن پاک نے متعین کیا ہے ویسے بینہ معجزے اور نشانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (الروم) بیشک اسمیں عقل والوں کیلئے واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ پہلے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے لَوْ لَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ آيَةً مِّنْ رَبِّكَ اَسْ كَرِهْتُمْ

کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اسی طرح بینہ کا اطلاق

ہدایت پر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ بینہ میں موجود ہے اہل کتاب اور مشرکین کفر سے باز آنے والے نہ تھے ”حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ“ جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل یعنی اللہ کی طرف سے رسول نہ آجاتا۔ گویا بینہ کا اطلاق رسول پر بھی کیا گیا ہے اور یہ بالکل برحق ہے کیونکہ قرآن کریم میں وحی الہی کے ذریعے جو بھی تعلیم نازل ہوئی ہے، حضور علیہ السلام اس کے مجموعہ محکم ہیں۔ اگر علم دیکھنا ہو تو قرآن میں دیکھو اور عمل کا مشاہدہ کرنا ہے تو نبی کی ذات میں کرو۔ بایں ہمہ اس آیت کریمہ میں بینہ سے قرآن کریم ہی مراد ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بین ہوتی ہے اور کوئی غامض بین یعنی کھلی چیز کہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ توحید، صبر، شکر وغیرہ بینات میں داخل ہیں۔ اور غامض یعنی چھپی ہوئی چیز کی تعلیم نبی صیتے ہیں مثلاً تعظیم شعائر اللہ نبی کے تبتلانے سے معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک بار ایک بات ہے۔

الغرض! اللہ نے فرمایا آپ کہ یُحِبُّ، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی قرآن پر ہوں وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ تم قرآن پاک کو خدا تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ”مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰی بَشَرٍ مِّمَّنْ شَيْءٌ“ یعنی اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری العیاذ باللہ۔ فرمایا جب تم اللہ کے سچے کلام پر ایمان نہیں لاتے تو مَا عِنْدِيٰ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بہ میرے پاس وہ بات نہیں ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو مشرکین کہتے تھے۔ کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسائے یا کوئی اور عذاب لے آ۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ ان سے کہ دیں کہ مجرمین کی گرفت کرنا اور ان پر عذاب لے آنا میرے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ إِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ تمام حکم تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جب چاہے اور

الشیخ پوری
نے سے معذرت

جہاں چاہے مجرمین کو بچا کر سزا میں مبتلا کر دے یا اہلقت دیدے، سب کچھ
 اسی کے اختیار میں ہے۔ يَقْضُ الْحَقَّ وہ حق بیان کرتا ہے، اس کی ہر بات
 سچی اور سچی ہوتی ہے وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلَيْنِ اور وہ سب سے بہتر
 فیصلہ کرنے والا ہے، جب چاہے گا فیصلہ کر دے گا۔ پھر فرمایا فَسَلُّ
اے پیغمبر! آپ کہیں لو اَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اگر
 میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کرتے ہو۔ یعنی اگر میں تمہاری
 مرضی کی نشاںیاں ظاہر کرنے پر قادر ہوتا یا تمہاری خواہش کے مطابق تم پر عذاب
 لاسکتا لَقَضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تو میرے اور تمہارے
 درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں مطمئن
 کر دیتا اور معاملہ صاف ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے
 اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمتِ عملی کے مطابق جب چاہتا ہے کسی بات
 کا فیصلہ کر دیتا ہے۔

ایک اشکال
 اور اس کا جواب

امام ابن کثیر نے ایک اشکال پیدا کیا ہے کہ اس آیت کہ میرے پاس وہ بات نہیں
 ہے جسے تم طلب کرتے ہو مگر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت
 میں ہے کہ انہوں نے کسی موقع پر حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ بتائیں
 کہ اعدائے دن سے بھی زیادہ تکلیف کبھی آپ کو پہنچی ہے تو حضور نے
 فرمایا کہ ہاں مُخْتَبِرٌ وَاللَّادِنِ میرے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ فرمایا
 جب میں نے طائف میں ابن عبد یلیل بن کلال اور دیگر سرداران کے
 سامنے اللہ کا پیغام بیان کیا تو انہوں نے نہ صرف تکذیب کر دی بلکہ شہر
 کے غنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا جنہوں نے سنگباری کر کے مجھے لہو لہان کر
 دیا حتیٰ کہ جسم کا خون جوتے میں آکر جم گیا۔ آپ پر بہوشی طاری ہو گئی۔ حتیٰ کہ آپ
 قرنِ تعالیٰ کے مقام پر بیٹھ گئے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور

عرض کیا کہ آپ کی طرف سے تبلیغ اور اس قوم کا جواب اللہ نے سن لیا ہے اور مجھے پاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس فرشتے نے — آپ کو سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پاڑوں احنثین کو ملا دوں تاکہ مکے اور طائف کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ انہی کی اولاد میں سے ایسے لوگ نکالے گا لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اس کی وحدانیت کو مانیں گے، لہذا میں ان کی طرف سے بدسلوکی پر بھی اپنا رویہ نرم ہی رکھتا ہوں۔ آپ نے دُعَا فِرْمَانِي اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ بے سمجھ ہیں۔

اہم ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا تھا مگر اس آیت کو میرے میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ تو ان دونوں میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اہم صاحب اس کا جواب خود ہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے اختیارات کی نفی اس وقت کی تھی جب کفار نے اپنی مرضی کی نشانیاں طلب کیں یا عذاب اور قیامت لانے کو کہا، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے برخلاف طائف کے واقعہ میں خود اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر آپ کی منشاء معلوم کی تھی مگر آپ نے کفار کی ہلاکت کی بات کو پسند نہ کیا۔ ان دونوں واقعات میں یہ فرق ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اہل طائف کے متعلق حضور علیہ السلام نے جو امید ظاہر کی تھی کہ شاید ان کی اولادیں ایمان لے آئیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بدل دیا۔ آپ کی دعا پوری ہوئی چنانچہ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین واقع ہوئی پھر طائف پر چڑھائی کی گئی، مہینہ بھر شہر کا محاصرہ رہا آخر حضور علیہ السلام طائف

کو اسی حالت پر چھوڑ کر واپس آگئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں خود ہی ایسی بات ڈال دی کہ ان کا وفد مدینہ طیبہ آیا اور سب نے ایمان قبول کر لیا پورا طاقتِ مطیع ہو گیا۔ آپ رحمتِ عالم ہیں اگر آپ غصے میں کہ دیتے تو تمام طاقت والے ہلاک ہو جاتے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر اُن کی آئندہ نسلیں اسلام پر قائم رہیں۔

بہر حال فرمایا، اگر تمہاری مطلوبہ چیز میرے پاس ہوتی یعنی میں تمہارے کہنے پر عذاب لا سکتا تو تمہارے اور میرے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور تم اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہوتے، مگر یہ میرے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پر عذاب نازل کر دے اور چاہے تو کسی قوم کو مہلت دے دے۔

فرمایا ایک بات یاد رکھو وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر انہیں مہلت مل رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے ہمیشہ بچتے رہیں گے اور اُن پر کوئی گرفت نہیں آئیگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اُن کو جانتا ہے اور اپنی مشیت کے مطابق مقرر وقت پر ضرور اُن کو پکڑ لے گا اور پھر وہ ابدی لعنت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو تلف کیا، فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اُن سے ان کے عقیدے اور عمل کے مطابق سلوک ہو گا۔

جزا بمطابق
عمل

واذا سمعوا

الانعام ۶

درس شانزدہم ۱۶

آیت ۵۹ ۶۰

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ أَرْضٍ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۶۰﴾

ترجمہ :- اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، نہیں جانتا ان کو اس کے سوا کوئی۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور دریا میں ہے، اور جو گرتا ہے پتہ اس کو وہ جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کی تارکیوں میں اور نہ کوئی تر چیز اور نہ خشک چیز ہے مگر وہ کتابِ مبین میں درج ہے ﴿۵۹﴾ اور وہی ہے جو وفات دیتا ہے تم کو رات کے وقت۔ اور جانتا ہے جو تم کھاتے ہو دن کے وقت پھر اٹھاتا ہے تم کو اس کے اندر تاکہ پورا کیا جائے مقررہ وقت۔ پھر اس کی طرف ہے تمہارا لوٹ کر جانا، پھر وہ بتلا دے گا تم کو وہ کام جو تم کیا کرتے تھے ﴿۶۰﴾

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی پھر غیر اللہ کی پوجا کی

ربط آیات

ممانعت کے حکم کا ذکر فرمایا اور غیر اللہ کی عبادت کو خواہشات نفسانیہ پر مبنی قرار دیا۔ یہ جبرم عقل سلیم، فطرت سلیمہ، انبیاء کی تعلیمات اور وحی الہی کے بھی خلاف ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو جواب دیا جو حضور علیہ السلام سے من پسند نشانیاں تلاش کرتے تھے یا عذاب کے آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوا دیا کہ یا اور کھو! تمہاری فرمائشیں پوری کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ ان الْحُكْمُ لِلَّهِ حکم تو سارا اللہ کے قبضے میں ہے، وہی قدرت تامہ کا مالک ہے اور میرے سمیت کسی مخلوق کے علم میں نہیں ہے کہ کس کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے یا کوئی نشانی ظاہر کرنا مصلحت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یا اُس کو کب ظاہر کرنا ہے۔ یہ تو ہر چیز اسی مالک الملک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہو چکا ہے وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ اپنی مصلحت کے مطابق جب چاہیگا ان کو پکڑے گا۔

علم مجید

قدرت تامہ اور علم محیط کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے، تاہم آج کی آیت میں اُس کی کچھ مزید جزئیات کا تذکرہ ہے محیط کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا، گزشتہ دروس میں بیان ہو چکا ہے کہ قدرت تامہ اور علم محیط دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفا مختصہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی قدرت تامہ کا مالک ہے اور نہ ہی کوئی علم کل ہے۔ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو سب سے زیادہ علم دیتا ہے۔ دین اور شریعت کی کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو نبی کے علم میں نہ ہو شریعت کے علاوہ کوئی اشیاء کی بہت سی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مطلع کر دیتا ہے تاہم ذرے ذرے کا علم نہ کسی نبی کو ہوتا ہے، نہ فرشتے کو، نہ جن کو، نہ ولی کو اور نہ

دوسری ہستی کو، لہذا علم محیط یعنی وہ علم جس نے ذرہ ذرہ کا احاطہ کر رکھا ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مختص ہے چونکہ تمام چیزوں کا خالق وہی ہے لہذا ان کی علت اور اثرات کو بھی وہی جانتا ہے۔ وہ علت العلل ہے تمام کائنات اور مخلوق کا سلسلہ اسی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی ذات ذرے ذرے کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

قدرتِ تامہ

علم محیط اور قدرتِ تامہ ہی دو ایسی صفات ہیں جو لوگوں کو اشتباہ میں ڈالتی ہیں۔ نبی کی زبان سے کوئی بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ بھی علیم کل ہے۔ یا کسی نبی یا ولی کے ہاتھ پر کوئی نشانی دیکھی تو اُس کو نبی یا ولی کا ذاتی فعل سمجھ لیا۔ اور کہنے لگے کہ یہ بھی قدرتِ تامہ کے مالک ہیں۔ عیسائی اور مشرکین اسی راستے سے شرک میں مبتلا ہوئے اور آج کا مسلمان بھی اسی اشتباہ میں گرفتار ہو کر شرک کا مترکب ہوتا ہے، معجزات کو انبیاء کا اور کرامات کو اولیا کا ذاتی فعل سمجھ لیا جاتا ہے، پھر ان سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کی اُمید لگائی جاتی ہے، ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے بس یہی شرک ہے۔ آپ قرآن پاک میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں "وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے۔ "وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" ہر چیز پر نگران اور محافظ، حاضر اور ناظر صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ مخلوق میں سے کوئی نہیں جو ان صفات کا حامل ہو۔ اسی طرح "وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" بھی آتا ہے۔ قدرتِ تامہ کا مالک بھی وہی ہے۔ جو چاہے سو کرے۔ اُس کی حکمت میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ وہ مالک ہے جس کو چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے روک لے۔ یہ سب کچھ قدرتِ تامہ کے مالک کے اختیار میں ہے۔ اسی مقام پر لوگ دھوکا کھاتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام خصوصاً سر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے لگتے ہیں۔

علم غیب

علم محیط کی طرح علم غیب بھی بعض لوگوں کے لیے اشتباہ کا باعث بنتا ہے۔ بات یہ ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی صفتِ مختصہ ہے اور یہ لفظ کبھی کلی علم پر بولا جاتا ہے اور کبھی اضافی علم پر۔ کلی علم کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ" (سورۃ النمل) زمین و آسمان میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ یا جیسا کہ سورۃ مادہ کے آخر میں گمز چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا "اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ" اے مولا کریم تمام غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر علم غیب کا اطلاق اضافی طور پر بھی کیا جاتا ہے جیسے "عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ" وہ غیب اور حاضر تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ یہاں پر غیب و شہادت کا اطلاق مخلوق کی نسبت سے ہے یعنی جو چیزیں مخلوق کے لیے ظاہر نہیں ہیں اور جو ان کے سامنے ظاہر ہیں سب کو خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ دو کے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں مخلوق کے لیے محسوسات کے قبیل سے ہیں یا غیر محسوسات کے قبیل سے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے وگرنہ حقیقتاً غیب کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہی نہیں کیونکہ اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کا اپنا ارشاد ہے "لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ" (سبا) اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ غرضیکہ یہاں پر عالم الغیب کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر اضافی طور پر کیا گیا ہے اور مخلوق کی نسبت سے کہ جو چیزیں مخلوق کے لیے حاضر یا غیر حاضر ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ تفسیر منظرہ میں فرماتے ہیں کہ غائب

اُس چیز کو کہا جائیگا جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ یا جو چیز ظاہر تو ہو چکی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اُس پر مطلع نہیں کیا۔ ایسی چیزوں کا علم خدا تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یہی علم غیب ہے۔ اور یہی علم محیط ہے "وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ" ہر چیز کو قدرتِ تامہ اور علم محیط کے ساتھ گھیرنے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے مخلوق میں سے کوئی ہستی اس صفت کے ساتھ متصف نہیں کی جا سکتی۔

آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط اور قدرتِ تامہ کی تعبیر اس طرح فرمائی ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اور اس کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ مفتح اگر مفتح کی جمع ہے تو اس کا معنی غیب کی چابیاں ہے جیسا کہ شیخ المنذرنے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اور چابی وہ آلہ ہے جس کے ساتھ آلا کھولا جاتا ہے۔ اگر کسی مکان میں آلا پڑا ہے تو اس مکان کے اندرونی حصے کا علم اسی ذات کو ہو گا جس کے پاس اس تالے کی چابی ہے اس لحاظ سے مفتح الغیب کا معنی یہ ہو گا کہ غیب کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور تمام خوب کو وہی جانتا ہے جس کے پاس یہ چابیاں ہیں، دوسرے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لحاظ سے بھی علمِ کل اور علم محیط کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اور مفتح، مفتح کی جمع بھی بنتی ہے جس کا معنی خزانہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جمع کا معنی یہ ہو گا کہ غیب کے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ سورۃ قصص میں جہاں قارون کا ذکر ہے وہاں فرمایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا جو ان پر تعدی کرتا تھا، ہم نے اُس کو اتنے خزانے عطا کیے کہ اُس کی چابیاں ایک طاقتور قوم کو اٹھانا مشکل ہوتی تھیں۔ یہاں پر الفاظ میں "اِنَّ مَفَاتِحَ كُنُوزٍ بِالْعُصْبَةِ اُولَى الْقُوَّةِ" یہاں پر مفتح کا معنی چابی بھی ہے اور خزانے بھی۔ سورۃ حجر میں بھی اللہ کے خزانوں کا ذکر ہے "وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ اَلَّا عِنْدَنَا

غیب کی
چابیاں یا
خزانے

مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہوا اس آئے کے اندر سے گزرتی ہے
 قبل از وقت تو کچھ نہیں بتایا جاسکتا، بارش کی پیشین گوئی بھی اسی وقت کی
 جاتی ہے جب بارش کا مادہ ہوا میں آتا ہے اور پھر وہ آئے کے ذریعے
 معلوم ہوتا ہے، وگرنہ بارش کی پیشین گوئی بارش کے آنے سے دو ماہ پہلے
 تو نہیں کی جاسکتی۔ کسی اندازے کو پیشین گوئی کے طور پر ظاہر کرنے کو غیب
 پر محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہ چیز تو کسی واسطے سے حاصل ہوتی ہے اور غیب
 وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے کے حاصل ہو۔ تو بہر حال فرمایا کہ بارش کے نزول کا
 علم بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ "وہ جانتا ہے جو کچھ ماں کے
 رحم میں ہے یعنی اس کے علاوہ پوری تفصیلات کوئی نہیں جانتا۔ ڈاکٹری
 آلات کے ذریعے بعض اوقات اس حد تک علم ہو جاتا ہے کہ ماں کے
 پیٹ میں بچہ ہے یا بچی اور وہ بھی حمل قرار پانے کے کافی عرصہ بعد مگر کوئی
 آلہ یہ نہیں بتا سکتا کہ ہونے والا بچہ مومن ہو گا یا کافر، سعادتمند ہو گا یا شقی، اسکی
 عمر کیا ہوگی، دنیا میں کل کتنے سالس لے گا، کیا پیشہ اختیار کرے گا، کتنا کمائے
 گا اور کتنا خرچ کرے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لہذا غریب
 بھی صرف وہی ہے۔ آلات کے ذریعے پیش گوئیاں محض تخمینہ ہوتی ہیں۔
 انہیں حتمی تسلیم نہیں کیا جاسکتا، لہذا یہ چیز غیب میں داخل نہیں۔

غیب کی چوتھی کنجی کے متعلق فرمایا مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا
 تَكْسِبُ عِنْدَ اٰنْكَسِي شَخْصٍ كَيْفَ عِلْمٌ فِيْ نَفْسٍ هِيَ كَمَا كُوْنِي شَخْصٍ كَلَّ كَيْفَ كَرِهِي
 گا۔ لوگ مستقبل کے لیے بڑے بڑے پروگرام بناتے ہیں، اپنی ڈائریوں
 میں نوٹ کرتے ہیں مگر کیا وہ لازماً ان کے مطابق عمل کر پاتے ہیں۔ پتہ
 نہیں کل تک زندگی بھی باقی ہے یا نہیں کسی بھی حالتے کو خارج از امکان
 قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہوجاتے

ہیں، آندھی، طوفان اور سیلاب آجاتے ہیں جس سے تمام پروگرام دھڑے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ لہذا جتنی طور پر کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کریگا اسی طرح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اُسکی موت کہاں واقع ہوگی۔ یہ غیب کی پانچویں چابی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر نفس کی کتنی عمر ہے اور اُس کی موت کہاں اور کس وقت واقع ہوگی۔ تو فرمایا یہ غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

البتہ بعض غیب کی خبریں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق انبیاء کرام کو عطا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ان کا کشف اولیاء اللہ پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے انہیں انباء غیب کے نام سے تعبیر کیا ہے مثلاً سورۃ ہود میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حق میں آپ کی دعا کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا ہے تِلْكَ رَحْمَةٌ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ يَا غَيْبُ كَيْ تَخْبُرَ مِنْ سَائِرِ الْغَيْبِ وَجِي كَرْتُمْ فِي سُوْرَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي حَضْرَتِ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ كَمَا وَقَعَتْ بَيَانِ كَمَنْعَةِ كَمَا بَعْدَ فَرَمَا بِذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی یا بذریعہ کشف والہام کسی چیز پر مطلع کر دینا علم غیب نہیں ہوتا بلکہ غیب کی خبر ہوتا ہے۔ اور غیب صرف وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی واسطے کے معلوم ہو یعنی نہ تو حواس خمسہ کے ذریعہ معلوم اور نہ کشف والہام یا وحی کے ذریعے اور نہ ہی عقل اور فہم و ادراک کے ذریعے یہ سب علم کے ذرائع ہیں اور غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعہ اور واسطہ کے حاصل ہو۔ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے جسے کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے نہ کسی واسطے کی ضرورت ہے نہ آلے کی اور نہ کسی ماٹھے کی۔

وہ ان کے بغیر سب کچھ جانتا ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ نہیں جانتا ان کو اس کے سوا کوئی

یہ اصول بیان کرنے کے بعد کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں
اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی بعض چیزیں
کا تذکرہ بھی کیا ہے ارشاد ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ
وہ خشکی اور تری میں پائی جانے والی تمام اشیاء کو جانتا ہے۔ اس کا علم خشکی کے
تمام خطوں یعنی میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں اور جنگلوں کی ہر چیز پر محیط ہے۔
اللہ کی زمین پر اس کی کتنی مخلوق آباد ہے، اس میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں
جوانات، درندوں، پرنندوں اور پرندوں کی کتنی قسمیں اور کتنی تعداد ہے،
کتنے انسان آباد ہیں، کھیرے مکھڑوں کی کتنی تعداد ہے، جنگلات میں
کس کس قسم کے کتنے درخت موجود ہیں۔ ان پر کتنا چھل لگتا ہے، کتنے
کلنٹے اور کتنے پھول ہیں، ان کی کیا کیا تاثیر ہے۔ جڑی بوٹیاں
کہاں کہاں اور کون کونسی پائی جاتی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے کس قدر فوائد
اور کس قدر نقصانات ہیں۔ پھر پہاڑوں میں کتنے پتھر ہیں، کتنے ہیرے
کتنا لوہا، کوئلہ اور دیگر معدنیات ہیں۔ تیل کے کتنے ذخائر زمین کے اندر پوشیدہ
ہیں، کون کونسی گیس ہے جس سے زلزلے آتے ہیں اور جس سے لوگ مستفید
ہوتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح دریاؤں، سمندروں،
اور جھیلوں میں کون کون سے جانور موجود ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے۔ مچھلیاں
کتنی ہیں اور باقی جاندار کتنے ہیں۔ سمندروں میں کتنے سیپ ہیں ان میں کتنے
موتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز
کو جاننے والا وہی ہے۔

فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ سَمَانٍ إِلَّا لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا ذَرْبُ شَيْءٍ
گرنے والے ہر پتے کو وہی جانتا ہے۔ کوئی حکیم، سائنس دان یا دانشور
یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں پتہ درخت سے کب گریگا، یہ کب خشک ہو جائیگا
اور پھر خود بخود گریگا۔ گریگا کتنی دور تک جائیگا اور کس مقام پر جا کر ٹکے

گا۔ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا حَٰبِیَاتٍ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زَمِیْنِ كِی تَابِیْوُن
 یس کوئی دانہ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَٰسِیْنِ اور نہ کوئی تریا خشک
 چیز ہے إِلَّا فِی كِتَابٍ مُّبِیْنٍ مگر یہ کہ وہ کتابِ مبین میں درج
 ہے۔ اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ پوری زمین میں کس کس جگہ پر کون کونسا دانہ
 گرہا پڑا ہے اور پھر اس سے کب اور کیا پیدا ہوگا۔ اس سے کتنے دانے
 اگیں گے اور یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کو کتابِ مبین
 سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اُمُّ الْكِتَابِ کہا گیا ہے۔ اس کے
 بعد دوسرے درجے میں لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں
 کوئی نہ کوئی ایسی تختی ضرور موجود ہے جس پر تمام اشیاء کی تفصیل درج ہے
 بہر حال مراد یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔

مخلوق کا
علم

پہلے قدرتِ تامہ کی دلیل بیان ہوئی تھی۔ اب علمِ تامہ کی دلیل بھی
 ہوگئی۔ علمِ تامہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور علمِ محیط کا مالک
 بھی وہی ہے۔ نبی کو اسی قدر معلوم ہوتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے
 وہ خواہ وحی کے ذریعے بتائے یا کشف والہام کے ذریعے مخلوق کو علم
 اتنا ہی ہوتا ہے جس کو وہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ شاہ عبدالقادر محدث فرماتے ہیں
 فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ فلاں نبی یا ولی یا بزرگ ہمارے حالات
 سے واقف ہے، اُس نے مشرک کا ارتکاب کیا۔ مخلوق کے تمام حالات
 خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کس کو کونسی تکلیف ہے، اندرونی بیماری
 ہے یا بیرونی، اس کے مجموعی حالات کیسے ہیں، سب کچھ وہی جانتا ہے
 جو خالق اور علتِ العلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کی تکلیف کو
 جانتا ہے اور نہ اُسے رفع کرنے پر قادر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں
 کہ "اگر خلقِ عجیبِ داں بوسے کسے از دست کسے آسودہ نہ بوسے
 تو آدمی دوسرے کے ہاتھ سے آسودہ حال نہ ہوتا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ

اُس نے مخلوق کو غیبِ اداں نہیں بنایا، ورنہ سارا نظام ہی درہم برہم ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے حالات کا اظہار نہیں کرتا دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا۔ سو اُنے اللہ کے کہ اُسے ذرے ذرے کی خبر ہے۔

علم محیط کی بات کرنے کے بعد قدرتِ تامہ کی ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے وَقَهْرَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے یہاں وفات کو نیند کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ نیند کو اخ الموت یعنی موت کی بہن کہا گیا ہے۔ نیند اور موت میں فرق یہ ہے کہ نیند کے دوران انسان کی روح انسانی نکل جاتی ہے مگر روح حیوانی اپنی جگہ قائم رہتی ہے روح انسانی کے نکلنے سے انسان کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ روح باہر نکل کر ادھر ادھر جہاں خدا کا حکم ہو اسے چلتی پھرتی رہتی ہے جس سے خواب کا سلسلہ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اس دوران روح حیوانی اپنا کام جاری رکھتی ہے جس سے اُس کی سانس چلتی رہتی ہے اور انسان زندہ رہتا ہے۔ انسان کی موت اُس وقت واقع ہوتی ہے جب روح انسانی کے ساتھ روح حیوانی بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران روح انسانی تو باہر ہی ہوتی ہے، بعض اوقات روح حیوانی بھی چلی جاتی ہے تو انسان کی موت نیند کے دوران ہی واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا مدنیؒ نے قیلولہ کے دوران وفات پائی۔ قاری عبدالمالکؒ بھی نیند میں ہی خالقِ حقیقی سے جا ملے بہر حال یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے موت کو نیند کے ساتھ تشبیہ دی ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں انسانی حواس معطل ہو جاتے ہیں۔

فرمایا وہ اللہ تمہیں رات کے وقت وفات دیتا ہے وَكَيْفَ لَا تَدْرَأُ جَهَنَّمَ بَاطِنًا اور جانتا ہے جو کچھ تم کھاتے ہو دن کے وقت نیچی یا بدی، نفع یا نقصان کا جو کام بھی انجام دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ

نیند اور
موت

اللہ کے
صورت پیشی

اُس سے واقف ہوتا ہے۔ فرمایا ثُمَّ يَبُوءُكُمْ فِيهِ پھر وہ
 اٹھاتا ہے تم کو دین میں۔ رات کو ختم کیا اور دین کو جاری فرمایا۔ حدیث شریف
 میں یہ دعا سکھائی گئی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا
أَمَاتَنِي خذ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے رات کو ایک قسم کی موت یعنی نیند
 طاری کر کے دین کو پھر زندہ کر دیا اور حکم دیا کہ میرا زندہ کر دو۔
 فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں رات گزرنے کے بعد دین کے وقت دوبارہ
 اٹھا دیتا ہے رَبِّ قَضَىٰ أَحِبُّ لِي قَسَمِي تاکہ پورا کرے مقررہ
 وقت۔ سورۃ ہذا کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ کائنات کی مجموعی موت
 کا وقت بھی اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جو قیامت کو آجائے گا۔ اس کے
 علاوہ شخص کی انفرادی موت کا وقت بھی مقرر ہے کسی کو علم نہیں کہ وہ وقت کب آجائے گا
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جاتا
 ہے تاکہ تم اپنا مقررہ وقت پورا کر سکو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ
 پھر تم سب کا اسی ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم سب کو اللہ کے
 سامنے پیش ہونا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے رہے۔ اعمال
 سامنے کر دیا جائے گا جس میں ذرہ ذرہ کا حساب موجود ہوگا اور پھر ان اعمال کے
 مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔

الانعام ۶

آیت ۶۱ تا ۶۴

واذا سمعوا

درکس ہفدہم ۱۷

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ
 حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ
 رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿٦١﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَىٰ
 اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ
 الْحُسْبَيْنِ ﴿٦٢﴾ قُلْ مَنْ يُنْبِئُكُمْ مِمَّنْ ظَلَمْتِ
 الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنًا أَنبَأَنَا
 مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
 اللَّهُ يَنْبِئُكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُفٍّ أَنْتُمْ
 مُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

ترجمہ :- اور وہی اللہ کی ذات غالب ہے اپنے نذول

پر۔ اور بھیجتا ہے وہ تمہارے اوپر نگہبان فرشتے، یہاں تک

کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت پہنچتا ہے

تو وفات دیتے ہیں اُس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اور

ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے ﴿٦١﴾ پھر لوٹائے جاتے ہیں وہ

لوگ اللہ کی طرف جو ان کا سچا آقا ہے۔ سنو! اسی کے

لیے ہے حکم اور وہی ہے جلد حساب لینے والا ﴿٦٢﴾

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کون ہے جو تم کو بچاتا ہے خشکی

اور سمندروں کے اندھیروں میں جس کو تم پکارتے ہو عاجزی

سے اور پوشیدہ (اور کتے ہو) اگر اُس نے بچا لیا اس
(مصیبت) سے تو البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے (۶۳)

اے پیغمبر! آپ کو دیجیے، اللہ ہی ہے جو تم کو بچاتا ہے
اس سے اور ہر قسم کی تکلیفوں سے، پھر تم شرک کرتے ہو (۶۴)

رابط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا ذکر تھا جو الوہیت کی صفتِ خاصہ ہے
اور ساتھ ساتھ قدرتِ تامہ کا بھی ذکر تھا۔ اب ان آیات میں بھی اللہ کی قدرتِ تامہ ہی کا
بیان ہے اور اس سے اگلی آیات بھی ایسی ہی ہیں۔ علم محیط اور قدرتِ تامہ دونوں
صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، لہذا غیروں کی پرستش کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا
اللہ تعالیٰ مشرکین کو متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو! عبادت کا مستحق وہی
ہو سکتا ہے جو قدرتِ تامہ کا مالک ہو اور جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو۔ امداد فوق الاسباب
بھی وہی کر سکتا ہے، لہذا مصیبت کے وقت دوسروں کو پکارتے سے منع کیا گیا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروایا "إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ
أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے
کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ غیر اللہ کو پکارنا تو خواہشات
نفسانیہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا میں کسی ایسی ہستی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں
جس کے پاس نہ قدرتِ تامہ ہو اور نہ علم محیط۔ یہ صفات تو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔
وہی واجب الوجود ہے اور وہی مدبر ہے، لہذا عبادت بھی اسی کی ہو سکتی ہے۔

قدرتِ تامہ کی جزئیات کے سلسلے میں گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ دیکھو!
اللہ تعالیٰ رات کے وقت تم پر نیند طاری کرتا ہے جو موت کی مانند ہے النوم
مثل الصوت یا النوم اخ الصوت نیند کو موت کی بہن بھی کہا گیا ہے
اس دوران انسانی روح بسا اوقات جسم سے نکل کر دور چلی جاتی ہے، سیر تفریح کرتی
ہے، اور کئی طرح کے منظر نظر آتے ہیں، تاہم روح حیوانی انسانی جسم میں موجود رہتی ہے

اور انسان کی سانس اور نبض کی حرکت جاری رہتی ہے پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو روح انسانی واپس جسم میں آجاتی ہے۔ انسان بیدار ہو جاتا ہے اور دن کے وقت اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انجام دینے جانے والے تمہارے تمام کام اس کی نگاہ میں ہیں۔ پھر وہ تمہیں مقررہ وقت پر کھڑا کر کے تمام اعمال تمہارے سامنے رکھ دیکھا۔

فرمایا جو اللہ قدرتِ تامر اور علم محیط کا مالک ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، قہر کا معنی دبانا یا مغلوب کر دینا ہوتا ہے۔ قہار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ جس کو چاہے مغلوب کرے، اس کے سامنے کسی کو دم ماننے کی مجال نہیں بندے ظاہری اسباب اور سامان سے کتنے بھی لیس ہوں، وہ کتنی بھی قوت رکھتے ہوں، انجینئر یا سائنس دان ہوں، اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے کیونکہ اس کی صفت قاہر ہے۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے "وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ" وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ "اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے طرح طرح کے غلط عقائد جنم لیتے ہیں۔ وہی غالب ہے جب چاہے بڑے بڑے سرکشوں کو دبا دے اور انہیں ذلیل و خوار کر دے کیونکہ "فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" (زیوس) عزت ساری کی ساری اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بہر حال قاہر کا معنی غالب اور دبانے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ تامر کے ساتھ اپنے بندوں پر غالب ہے۔

اللہ بندوں پر غالب ہے

فرمایا یہ اس کی قدرتِ تامر ہی کا کرشمہ ہے وَيَسْأَلُ عَلَيْكُمْ حَفِظَةً کہ وہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہر انسان کے ساتھ لگا رکھی ہیں۔ پہلا گمراہ کو دبانے والا ہے

کہا گیا کہ تین فرشتے

ان کا ذکر سورۃ الانفطار میں موجود ہے ”کِرَامًا كَاتِبِينَ هَ يَعْلَمُونَ مَا تَقَعُونَ“ ہر انسان کا نامہ اعمال تیار کرنے والے یہ بزرگ فرشتے ہیں جو انسانوں کے کردہ امور کو جانتے ہیں اور انہیں اپنے رجسٹروں میں لکھ کر محفوظ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے ”مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ“ (قرآن) انسان اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا مگر وہ نگران فرشتے موجود ہیں جو ہر بات کا ریکارڈ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس طرح ہر انسان کا نامہ اعمال تیار ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم کل ہے وہ اگر کسی چیز کو نہ بھی لکھوائے تو کوئی بات نہیں وہ ہر انسان کے ہر فعل سے واقف ہے مگر اس نے فرشتوں کے ذریعے انسانی اعمال کی تحریر کا ایک نظام قائم کر دیا ہے۔ قیامت کے روز یہ اعمال نامے انسانوں کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، پھر وہ اپنے کردہ اعمال کا انکار نہیں کر سکیں گے۔

اعمال پیش کنندہ
فرشتے

جو اعمال نامے کراما کاتبین تیار کرتے ہیں، وہ تو ہر انسان کو قیامت کے دن ملیں گے، البتہ بعض فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر انسان کی کارکردگی کی رپورٹ صبح و شام اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں رات کی ڈیوٹی والے فرشتے صبح کی نماز کے وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر وہ چارج دن کی ڈیوٹی والے فرشتوں کو دے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دن کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت اپنا چارج رات کے فرشتوں کو دے کر دن کے اعمال لے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر اور عصر کی نمازوں کا خاص خیال رکھا کرو کیونکہ یہ اعمال کی پیشی کے اوقات ہیں

اگرچہ اس رپورٹ کی بھی خدا تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے تاہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام موجود ہے۔

انسانی اعمال کے متعلق ہفتہ وار رپورٹ بھی خدا تعالیٰ کو پیش کی جاتی ہے اس کام کے لیے الگ فرشتے مقرر ہیں جو خمیس یعنی جمعرات کے دن ہر آدمی کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالانہ رپورٹ کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ شبِ برأت کے موقع پر فرشتے ہر انسان کی پورے سال کی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔

محافظ
فرشتے

سورۃ رعد میں موجود ہے "لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَكَ" مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ "اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو آگے پیچھے ہر طرف اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ نگران فرشتوں کی جماعت مقرر کر رکھی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہر انسان کو مختلف حوادث سے بچاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کی نگرانی اٹھالیتا ہے اور ایسے شخص کے ساتھ وہ حادثہ پیش آجاتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے ایسے فرشتوں کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، تاہم بعض مفسرین کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ساٹھ ساٹھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں پولیس یا فوج کے سپاہیوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہیں اسی طرح فرشتوں کی جماعتیں بھی وقفے وقفے سے بدلتی رہتی ہیں۔ فرشتوں کا یہ دوسرا گروہ ہے۔

تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جن کا ذکر آیت کے اگلے حصہ میں ہے اور جو انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جَبْتُمْ فِي سَعْتِكُمْ أَوْ تَمَّ

ملک الموت
اور معاونین

کا وقت آجاتا ہے تَوَفَّتْ رُسُلَنَا تَوْهَآءَ بِصَحْبٍ مَّوَدَّ فَرِشَتَہ
 اِس کو وفات دیتے ہیں یعنی اِس کی رُوح کو قبض کر لیتے ہیں اور پھر
 اُسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اولایا تو علیین کے مقام پر لے جاتے ہیں
 یا سجدین کے مقام پر۔ پھر جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ وہاں لے جاتے
 ہیں وَهِيَ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ اس معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی
 نہیں کرتے۔ طبرانی اور علیہ الاولیاء کی روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری
 صحابی موت کی کشمکش میں مبتلا تھے حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے
 اور ملک الموت سے کہا، یہ مومن ہے۔ جان کنی میں اس شخص کے ساتھ نرمی
 روا رکھنا، تو اس نے جواب دیا۔ حضور! آپ یقین جانیں، میں ہر مومن کے
 ساتھ نرمی کا سلوک کرتا ہوں اِنَّا رَفِیقٌ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ میں تو ہر ایماندار
 کا دوست اور رفیق ہوں۔ پھر موت کے فرشتوں نے کہا کہ جب ہم
 کسی شخص کی رُوح قبض کر کے مکان کے صحن میں ہوتے ہیں، تو میت پر رونے
 چلانے والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ یا کوتاہی تو نہیں کی، ہم نے
 تمہارے عزیز کی جان کو قبل از وقت قبض نہیں کیا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ
 کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے اور اگر چیخ و پکار
 کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آؤ گے۔ ملک الموت نے یہ بھی کہا کہ میں
 تو ہر وقت گھروں میں گھومتا رہتا ہوں اور اللہ کے حکم کا منتظر رہتا ہوں
 جب اللہ کا حکم آجاتا ہے تو اِس کی تعمیل کرتا ہوں۔

اِس آیت کریمہ میں رُسُلْنَا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ وفات دینے یعنی رُوح قبض کرنے پر بہت
 سے فرشتے مامور ہیں۔ مگر سورۃ سجدہ میں ہے فَلْيَتَوَفَّاكُمْ
مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ الَّتِي وُكِّلَ بِكُمْ صرف ایک فرشتہ ملک الموت
 تمہاری جانوں کو قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس اشکال کے جواب

ہے، ویسے ہی چلتی ہے۔ مقصد یہ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔
 فرمایا حکم اسی کا ہے وَمَنْ أَسْرَحَ الْحَبِيبَانِ اور وہ جلد حساب
 لینے والا ہے۔ جب وہ حساب کتاب لینے پر آئے گا، محاسب کا عمل
 شروع کرے گا۔ تو انسان کی زندگی کے تمام اعمال یکدم سلسلے آجائیں گے
 نیچے بدی کا پتہ چل جائے گا، پھر وہاں کوئی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ وہ حساب کتاب
 کے معاملہ میں دیر نہیں کرے گا۔

فرمایا سَلِّ لِي بِمَغْمِيرِ آبٍ کہہ دیجئے مَنْ يَجْتَبِي كَمَرِي
الظلمتِ البين والظلمتِ الخشبي اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون
 بچاتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب خشکی یا سمندر میں رات کے وقت تم راستہ
 بھول جاتے ہو یا طوفان آجاتا ہے یکدم بارش برسے لگتی ہے۔ تیز ہواؤں چلنے
 لگتی ہیں اور تمہیں کچھ نہیں موجھتا، تم مشکل میں پھنس جاتے ہو، بعض اوقات
 اس قدر گہری دھند چھا جاتی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا، سڑکوں پر حادثات پیش
 آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو باؤ ایسے حالات میں تمہیں صحیح سلامت لے
 آنے والی کون سی ذات ہے؟ يَدْعُونَنا، فَذَرْنَاهَا وَخَفِينَا

جسے تم غائبی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ تمام سوالوں کا ایک ہی جواب
 ہے کہ وہ صرف اللہ ہے جو تمام مشکلات کو دور کرتا ہے اور انسانوں کو
 مصائب سے نجات دیتا ہے۔ قدیم مشرکین کا دستور یہ تھا کہ جب
 وہ طوفان میں گھر جاتے تھے، یا کوئی سخت کھٹک پھنس آجاتی تھی تو خالص
 اللہ ہی کو پکارتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایسے حالات میں اللہ مدد
 شریک ہی کام آسکتا ہے، یہاں چھوٹے چھوٹے معبود کچھ کام نہیں آتے
 مگر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مشرک ان مشرکوں سے بھی دو قدم
 آگے ہیں۔ وہ کم از کم مشکل کے وقت تو خالص اللہ کو پکارتے مگر یہ ایسے
 موقع پر بھی غیر اللہ کی دعاؤں دیتے ہیں۔ کبھی خواجہ حسین الدین چشتی کو پکارا

منصبت
 وقت بچاؤ

جا رہا ہے، کبھی خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی سے بگڑی بنانے کی درخواست کی جاتی ہے۔ ان بزرگوں نے لوگوں کو نورِ ایمان اور نورِ توحید سے منور کیا، کفر اور شرک کی بیخ کنی کی ان کا وعظ سن کر بڑے بڑے چور اور ڈاکو ایمان لے آئے مگر آج کا مشرک انہی کی دہائی دے رہا ہے، جس کفر اور شرک کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، ان کے ماننے والے آج اسی میں مبتلا ہیں، ان کو مشکل گشا اور حاجت روا سمجھا جا رہا ہے۔ ان کے نام کی نذریں مانی جاتی ہیں اور ان کی تعلیم کو کوئی پوچھتا تک نہیں، محض ان کے عرس منا کر اور گیارہویں دے کر ان کا حق ادا کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا ایمان اور کہاں کا عقیدہ ہے۔

آدابِ دعا

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے پکارنا درست ہے، تاہم گھڑا کر، عاجزی سے اور چپکے چپکے سے پکارنا افضل ہے کیونکہ اس میں یا کاری کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہِ راست قائم ہو جاتا، سورۃ اعراف میں بھی آتا ہے "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" اپنے رب کو عاجزی اور خاموشی سے پکارا کرو کیونکہ وہ زیادتی کو پسند نہیں کرتا۔ اسی سورۃ میں یہ بھی آتا ہے "وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں گھڑا کر اور لوپوشیدہ طور پر کیا کرو اور آواز کو زیادہ بلند نہ کرو۔ سورۃ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے "إِذْ نَادَى رَبَّهُ بِنَادٍ خَفِيًّا" اُس نے اپنے رب کو خفیہ طریقے سے آواز دی۔ غرضیکہ یہ چیز آدابِ دعا میں سے ہے کہ اپنے پروردگار کو نہایت عجز و انکاری اور خفیہ طریقے سے پکارا جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے۔

فرمایا کہ تم مشکل کے وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو اور ساتھ

اللہ ہی
پجانے والا

یہ بھی کہتے ہو کہ بِنِ اَنْجِنَا مِنْ هٰذَا اِذَا اَسْنٰ ہمیں اس مصیبت سے بچالیا
لَنْ كُوْنَنَّ مِنْ الشُّكْرِیْنَ تو ہم تو اس کے شکر گزار بندوں
 میں سے ہو جائیں گے پھر ہم کفر و شرک سے باز آجائیں گے، اس کی
 نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ہر حکم کی بسر و چشم تعمیل کریں گے۔
 مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے وعدے
 کرتے ہو، منتیں مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی دیدے
اللّٰهُ نَزَّلَ مَا يَفْتَلُّ اِلَيْهِ يَغْمِرُ اِنْ سَكَتَ دِيْنُ اللّٰهِ يَجْمَعُكُمْ
مِنْهَا وَ مِنْ كُرْبِ اللّٰهِ هِيَ جَوْمٌ هِيَ اسْ مَشْكَلٌ سے اور
 باقی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تمام پریشانیوں کو وہی دور کرتا ہے۔ مگر یہ
 اس کی مشیت پر موقوف ہے تیجھے اسی سورۃ میں گنزر چکا ہے کہ جس اللہ
 کو تم پکارتے ہو وہ اگر چاہے تو تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ وہ ہر
 کام اپنی حکمت اور صلاحیت کے مطابق کرتا ہے اگرچہ مخلوق اس کو
 سمجھنے سے قاصر ہو۔ سورۃ دہر میں بھی آتا ہے "وَمَا تَشَاءُوْنَ
 اِلَّا اَنْ يَّتَّأَمَّرَ اللّٰهُ بِرِجْوٰی اللّٰهِ كِيْ مَشِيْتٍ اَمْ هِيَ، تمہاری مشیت وہاں
 کچھ نہیں کر سکتی۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

اعادہ شرک

فرمایا خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں اللہ ہی تمہیں تمام پریشانیوں سے
 نجات دیتا ہے مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب تم اس مشکل سے
 نجات حاصل کر لیتے ہو فَوَيْلٌ لِّاَنْفُسِكُمْ كَيْفَ كُوْنَتْ تَوْبِعُ اِسْمٰی طَرَحِ
 شرک کرنے لگتے ہو۔ بحر و بر کے ظلمات میں دست گیری تو اللہ کرتا
 ہے مگر جب بیچ جاتے ہو تو پھر غیر اللہ کی نذر و نیاز شروع ہو جاتی ہے
 اس مشکل کشائی کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے لگتے ہو، پھر وہی
 قبر پرستی، حجر پرستی اور شجر پرستی شروع ہو جاتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شرک کی تردید کے سلسلے میں

اپنی قدرت نامہ کا ذکر فرمایا ہے اس سے پہلے علم محیط کا ذکر بھی ہو چکا ہے
 یہ مضمون آگے بھی جاری ہے۔

الانعام ۶

واذا سمعوا

آیت ۶۵ تا ۶۷

درس ہشتردہم ۱۸

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَّرِفُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ ٦٥ ۚ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ
وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ ٦٦ ۚ لِكُلِّ
نَبِيٍّ مُّسْتَفْزِزٌ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٦٧

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیں، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ بھیج دے، تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تم کو خلط ملط کرنے مختلف فرقوں میں اور چکھائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ۔ دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں ۝ ۶۵ اور جھٹلایا ہے اس (قرآن) کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے میں تم پر نگہبان نہیں ہوں ۝ ۶۶ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم جان لو گے ۝ ۶۷

پہلے اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا —
کہ یہ کفر شرک اور گمراہی کی بات ہے۔ اس کے بعد الوہیت کی صفاً مختصہ کا بیان تھا کہ عالم الغیب صرف وہی ہے وہی ہر چیز پر غالب ہے لہذا عبادت

بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے اور مدد بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ پھر درمیان میں فرمایا کہ لوگوں کو خشکی یا تری میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان سے بچا کر لانے والا بھی اللہ ہی ہے مگر افسوس کا مقام ہے کہ لوگ پھر بھی اُس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی تہیہ تھی کہ جب علم غیب کا مالک وہ ہے، غلبہ اور قدرت اُس کو حاصل ہے، تو پھر اللہ بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتا تو یہ اُس کی طرف سے مہلت ہوتی ہے جس سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ پہلی وار رنگ پمہ ہی کفر و شرک اور بدعات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کر لینا چاہیے۔

اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قادر مطلق کو بیان فرمایا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں ہُوَ الَّذِي يَدْرُءُ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اَنْ يَلْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا کہ وہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ تمہیں مصائب سے بچانے والا خود اللہ ہے، مشکلات کے وقت تم صرف اسی کو پکارتے ہو مگر جب وہ مصیبت طل جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اگر تمہیں ایک مصیبت سے نجات مل گئی تو اب دوبارہ مشکل میں نہیں پھنس سکتے بلکہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے مِنْ فَوْقِكُمْ تمہارے اوپر سے اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ یا پاؤں کے نیچے سے۔ قرآن پاک میں سابقہ کئی اقوام کے حالات مذکور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے عذاب نازل فرمایا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش کی گئی جس سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ ہود میں موجود ہے وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ لَّا مَنصُودٍ هِمْ مَسُومَةٌ

عذاب الہی
کا انتظار

عَنْدَ رَبِّكَ طہم نے اُن پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی۔ ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں کے سر پر لگے گا۔ اصحابِ فیل کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا۔ ”تَرٰیہُمْ بِجَانِّهِمْ سَخِرٰلِ اَنْۢ بِرِحْوٰیۡطِہُمْ“ چھوٹے سنگریزوں کی بارش کی گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ اوپر فضائے عذاب نازل کرنے پر قادر ہے اور پر سے کوئی طوفان بھی آسکتا ہے جیسا قوم نوح علیہ السلام پر آیا۔ ”فَاَخَذَہُمْ الطُّوفٰنُ“ (العتکبوت) پھر انہیں طوفان نے گھیر لیا۔ اس قسم کی سزا قوم فرعون پر بھی آئی تھی اور وہ ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نیچے سے بھی کوئی عذاب بھیج سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اور لوگ آنا فنا تباہ ہو جاتے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں بھی آئے دن مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، یہ بھی نیچے کی طرف سے عذابِ الہی ہے تو بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی آفت برپا کر دے۔

عالم اور مظلوم
میں کس کشمکش

اہم ابن جبریطبریؒ، اہم بیضاویؒ اور اہم فخر الدین رازمیؒ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے فوق کعبہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حاکم مقرر کر دے جو تمہیں ہر وقت پریشانی میں مبتلا رکھیں۔ انسانی سوسائٹی میں اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں یا ڈکٹیٹروں کے عوام کو کچل کھر رکھ دیا۔ یہ روس میں کیا ہوتا ہے، برسرِ اقتدار ٹولے نے اپنے ماتحتوں کے خیالات پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ حکومت کے خلاف نہ کسی کو سوچنے کی اجازت ہے اور نہ زبان کھولنے کی۔ جو ایسا کرتا ہے نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ چین کا کمیونزم بھی ایسا ہی ہے۔ لوگوں کے مذہب پر بھی پابندی ہے۔ یہ عذابِ الہی نہیں تو کیا ہے؟ کوئی آدمی

اوپر والوں کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ ایسا کرنے والوں کو غدار سمجھا جاتا ہے، سزائے موت دیدی جاتی ہے، جلاوطن کر دیا جاتا ہے، یا سائبریا کے بیابانوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جہاں چارہ چارہ ہزار میل تک کوئی ریل و رساٹل نہیں، وہاں سے انسان بھاگ بھی نہیں سکتا۔

امریکہ نے بھی بعض قوموں کو غلام بنا رکھا ہے۔ اقتصادی انداز کے نام پر ملکوں کو اپنا دستِ نگر بنا لیا جاتا ہے اور پھر انہیں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا۔ کبھی جمہوریت کے نام پر اور کبھی مذہب کے نام پر لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ فلسطینیوں اور مصریوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، یہ سب امریکہ کی سازش ہے۔ ایسی حکیم لڑاتا ہے کہ لظاہر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے مگر درحقیقت اُن کی جٹریں کاٹ دی جاتی ہیں، بدطابقہ کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ وہ بھی کمزوروں کو غلام اور بے غیرت بنانے کے ذریعے رہا ہے۔ مشنریوں کے ذریعے سکول اور ہسپتال بنا کر لوگوں کے مذہب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کھجیل اور تماشے میں اچھا کہہ کاہل اور سست بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سب اوپر والے غدا ب کی مثالیں ہیں۔ جب لوگ اپنے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے مسک کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنا سب کچھ بھول کر غیروں کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں، یہی سزا ہے۔

زبردست لوگوں کی طرف سے سزا کے مشاہدات بھی ہوتے رہتے ہیں مزدوروں، کسانوں اور ملازموں کی طرف سے تحریکیں اور روزمرہ کی ایچیٹیشن انجمن سازی، افراتض سے سخت اور حقوق کے مطالبات اوپر والوں کے

لیے درد سربن جاتے ہیں اور وہ ہر وقت پریشانی میں غرق رہتے ہیں۔ اوپر والے نیچے والوں کو کھلتے ہیں اور نیچے والے اوپر والوں کا چین ختم کر دیتے ہیں۔ کارخانے داروں کو مزدور پریشان کر دیتے ہیں، زمینداروں اور وڈریوں کو مزارع تنگ کرتے ہیں، کہہ یہ دار مالک مکان و دکان سے

بہر سہ پکار رہتا ہے اور ماتحت ملازمین اپنے افسران کا ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے اور اوپر والوں اور نیچے والوں دونوں کے لیے عذابِ الہی ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے کسی عذاب میں مبتلا کر دے یا نیچے سے کوئی سزا مقرر کر دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِتِيَعًا تمہارے مختلف فرقے بنا کر تمہیں غلط ملط کر دے۔ لہٰذا اس کا معنی لگا کر دنیا یا غلط ملط کر دینا ہے۔ تو فرمایا سزا کی ایک صورت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے وَ يَذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ پھر بعض کو بعض کی لڑائی کا سزا بھی چکھائے۔ جب لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے، ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو پھر وہ آپس میں ہی بہر سہ پکار ہو جائیں گے اور یہ بھی عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آیت کے جب یہ الفاظ نازل ہوئے عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ تو حضور علیہ السلام نے دعا کی أَعُوذُ بِوَجْهِكَ يَا اللَّهُ میں تیری ذات کے ساتھ اس عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، پھر جب الفاظ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ اترے، تب بھی نبی علیہ السلام نے نیچے والے عذاب سے پناہ مانگی۔

آیت کا تیسرا ٹکڑا أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِتِيَعًا آیا تو آپ نے فرمایا، یہ نسبتاً سہل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان تین دعاؤں میں سے پہلی دو کو اللہ نے منظور کر لیا اور وعدہ فرمایا کہ امت نبی آخر الزمان علیہ السلام پر نہ تو نوح علیہ السلام کی قوم جیسا بارش یا پتھروں کا عذاب آئیگا کہ پوری قوم ہی ہلاک ہو جائے اور نہ نیچے سے زلزلے اور سیلاب وغیرہ ہی پوری امت کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ البتہ آپس کی فرقہ بندی سے متعلق اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہ کی، چنانچہ تفرقہ بازی

... گھر کے
چراغ سے

اس امت میں قیامت تک قائم رہے گی۔ حضرت سعدؓ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی، اے اللہ! میری امت پر کس دشمن کو مسلط نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ دشمن تو مسلط نہ ہوگا۔ مگر آپس کی لڑائی پھڑائی جاری رہے گی۔ چنانچہ امتِ محمدیہ میں تاتاریوں کا فتنہ محض اپنیوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ افغانستان کی جنگ میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ بھی آپس کی جنگ و جدال کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس پر صغیریں انگریزوں کو تسلط اپنیوں کی وجہ سے حاصل ہوا۔ غرضیکہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں کو غلام بنایا گیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ سب اندرونی غدروں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا میری اپنی امت کے لوگ ہی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔

اب مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی وبا عام ہے۔ خیر القرون میں تو لوگ اس بیماری سے محفوظ رہے مگر آپ کے رخصت ہونے کے ۳۵ برس بعد یہ عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا اختلاف خلیفہ راشد حضرت عثمانؓ کے زمانے میں پیدا ہوا جو ان کی شہادت پر منتج ہوا۔ پھر مسلمانوں کے درمیان جہل اور صغیر کی جنگیں ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میری امت میں ایک دن تو تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس کے بعد عام فتنے شروع ہو گئے۔ فرقہ بندی پیدا ہو گئی۔ خلافتِ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ شہنشاہیت اور امپریلیزم آ گیا۔ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت نے لے لی اور اس طرح امت میں مستقل انتشار پیدا ہو گیا۔ نیک لوگ دنیا سے بالکل ناپید تو نہیں ہوئے مگر اکثر و بیشتر شر ہی کا غلبہ رہا۔ یہ سب اندرونی خلفشار کا نتیجہ ہے اپنے ملک میں فرقہ بندی کی حالت دیکھ لیں۔ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ پراپیگنڈا کے ذریعے ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش

فرقہ بندی
کا عذاب

کی جاتی ہے اور اس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہی خدا کا
 عذاب ہے یہ آخری علمی امت ہے اور علم کا تقاضا ہے کہ ان کے نظریات اور
 آراء مختلف ہوں، بعض کے نظریات اچھے ہیں مگر ان میں بعض کمزور یا
 پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ فاسد رائے رکھتے ہیں اور بعض سو فیصدی گمراہی
 میں مبتلا ہیں، شرک کفر اور بدعات کی وجہ سے فکر فاسد ہو جاتی ہے
 عمل سے بے بہرہ لوگ نئے نئے نظریات وضع کرتے ہیں جس کی وجہ
 سے آپس میں ٹکراؤ پیدا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کے متعلق کہا کہ اللہ تعالیٰ
 قادر ہے کہ وہ تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے۔ اور تم ایک دوسرے
 کے لیے باعث عذاب بن جاؤ۔ آج یہ عذاب ہم پر مسلط ہے حضور علیہ السلام
 کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو قوم سنت کو ترک کر دیتی ہے۔ اس کو لڑائی جھگڑے
 میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جب سنت چھوٹی ہے تو اس کی جگہ بدعت آتی ہے اور
 اس کے نتیجے میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آخری امت اسی چیز کی سزا
 بھگت رہی ہے۔

مقام غمگین

فَرَمَا الْاَنْظُرُ كَيْفَ نَصِيْفِ الْاَلَايَةِ دَكْحِيُوْا ! هَمَّ كَسْ طَرَحِ پَهِيرِ پَهِيرِ كَمَّ
 آیات کو بیان کرتے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے شرک کی تردید کرتے ہیں
 اور بتاتے ہیں کہ الوہیت کی صفت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے
 اللہ نے اپنی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کی صفات بھی سمجھائی ہیں۔ یہ صفات
 کسی غیر میں مانو گے تو شرک کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ علیم کل اور قادر مطلق
 بھی وہی ہے۔ مشکلات سے نکلنے والا اس کے سوا کوئی نہیں لہذا اس کے
 سامنے التجا کرو۔ مصیبت میں اسی کو پکارو، اس کی توجید کو مانو، اس کے سامنے
 عاجزی کا اظہار کرو، اور اس کی عبادت بجا لاؤ۔ فرمایا ہم یہ آیات، معجزات اور
 نشانیاں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں
 شرک کی تردید میں سورۃ کے اگلے حصے میں بھی مختلف طریقوں سے بات سمجھائی

گئی ہے۔

تکذیب
اور سزا

فرمایا وَكَذَّبَ بِآيَاتِنَا قَوْمُكَ آيَاتِنَا اس قرآن پاک کو
جھٹلا دیا وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ برحق ہے۔ سب سے پہلے قریش مکہ اور پھر عرب
کے باقی لوگوں نے وحی الہی کی تکذیب کی۔ اسی سورۃ میں پہلے بیان ہو چکا ہے
کہ مشرکین کہتے کہ ہم آپ کو تو صادق اور امین جانتے ہیں مگر ہم اس کتاب
کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ ہمارے طوطیوں اور ہمارے معبودوں کی تردید کرتی
ہے۔ فرمایا اے پیغمبر علیہ السلام! جب یہ لوگ کلام الہی کی تکذیب کرتے ہیں۔
قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تو آپ ان سے کہ دیں کہ میں کوئی
تمہارا نگہبان تو نہیں ہوں۔ تمہارا نگہبان تو خدا تعالیٰ ہے۔ وہ جب چاہے۔
سزا دے سکتا ہے، میرا کام تو تمہیں سمجھانا ہے۔ اللہ کے حکم سے آگاہ کرنا ہے
اور اس بات کا مجھے علم نہیں کہ سزا کب آئیگی۔ حقیقت یہ ہے لَسْتُ
بِنَبِيٍّ مُّسْتَفِيٍّ ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب وہ وقت آئیگا تو وہ
چیز واقع ہو جائے گی۔ تاہم مجھے اس کا علم نہیں۔ کفر شرک کرنے والے ہمیشہ
غراب میں گرفتار ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی وہ مجرمین کو پکڑ لے گا۔
”قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا“ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ
مقرر کر رکھا ہے۔ جس کے مطابق وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ عروج و زوال
وقت پر آتا ہے۔ جزا اور سزا بھی اپنے وقت مقررہ پر آئیگی، موت اور
قیامت کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ ہر چیز ایک وقت پر طاق
جاتی ہے قرار پاتی ہے اسکا علم اس وقت مجھے بھی نہیں اور تمہیں بھی نہیں وَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ، البتہ تم اپنے عنقریب جان لو گے۔ جب اللہ کی طرف سے سزا آئے
گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی عذاب ہے جس کے متعلق اللہ کا پیغمبر خبر دیا
کرتا تھا مگر تم اسے جھٹلاتے ہو۔

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
 حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
 الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ
 مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٩﴾
 وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا ۖ وَلَهُمْ وَعُرَّتْهُمْ
 الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَرْنَا بِهِ أَنَّ تَبَسَّلَ نَفْسٌ م
 بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ
 وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعَدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ
 مِنْهَا ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ
 شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۚ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- اور جب دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو

عیب جوئی کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ، پس آپ اعراض کریں

ان سے یہاں تک کہ وہ گھس جائیں کسی اور بات میں . اور

اگر بھلا دے آپ کو شیطان ، پس آپ نہ بیٹھیں یاد آجانے

کے بعد ظلم کرنے والی قوم کے ساتھ ﴿۶۸﴾ اور نہیں ہے بچنے

و اے لوگوں پر کافروں کے حساب میں سے کچھ مگر نصیحت تاکہ وہ بچ جائیں (۶۹) اور آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے اور دھوکے میں ڈالا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اور آپ نصیحت کریں اس (قرآن) کے ساتھ، اس وجہ سے کہ کہیں گرفتار نہ کیا جائے کوئی نفس اپنی کھائی کے ساتھ۔ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی حائقی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اور اگر وہ مے گا ہر قسم کا فدیہ تو نہیں لیا جائیگا اس سے۔ یہی لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا۔ ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے اور دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے (۷۰)

ربط آیات

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی اور پھر اپنی صفات مختصہ کا ذکر کیا کہ وہ علیم کل، عالم الغیب، قاهر، قادر مطلق اور ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں، فرمایا اس کے باوجود کذب یہ قَوْمُکُمْ اِسْمُہُمْ نے قرآن پاک کو جھٹلایا، حالانکہ وہ برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کہ دیں میں کوئی تم پر نگہبان تو نہیں ہوں، مجھے کچھ علم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی گرفت کب آتی ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس پر وہ ظاہر ہو جاتی ہے اور تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کو اختیار کرنے سے کتنا بڑا وبال آتا ہے۔

اب آج کی آیات میں آیات الہی سے تمسخر کرنے اور ان کو مشغلہ بنانے والوں

آیات الہی سے تمسخر

کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، البتہ تبلیغ دین کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے اور پھر ایسے لوگوں کو ملنے والے عذاب کا تذکرہ بھی ہے تو ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ان کو مشغلہ بناتے ہیں ان کی عیب جوئی کرتے ہیں یا ان پر طعن کرتے ہیں، خَوْضٌ کا لغوی معنی گھس جانا ہے اور یہاں باطل میں گھس جانا مراد ہے۔ گویا جو لوگ آیات الہی کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، وہ باطل کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ مشرکین اور اہل کتاب کلام الہی سے مذاق کرتے تھے، قرآنی احکام کا تمسخر اڑاتے تھے۔

یہاں پر خطاب تو پیغمبر علیہ السلام سے ہے مگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم امت کے ہر فرد کے لیے یکساں قابل عمل ہے۔ تو فرمایا جب لوگ قرآن کی آیات سے استہزاء کرنے لگیں تو پھر آپ کے لیے یہ حکم ہے فَاعْرِضْ عَنْهُمْ آپ ان لوگوں سے اعراض کریں یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان کی مجالس میں شریک نہ ہوں حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں مقصد یہ کہ اگر ان کا موضوع گفتگو خَوْضٌ فِي الآیات نہ ہو بلکہ کوئی اور بات چیت ہو تو پھر آپ کو ان کی مجالس میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم نزول قرآن کے زمانہ میں بھی تھا اور آج بھی ہر مسلمان کے لیے نافذ العمل ہے، اس کا خلاف، احکام الہی کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں آیات الہی کی توہین ہو رہی ہو، حدیث مبارک کے ساتھ مذاق ہوتا ہو یا احکام دین کا تمسخر اڑایا جاتا ہو وہاں کسی مسلمان کو بیٹھنا روا نہیں بلکہ وہاں سے فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ بدعتین کی مجالس کا بھی یہی حکم ہے۔ جہاں بدعات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو۔ آیات الہی

کے معافی کو توڑ مورا کہہ پیش کیا جاتا ہو، وہاں کسی راسخ العقیدہ مسلمان کا ٹھہرنا درست نہیں بلکہ ایسی مجالس سے کنارہ کش کرنا ہی بہتر ہے۔ منافقین کا رویہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے۔ وہ بھی کئی مجلسوں میں آیاتِ الہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پر تنقیہ کرتے ہیں مگر جب ان کا تعاقب کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو محض دل لگی کر رہے تھے ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا **قُلْ اَبَا لَلّٰهِ وَاٰلِہٖٓ وَسَلَّمَ** آپ کہ دیں کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ یہ تو بہت ہی بُری بات ہے۔ بہر حال اہل ایمان کو ہر اس مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس میں قرآن پاک، حضور کے ارشادات مبارکہ اور شریعتِ حقہ کی کسی بات سے ٹھٹھا منسخر کیا جاتا ہو یا کسی قسم کی نکتہ چینی کی جاتی ہو۔

دوسری جگہ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا جب یہ لوگ باطل باتوں میں مشغول شاعر دین پر نکتہ چینی اور عیب جوئی کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کی مجلس میں شامل ہوں گے **اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ** تو آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے۔ اسی لیے تمام بزرگانِ دین ایسے واعظین کی مجلس میں بیٹھنے سے منع کرتے ہیں جو موضوعِ حدیثیں بیان کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تم تو اسے نیچی کا کام سمجھ کر شامل ہو گے مگر حقیقت میں اس سے نقصان ہو گا کیونکہ وہاں سے جو چیز اخذ ہوگی وہ دین کی بات نہیں ہوگی بلکہ شرک اور بدعت ہوگی اور یہی چیز سب قاتل ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام افرادِ امت کو ایسی مجالس میں جانے سے منع فرمایا ہے۔

علامہ اقبال مرحوم نے ہمیشہ شکوہ کیا کہ اچھی مجلس نہیں ملتی اچھے آدمی پید ہیں اور اچھی سوسائٹی میسر نہیں۔ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب تک اچھی سوسائٹی نہ ملے اس وقت تک ٹننوی مولانا روم پڑھ لیا کہ کیونکہ اس میں نصیحت کی

اچھی مجالس
کی تلاش

ان کو نصیحت کریں تاکہ وہ بچ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تبلیغ سے کوئی سعادت مند آدمی بڑائی سے باز آجائے۔

بہر حال مبالغین کے لیے یہ دستور العمل دیا گیا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں بلکہ تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں، کوئی ماننے والا نہ آئے آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ سورۃ اعلیٰ میں فرمایا ہے "فَذَكِّرْ لَنْ نَفَعَكَ مِنَ الذِّكْرِ شَيْءٌ" آپ ان کو نصیحت کریں، شاید یہ نصیحت سود مند ثابت ہو۔ مفسرین کہہ کر فرماتے ہیں کہ یہاں پر نفع نہ لینے والی بات مخدوم ہے، اور پورا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں خواہ ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور خیر خواہی کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ لوگ کہتے بھی غلط کار اور مہٹ دھرم ہوں، تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کمال درجے کے اطاعت گزار ہوتے ہیں اور وہ تبلیغ دین کا کام پورے خلوس کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اس کے باوجود قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ کسی نبی کے پیچھے صرف ایک ہی امتی ہوگا اور بعض پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا۔ تاہم اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس نے حق تبلیغ ادا کر دیا، اب کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ حیب نبی کی بات کا بھی بعض اوقات اثر نہیں ہوتا تو ہم گنہگار کس کھاتے میں ہیں۔ اگر لوگ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہی لائحہ عمل ہے۔

پھر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ رِبَاً وَكَهْتُمُ
 آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے جو
 لوگ اللہ کے سچے دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔

قرشتوں سے مسخر کرتے ہیں، معجزات کے منکر ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ایسے ناہنجار لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو چکے ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود ہی اپنی گرفتوں کا ہنرہ چمکھ لیں گے، مفسرین کو رسم فرماتے ہیں کہ اس جملے کا یہ معنی ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے کھیل تماشتے کو ہی اپنا دین بنا لیا ہے اس وقت دنیا کی کئی اقوام ایسی ہیں جن کے دین کی حیثیت کھیل تماشتہ ہی رہ گئی ہے۔ عیسائی اپنا مذہب تہوار کرسمس ڈے کے کس طرح مناتے ہیں؟ اربوں روپے کی شراب نوشی ہوتی ہے، جوار کھسیلا جاتا ہے، زنا ہوتا ہے اور طرح طرح کے لہو لعب اختیار کیے جاتے ہیں، کیا مقدس دین منانے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دین ایسے ہی منانے کا حکم دیا تھا، دراصل ان لوگوں نے دین کو کھیل تماشتہ بنا لیا۔ جشن نوروز بھی اپنے جلو میں اسی قسم کی قابحتیں لاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک عید کا دین مقرر کیا ہے تاکہ اس دین لوگ اس کا ذکر کریں، اس کی عبادت میں مشغول ہوں اور سچی خوشی کا اظہار کریں مگر یہ لوگوں نے اسے کھیل تماشتہ بنا لیا۔

ہمارے ہاں بھی جشن میلاد کھیل تماشتہ ہی بن کر رہ گیا ہے۔ جس طرح عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں نے عید میلاد منانا شروع کر دیا ہے۔ ساز و سرود کی محفلیں جمائی جاتی ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں جھنڈیاں لگتی ہیں۔ مکے اور مدینہ کے ماڈل بنا کر رکھے جاتے ہیں۔ جس طرح ہندو دسہرہ اور دیوالی مناتے تھے، راون کے بڑے بڑے بت بنا کر رکھتے تھے اور پھر انہیں آگ لگاتے تھے، چراغاں کرتے تھے، شور و شر اور ڈھول ڈھمکا ہوتا تھا، بالکل وہی خرافات مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے دین کو کھیل تماشتہ بنا لیا، اسی طرح مسلمان بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ

چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔

دھوکے
کی زندگی

پھر فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے وَعَدَّ تَهُمُ الْمَحْسُورَةَ الدُّنْيَا
ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ
اسی طرح خوشحال رہیں گے اور کھیل تماشا ہوتے رہیں گے۔ وہ محاسبے
کے عمل کو بھول چکے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہیں زَيْنَ لَهُمْ
الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ (انفال) شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کرنے
دکھایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کفر، شرک اور بدعات وہ انجام دے رہے
ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں لہذا وہ اسی دھوکے میں مبتلا ہیں کہ وہ جو کچھ
کر رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے فرمایا وَذَكَرْنَا بِكَ اَبَاسَ الْقُرْآنِ پاك
کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں جبکہ کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی
ہے بلکہ اللہ نے قرآن کو تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے
اس کی تعلیمات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے،
اس کی زینت میں اچھ کر نہ رہ جانا بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کے لیے
سامان کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا تھا بلکہ
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَجَلِّقُ الْإِنْسَ
وجن کا مقصد اس مالک الملک کی عبادت کرنا ہے۔

فرمایا اس قرآن پاک کے ذریعے آپ نصیحت کریں اِنْ تَبَسَّلَ
نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ تَاكُرُ كُوْنِي نَفْسٍ اِپْنِي غَلَطَ كَار كُرْدُ كِي وَجِبْر
گرفتار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو کوئی نصیحت نہیں پکڑے گا، وہ اپنے لیے
دھرے میں پکڑا جائے گا۔ سورۃ مدثر میں آتا ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جکڑا ہوا ہے
وہ احکام الہی سے سرکشی کر کے جاگ نہیں سکتا۔ بالآخر پکڑا جائے گا۔ تو
یہاں بھی فرمایا کہ ہر شخص اپنے افعال کی وجہ سے گرفتار ہے۔ ایساں کے

مختلف معافی آتے ہیں۔ مثلاً منع کرنا، روک دینا، گرفتار کرنا وغیرہ۔ شیر کو اسکا
 باسِل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شکار کو روک لیتا ہے اور وہ بھاگ نہیں سکتا
 اسی طرح رَجُلٌ بَاسِلٌ اُس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے درمقابل کو قابو کر لیتا ہے
 اور چھوڑتا نہیں۔ بہر حال فرمایا کہ آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے
 کردہ گناہوں کی پاداش میں گرفتار نہ ہو جائیں اور جو نفس اپنے جرائم کی سزا میں گرفتار
 ہو جائے گا لیس لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
 اُس کے لیے اللہ کے سوانہ کوئی کارساز نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔
 دنیا میں لوگ جھوٹی سچی کئی قسم کی طرفداریاں پیدا کر لیتے ہیں مگر قیامت والے دن
 کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور مجرمین اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔

فرمایا وَاِنْ تَقَدَّلَ كُلُّ اَكْرَهٍ كُوْنِيْ كَرَفَاتٍ مَّسِيْبَةٍ

شخص اپنی رہائی کے لیے فدیہ دینا چاہیے، ہر قسم کا فدیہ لا یُوْخَذُ مِنْهَا
 تو اُس سے قبول نہیں کیا جائیگا۔ دو سکر مقام پر آتا ہے کہ اگر بالفرض کسی
 کے پاس پوری زمین کے برابر خزانہ ہو اور وہ اپنی جان کے بدلے میں دینا
 چاہیگا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں نہ کوئی حمایتی کام آئے گا، نہ جنت
 اور نہ کوئی سفارش، وہاں تو نیکی اور ایمان ہی کام آنے والی چیزیں ہیں جنہیں وہ
 کھٹا و تمسخر میں گنوا چکے ہوں گے، لہذا ان کے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں
 رہے گی، ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔

فدیہ کی
 عدم قبولیت

فرمایا اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اُتُوا بِمَا كَسَبُوْا

جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کی کمائی کے بدلے، جنہوں نے اس دنیا میں کفر، شرک
 اور بدعات کو اکھٹا کیا، آخرت میں ان کی تواضع اس طرح ہوگی کہ لَهْمٌ
 شَوَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا
 سورۃ محمد میں ہے "سُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ"
 گرم پانی کا گھونٹ منہ میں ڈالیں گے تو وہ آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دیگا

مجرم کے
 لیے عذاب

وہ پانی پگھلے ہوئے فولاد سے بھی زیادہ گرم ہوگا۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے
 سترگنا زیادہ گرم ہوگی۔ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ اور طرح طرح کا دردناک عذاب
 دیا جائے گا۔ اس دنیا میں کی گئی تمام برائیاں خوفناک شکلوں میں متشکل ہو کر ان کے
 لیے عذاب بن جائیں گی۔ مثلاً بخل سانپ کی شکل بن کر ٹسے گا، بد اخلاقی درندوں
 کی شکل اختیار کر کے حملہ آور ہوگی اور کفر اور شرک جہنم کی آگ بن کر لپٹے گا۔
 کیونکہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ جبکہ فرمایا
ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کفر کرنے والے ہی ظالم
 ہیں جو مختلف ہنراؤں میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا ان کے لیے عذاب الیم
 ہوگا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ یہ لوگ دنیا میں کفر کرتے
 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں طعن کرنے والوں کے بڑے انجام سے
 آگاہ کر دیا اور نصیحت والی بات بھی سمجھا دی۔

واذا سمعوا

الانعام ۶

آیت ۱ تا ۳۲

درس بستم ۲۰

قُلْ اِنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
 وَنُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِي
 اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطٰنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرٰنًا لَّهٗ اَصْحٰبٌ
 يَدْعُوْنَہٗ اِلٰى الْهُدٰى اِتِّنَا قُلْ اِنَّ هُدٰى اللّٰهِ
 هُوَ الْهُدٰى وَاْمَرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۱﴾ وَاَنْ
 اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ وَهُوَ الَّذِي اِلَيْهِ
 يُحْشَرُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ قَوْلُهُ
 الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّوْرِ ۗ عَلِيْمُ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿۴۳﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کیا ہم پکاریں
 اللہ کے سوا ان کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور
 نہ نقصان دے سکتے ہیں اور ہم پٹا دیے جائیں اٹلے
 پاؤں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔
 (اٹلے) اُس شخص کی طرح جس کو گمراہ کیا ہے شیطانوں
 نے زمین میں، وہ حیران (متردد) ہے۔ اُس کے ساتھی اُس
 کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف کہ ہماری طرف چلا آ۔

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے بیشک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرمانبرداری کریں رب العالمین کی (۴۱) اور (یہ بھی حکم دیا گیا ہے) کہ قائم کرو نماز کو اور ڈرتے رہو اُس سے اور وہ وہی ذات ہے جسکی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے (۴۲) اور وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ اور جس دن وہ کہے گا ہو جا پس وہ (حشر) ہو جائے گا اُس کی بات برحق ہے اور اُسی کے لیے ہے بادشاہی جس دن کہ پھونکا جائے گا صور میں۔ وہ جاننے والا ہے چھپی بات کو اور کھلی بات کو اور حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے (۴۳)

ربط آیات

گذشتہ کئی دروس سے شرک اور مشرکین کا رد بیان ہو رہا ہے پھر خدا تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ کا ذکر بھی ہوا۔ آیاتِ الہی کے ساتھ استنزا کرنے والوں کی تردید ہونی پھر اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ آیاتِ الہی پر طعن کرنے والوں کی مجلس میں مت بیٹھو کہ یہ دینی طور پر مضر اور تمہارے لیے سببِ قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بُرے انجام کا تذکرہ بھی کیا اور فرمایا کہ آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑیں ایک دن آنے والا ہے، جب یہ نادم ہوں گے، مگر اس دن نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، یہ لوگ آخر کار عذابِ الہی میں گرفتار ہوں گے۔ آج کی آیات میں بھی شرک ہی کی تردید ہے اور یہ سلسلہ آگے دور تک چلا جائے گا۔ ان آیات میں بعض اُن مشرکین کا تذکرہ بھی ہے جو اہل ایمان کو اپنے رُستے پر چلنے کی دعوت دیتے تھے اور معبودانِ باطلہ کی عبادت پر آمادہ کرتے تھے۔

شرک کی دعوت

مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمنؓ پہلے کافروں کے ساتھ تھے چنانچہ معرکہ بدر میں وہ مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے۔ بعد

میں اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اپنے ابتدائی دور میں اپنے باپ صدیق اکبرؓ کو اپنے پڑا نے دین اور قوم اور بہادری کے طریقے پر واپس آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے۔ اَنْدَعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کیا ہم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو پکاریں مالا یا نفعنا ولا یضرنا جو ہمارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل ہو کیونکہ ہر چیز کا مالک تو خود خدا ہے اور ہم اُس کے اسمائے مبارکہ میں النَّافِعُ وَالضَّارُّ بھی پڑھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے۔ مگر مشرکین اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور اسی لیے وہ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرکین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی مافوق الاسباب پکارتے ہیں، ان کی دعائی دیتے ہیں۔ ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور ان سے حاجت باری کرتے ہیں۔ یہی شرک ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دوسروں کو بھی اختیارات تفویض کر رکھے ہیں اور وہ تصرف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ میں تصرف بالذات سمجھنے تو یہ بھی غلط ہے اور اگر اُس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بعض اختیارات دے رکھے ہیں تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ یہ ان کا خود ساختہ اور باطل عقیدہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

فرمایا، کیا ہم اللہ کے سوا ان کی عبادت کریں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، تو اس کا مطلب یہ ہوگا وَنُرِدُّ عَلٰی اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ کہ ہم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں یعنی سابقہ باطل دین کی طرف لوٹ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ ایسا کرنا تو کسی مومن کے شایانِ شان نہیں، وہ ہدایت کو چھوڑ

کر گمراہی کی طرف کیسے جاسکتا ہے۔

ندعوا کا معنی 'پکارنا' بھی ہے اور عبادت کرنا بھی۔ کسی کو مافوق الاسباب پکارنا، اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کی اُمید وابستہ کرنا ہی تو شرک ہے یہ تصور رکھنا کہ اللہ کے سوا مافوق الاسباب کوئی اور بھی بگڑھی بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف رفع کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے اختیارات ہونپ رکھے ہیں، بالکل باطل عقیدہ ہے۔ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے متصرف فی الامور بھی وہی ہے ادنیٰ ذرے سے لے کر آفتاب تک اور زمین سے لے کر آسمانی کرروں تک ہر چیز کی تدبیر کر نیوالا کون ہے سورۃ آلہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر خود وہی کرتا ہے؟ جب بات اس طرح ہے۔ تو پھر ہم سچے دین کو چھوڑ کر جاہلیت کے دین میں کیسے چلے جائیں؟ حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔

شیطانی
راستہ

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ کہ واپس باطل دین کی طرف پھر جانے کی مثال اس شخص کی ہے جسے شیطانوں نے کسی زمین (جنگل) میں سرگرداں کر دیا ہو۔ لفظ اسْتَهْوَتْهُ هَوَىٰ کے مادہ سے ہے جب یہ ضَوْبٌ يَضْرِبُ کے باب میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گزنا یعنی کسی چیز کا بلندی سے پستی میں گزنا۔ جس نے کفر یا شرک کیا یا گمراہی کا راستہ پکڑا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جاگرا۔ اور هَوَىٰ کا معنی خواہش اور محبت بھی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ نجم میں آتا ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ" بنی اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی یہ اس شخص کی مثال ہے جسے شیطان نے گمراہ کر کے ہلاکت کے گڑھے

وہ راہ گم کردہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ لوگوں کو شیطانی راستوں سے ہٹا کر صراطِ مستقیم کی طرف لاتا ہے ان کو خدا نے وعدہ لایا ہے کہ جو کھٹ پھٹ سے آتا ہے نہ کہ خود گمراہوں کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ مومن سے یہ توقع عبث ہے کہ وہ توحید کی صاف اور سیدھی سڑک کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر بسجود ہوگا جو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص شیطانی راستے پر چل نکلتا ہے (معاذ اللہ) تو اُس کی مثال اُس شخص جیسی ہوگی جو اپنے رفقاء کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ناگاہ غول بیابانی اور غبیث جنات نے اُسے ہبکا کر راستے سے الگ کر دیا اور اب وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے۔ اُس کے ساتھی ازراہ ہمدردی اُس کو آوازیں دے رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ، سیدھا راستہ یہ ہے، مگر وہ پریشان اور مضبوط الجواس ہو چکا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ وہ کدھر جائے اور منزل کو کیسے پلئے۔

فرمایا آخرت کے مسافر انسان کی مثال ایسی ہی ہے۔ اس کے سامنے ایمان اور توحید کی سیدھی راہ موجود ہے اس کے رفقاء نے سفر اللہ کے نبی، پیغمبر اور ان کے ماننے والے ہیں، مگر یہ شخص شیطان کے پھندے میں پھنس کر صحرائے ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اُس کے ساتھی اور ہادی اُسے صراطِ مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، مگر یہ شخص نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی اُس بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح سرگرداں ہو جائیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا ان معبودانِ باطلہ کی عبادت کریں جو نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔

فرمایا، ہمیں ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگارِ عالم کی فرمانبرداری کریں اور دوسرا یہ کہ وَأَنْ أَقِیْمُوا الصَّلَاةَ ہم نماز کو قائم کریں اس پر مداومت اختیار کریں کیونکہ نماز تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے اور

ہمیں یہ بھی حکم ملا ہے وَاتَّقُوا کہ خدائے برتر سے ہر وقت ڈرتے رہیں کہ اُس کی نافرمانی کر کے کہیں عتاب میں نہ آجائیں۔ تقویٰ سے مراد جاوہ حق اور عدو و شرعیّت کی حفاظت کرنا اور دل میں خوفِ خدا رکھنا ہے کہ کہیں معصیت میں گرفتار نہ ہو جائیں کیونکہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی اللہ ہے جسکی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آخر کار اُسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اعمال کا محاسبہ ہوگا، لہذا اُس کے لیے ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسی قیمتی پونجی دے کر اس دُنیا میں بھیجا ہے کہ اس محدود وقت میں نیکی کی تجارت کر لے، یہی تمہارے کام آئے گی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے كُلُّ النَّاسِ يَفْدُو فَبَاعَ نَفْسَهُ ہر شخص جو صبح کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے، یا اُس کے بدلے میں ہلاکت خریدتا ہے یا نفس کو نجات دلا دیتا ہے۔ اگر اُس نے ایمان اور تقویٰ خرید لیا، اس قیمتی پونجی کو اچھے کام میں لگا دیا تو اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کر لیا اور اگر کفر، شرک اور برائی خریدی تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا انسان کی زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ زندگی کی پونجی ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے، لہذا عظیم مذمی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نیکی کے کام میں لائے اور اگر کفر و شرک ہی خرید لیا تو تَوَفَّيْنَا مَا رَ بَحْتُمْ جَبَّارٌ تَهْتَكُوهُ تو کفار کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا بلکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔

اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ اس مقام پر کائنات کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ کائنات کا یہ پورا نظام بے سود ہی پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا کوئی نتیجہ بھی سامنے آنے

خالق و مالک

والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر جب یہ نظام مدت پوری کر لے گا تو پھر وہ دن بھی آجائے گا وَيَوْمَ يَقُولُ مَن كَانَ فَنِي كَوْمَن جَس دِن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا، کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اسی طرح جب قیامت کا مقررہ دن آئیگا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز فنا ہو جائیگی پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم کرے گا تو نئی زمین اور نیا آسمان پیدا ہوگا، اور انسان دوبارہ اُٹھ کھڑے ہوں گے، پھر حساب کتاب کی منزل آئیگی اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، مقصد یہ کہ وہ مالک الملک با اختیار ہے، اسے ہر چیز پر تصرف حاصل ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے بغیر کسی معاون کے کر گزرتا ہے۔ فرمایا قَوْلُهُ الْحَقُّ اس کی بات بالکل سچی ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ تمام کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین پر جو عارضی اختیار تفویض کرتا ہے، اسے پھر انسان بگڑ جاتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور کوئی شہنشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور ملک الملوک کی کہ سی سنبھالنا چاہتا ہے، انسان اقتدار کے نشہ میں آکر اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔

قیامت کا
نقشہ

فرمایا جب بادشاہی اسی کی ہے تو پھر وہ جب چاہے اقتدار چھین بھی سکتا ہے۔ يَوْمَ يُنْفَخُ رِفْعُ الصُّوْرِ جس دن صور میں چوونکا جائیگا یعنی جب قیامت کا بگل بج جائے گا تو سب فنا ہو جائیں گے حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت کو بھی موت آجائیگی، تمام مقرب فرشتے اور عالمین عرش ختم ہو جائیں گے اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ یعنی آج بادشاہی کس کی ہے۔ مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَحْدِ الْقَهَّارِ بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ اکیلا ہے اور قہار ہے فرمایا وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

جو چیزیں مخلوق کے سامنے ہوتی ہیں اور مشاہدے میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے اور جو چیزیں انسانی مشاہدے میں نہیں آتیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس سورۃ مبارکہ میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ سورۃ مائدہ کے آخر میں گذر چکا ہے "اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ" عالم الغیب بھی اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختصر اس علم دیا ہے۔ مخلوق میں سے انبیاء کو سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پوری مخلوق کا علم قلیل ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انبیاء علیہم السلام جو علم آگے امتوں تک پہنچاتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہوتا بلکہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں جو وحی الہی کے ذریعے انبیاء کو بتائی جاتی ہیں۔

خدا کے حکیم
وغیب

آخر میں اللہ تعالیٰ کی دو مزید صفات کا ذکر ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِیْلُ وہ حکیم ہے کہ اس نے ہر چیز کمال حکمت کے ساتھ بنائی ہے کوئی چیز بے سود پیدا نہیں کی بلکہ ہر چیز کی خلقت میں اس کی حکمت بالغہ کا فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ خبیر ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ کسی چیز سے غافل نہیں۔ وہ خالق اور مالک ہے، رب العالمین ہے یہ تمام صفات اس کی الوہیت پر دلالت کرتی ہیں معبود وہی سکتا ہے۔ جو ان صفات کا حامل ہو۔ جو نافع اور ضار ہو، جو قادر مطلق ہو، جو متصرف اور مدبّر ہو۔ لہذا اس کے علاوہ کسی دوسرے کو پکائے یا اس کی عبادت کرنے کا کیا جو از رہ جاتا ہے مگر اس کے باوجود مشرکین نے زمین و آسمان کی کئی چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس سورۃ میں ہر قسم کے شرک کی تردید کی گئی۔ ابھی تک زمینی معبودوں کا ذکر ہوتا رہا ہے اب آئندہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں آسمانی اشیاء کی عبودیت کی نفی ہوگی۔ بہر حال زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے لہذا اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔

الانعام ۶

واذا سمعوا >

آیت ۷۴

درس بست ویک ۲۱

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَارَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا
الِهَةً إِلَيَّ أَزِيكَ وَقَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۷۴﴾

ترجمہ :- (اس واقعہ کو یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام نے

اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بیشک

میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں ﴿۷۴﴾

رابط آیات

گذشتہ آیات میں شرک کی تردید بیان ہوئی تھی اور اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ مشرک لوگ جن ہستیوں اور چیزوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ نفع نقصان کے کچھ مالک نہیں پھر ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرتے ہیں اور کسی دوسری ہستی کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو اپنا کارساز مانتے ہیں۔ وہ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس کے سامنے سب کو اکٹھا ہونا ہے وہی ارض و سما کا مالک، با اختیار اور متصرف ہے۔ اس کی بات برحق ہے، بادشاہی صرف اسی کی ہے جس دن وہ صورت بھونکنے کا حکم دے گا، کائنات کا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، محاسبے کی منزل آجائیگی، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے وہ حکمت کا مالک اور ہر چیز سے باخبر ہے۔

آج کا درس بھی تردید شرک پر ہی مشتمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالموحیدین

ہوئے ہیں۔ ان کا باپ اور پوری قوم گمراہی میں مبتلا تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آمدہ

آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوتِ توحید کا ذکر فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے

اپنے باپ آزر کے سامنے پیش کی۔ آپ نے شرک کی قباحتوں کو واضح کر کے اس سے منع

انبیاء کی مشرکہ
دعوتِ توحید

فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ مسئلہ توحید تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کی کہ تمام معبودانِ باطلہ کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کرنے سے مشرکین عرب کو سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اس لیے یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، اسے قبول کر لو۔ تمام انبیاء کا دین ہی رہا ہے۔

عرب میں شرک کی ابتداء

حضرت ابراہیم علیہ السلام یورو و نصاریٰ اور مشرکین عرب سب کیلئے قابلِ صدا احترام ہیں۔ عراق اور عرب کے دیگر علاقوں کے صابئی لوگ بھی آپکا احترام کرتے تھے کیونکہ جد الانبیاء ہونے کی حیثیت سے آپ سب کے جانے پہچانے تھے۔ اگرچہ ان لوگوں نے آپ کے دین کو بگاڑ رکھا تھا۔ تاہم وہ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرف منسوب سمجھتے تھے۔ یورو و نصاریٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے آپ کی نسل سے تھے اور عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، بلکہ عربوں کا دعوے تو یہ تھا کہ صرف وہی اصل دین ابراہیمی رہے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ کسی حد تک حقیقت حال بھی یہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک عرب کے لوگ دین حنیف پر قائم تھے اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہی رائج تھا۔ تاہم حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً چار پانچ سو سال پہلے آپ کے اجداد میں سے قصی بن کلاب کے زمانے میں عرب کی سرزمین پر شرک کی ابتداء ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ وبا ایسی پھیلی کہ عربوں کا کوئی گھر شرک سے خالی نہ رہا۔ ہزاروں میں کوئی اکاؤڈ کا آدمی ہی صحیح دین پر ملتا تھا، وگرنہ تمام بنی اسماعیل شرک میں غرق ہو چکے تھے۔

ملتِ ابراہیمی سے پہلے صابئی ملت کا دور تھا۔ امام جلال الدین سیوطیؒ اپنی تاریخ کی کتاب "حسن المحاضرات فی احوال المصر والقاهرة" میں لکھتے ہیں کہ صابئی ملت اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ملت ہے آپ پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کی ملت میں بنیادی طور پر یہ چار چیزیں تھیں، توحید، طہارت، صلوٰۃ اور صوم۔ مگر جب اس ملت میں بگاڑ پیدا ہوا، تو ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی۔ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اصل دین کو بگاڑ رکھا تھا، اسی طرح صابیوں نے بھی اصل دین کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔

ستارہ پرستی

صابئی ملت والوں کا ستاروں کے ساتھ خاص طور پر تعلق ہے۔ یہ لوگ آسمانی چیزوں یعنی ستاروں، سورج اور چاند وغیرہ میں خدائی کہہ سکتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ رومیوں اور یونانیوں نے ان ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے۔ وہاں پر زہرہ، مشتری اور عطارد کے نام کے مندر موجود تھے عرب میں شعری سیارے کی پوجا کی جاتی تھی جس کی تردید سورۃ نجم میں موجود ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی ہے "وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ السُّعُرَى" یعنی شعری سیارے کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ لہذا اس سیارے کی پوجا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ سیارہ بھی اسی خدائے واحد کے حکم کے تابع ہے اس میں الوہیت کی کوئی بات نہیں، وہ تو مخلوق ہے اور اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ عبادت کے لائق صرف خداوند قدوس ہے جو اس سیارے کا بھی خالق ہے۔

ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ شعری سیارہ ہماری اس زمین سے بہت دور ہونے کی وجہ سے بہت چھوٹا نظر آتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا حجم سورج کے حجم سے بیس ہزار گنا بڑا ہے۔ اور سورج ہماری زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے اور زمین سے اس کا فاصلہ نو کروڑ تیس لاکھ میل ہے نظام شمسی میں بچنے والے سیارے پائے جاتے ہیں، ان میں سورج سے سب سے بڑا ہے اور باقی سارے سیارے اس سے چھوٹے ہیں۔ بہر حال شعری سیارہ یہاں سے اربوں

میل دُور ہونے کی وجہ سے کہکشاں کے ایک چھوٹے سے ستارہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شعری جیسے بڑے سیارے کا رب بھی اللہ ہے۔ تو پھر تم ان تمام ستاروں اور سیاروں کی پرستش کیونکر کرتے ہو عبادت کے لائق تو فقط وہی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے شعری کی طرح سورج کی پرستش بھی کی جاتی تھی مگر میں سورج کے نام پر مندر موجود تھے جو فرعون کے زمانے میں بھی پائے جاتے تھے۔ سورج کے کچھ پرستار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے کہ مندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو سورج دیوتا مانتے ہیں۔ رات کو بارش ہوئی تو صبح کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ مخلوق میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ جب بارش ہوئی تو کہا مَطْرٌ نَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَفَضْلِهِ ہم پر اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے بارش ہوئی۔ یہ بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ستاروں میں کوئی کمر شہہ نہیں مانتے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ فلاں پھر طلوع ہوا تو بارش ہوئی یعنی فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش نصیب ہوئی۔ و فرمایا یہ لوگ ستاروں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ علم نجوم فلاں بھی سعادت اور نحوست کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب فلاں سیارہ فلاں کے بالمقابل آجائے گا تو اُس وقت پیدا ہوئی والا بچہ سعادت مند ہوتا ہے اور اگر فلاں فلاں ستارے آئے مرنے آجائیں تو بچہ نحوست پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ حوادث دنیا کو سیاروں اور ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں جو کہ کفر ہے۔ سیاروں میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں، وہ تو اس کے نظام کا ایک حصہ ہیں۔ یہ سب اُس کی قدرت کا کمر شہہ ہیں کوئی چمک دیتا ہے، کوئی روشنی اور کوئی حرارت، لہذا جو لوگ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں

اور جو لوگ ستاروں میں تاثیر مانتے، وہ کفرانِ نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں
 اگہ انہوں نے کسی چیز کو مؤثر بالذات سمجھ لیا تو مشرک ہو گئے کافروں کا یہ
 وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کفر کے کافر بن گئے اور ستاروں
 پر ایمان لے آئے۔ بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے
 جو استدلال پیش کیا، اس میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ سیاروں اور ستاروں
 میں کوئی تاثیر نہیں اور نہ ہی یہ عبادت کے لائق ہیں۔ اصل مدبر اور مؤثر
 تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا حکم ستارے بھی مانتے ہیں، لہذا ستاروں
 اور سیاروں کی عبادت کسی طور پر رد انہیں۔ بعض لوگوں نے ستاروں کے
 نام پر بت بنائے ہوئے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں الوہیت
 کی صفت مانی جاتی تھی۔ پھر ان کی تعظیم ہوتی، ان پر نذرانے رکھے جاتے
 تھے، آجکل تعزیر کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جاتا ہے، اس پر نذرانے ڈالے
 جاتے ہیں۔ اور پھر قبروں کے ساتھ تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے پختہ بنائی
 جاتی ہیں۔ ان پر بڑے بڑے گنبد تعمیر ہوتے ہیں۔ پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے۔
 چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ نذر و نیاز ہوتا ہے، کوئی چومتا ہے اور کوئی سجدہ کرتا
 یہی کچھ صابنی ملت کے لوگ، ہندو وغیرہ کرتے تھے اور یہی چیز آج مسلمانوں
 میں بھی موجود ہے۔

نظام شمسی

جس کائنات میں ہم رہتے ہیں اسے نظام شمسی کا نام دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ
 نے سات سیاروں کا یہ نظام کمالِ حکمت کے ساتھ بتایا ہے۔ اس نظام میں
 سورج سب سے بڑا سیارہ ہے، زمین بھی انہی میں سے ایک سیارہ ہے جس پر
 ہم رہتے ہیں۔ یہ تمام سیارے سورج کے گرد اپنی اپنی مقررہ رفتار کے
 ساتھ چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے سیاروں کی فضا میں گردشِ قدرت
 کے قائم کردہ قانونِ جذب و کشش کے تحت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 نے ہر سیارے میں ایک خاص درجے کی کشش رکھی ہے جس کی وجہ سے

ان کی رفتار معین ہے اور اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اس متعینہ کشش کی وجہ سے یہ سیارے نہ تو اپنے مدار سے باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے سورج میں سب سے زیادہ کشش رکھی ہے جس کی وجہ سے تمام باقی سیارے اس کے گرد ایک فاصلے اور خاص رفتار سے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ جو چیز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ سیاروں کی یہ کشش خود بخود نہیں آ رہی ہے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان سیاروں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اُس مالک الملک کا فرمان ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب یہ سیارے آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز فنا ہو جائیگی پھر دوبارہ قائم ہوگی اور محاسبے کا عمل شروع ہوگا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت آج سے تقریباً پانچ ہزار سال پہلے کلدان یعنی بابل کے مقام اُور میں ہوئی۔ موجودہ جغرافیے کے مطابق یہ علاقہ اب عراق میں شامل ہے۔ بابل شہر بغداد سے ساٹھ ستر میل دور آباد تھا یہاں پر بڑے متمدن لوگ رہتے تھے، اُس زمانے میں فرود ابن کنعان وہاں کا بادشاہ تھا۔ یہ بڑا ظالم، جابر اور مشرک آدمی تھا۔ مصر کے فرعون کی طرح یہ بھی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ گردش زمانہ کے ہاتھوں بابل کا مشہور و معروف شہر جہاں کلدانی نسل آباد تھی، تباہ و برباد ہو گیا، اب صرف کھنڈرات باقی ہیں جن کی کھدائی کر کے ماہرین آثارِ قدیمہ کلدانی تہذیب کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ انگریزوں نے سلطان تہ کی سے اجازت لے کر کھدائی شروع کی تو نیچے سے سنگ مرمر کے بنے ہوئے عجیب و غریب مجسمے برآمد ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں سنگ تراشی کو عروج حاصل تھا، لوگ خود ہی پتھروں کو تراش کر بت بناتے تھے اور پھر خود ہی ان کی

براہیم علیہ السلام
کا وطن مولود

پرستش کرنے لگتے۔

پڑانی تہذیبوں کے آثار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر پرہ اور
موجودہ عمارتوں کے کھنڈرات سے پانچ چھ ہزار سال پڑانے آثار ملتے ہیں۔ بلوچستان
اور سوات میں بھی بعض قدیم تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ ہندوستان میں بدھ سے
بھی سینکڑوں سال پہلے کے نشانات ملتے ہیں۔ مصر میں اہرام کے نام سے جو
بڑے بڑے گنبد نظر آتے ہیں، ان کی تاریخ بھی ساڑھے پانچ ہزار سال پڑانی
سے بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ یہ اُس زمانے کے حکمرانوں کی قبریں ہیں، جن
پر یادگار کے طور پر عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ مصر کا سب سے بڑا صرم چار سو فٹ بلند
ہے جس پر پچھتر پچھتر من وزنی پتھر لگائے گئے ہیں آج تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔
ایسے کاموں کے لیے بڑی بڑی مشینیں اور کمینیں ایجاد ہو چکی ہیں جنہیں بجلی کے ذریعے
کام میں لایا جاتا ہے، مگر اُس زمانے میں جب یہ وسائل میسر نہیں تھے، اتنی بڑی
بڑی عمارتیں بنانا حیران کن ہے۔ وہ بھی بڑے ذہین لوگ تھے جنہوں نے اتنے بڑے
کام محض افرادی قوت کے ساتھ انجام دیے۔

تورات کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارح
تھا، مگر اس آیت کریمہ میں ان کا نام آذر بنایا گیا ہے۔ چنانچہ مفسرین کے نزدیک
یہ تفاوت اشکال کا باعث بنا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ تارح اور آذر ایک
ہی شخصیت ہے۔ قرآن پاک میں تو واضح طور پر آذر لکھا ہے۔ اور اگر ان کا اصل
نام تارح بھی تسلیم کر لیا جائے تو آذر لقب ہو سکتا ہے اور بعض اوقات نام کی
نسبت لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا
لقب اسرائیل تھا تو وہ زیادہ تر اسی لقب سے پہچانے جانے لگے اور ان کی اولاد
بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ آذر ایک بت کا نام بھی تھا جس کی وہ پوجا
کرتے تھے بلکہ خود بت تراش اور بتوں کی تجارت کرتے تھے آپ مشرکین کے
اہم اور مندروں کے محافظ تھے۔ ان کا لقب آذر شاید اسی بت کی نسبت سے

ابراہیم علیہ
السلام
کے والد آذر

مشہور ہو گیا۔ بہر حال قرآن پاک نے اُن کا نام آزر بتایا ہے۔ دونوں ناموں میں سے ایک کو اصل نام اور دوسرے کو لقب مان لیا جائے تو تعارض باقی نہیں رہتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے جو کہ درست نہیں ہے۔ تاریخ اور آذر ایک شخصیت کے دو نام ہیں جو بلاشبہ مشرک تھے۔

ابراہیم علیہ السلام
کی پیدائش

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے متعلق بہت سے واقعات تفسیری روایات میں آتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی دست برد سے بچایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے ہاتھوں سے بچتے رہے۔ نمرود کو کاہنوں اور نجومیوں نے بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوئے گا جسے جو تیرے زوال کا باعث بنے گا۔ چنانچہ اُس نے میاں بیوی کے ملاپ کی ممانعت کر دی۔ اس کے باوجود چونکہ پیدا ہوتے اُن کی نگرانی کی جاتی اور اس کے متعلق پوری تحقیق کی جاتی کہ یہی وہ بچہ تو نہیں جس کی پیشین گوئی کی جا چکی ہے مگر اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی منظور تھا جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو سرکاری کارندوں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ ایک غار میں چلی گئیں، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ کو تین سال تک اُسی غار میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے فرمائی، پھر جب آپ سن شعور کو پہنچے تو اللہ نے غیر معمولی رُشد و ہدایت سے نوازا وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدًا مِّنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِلْمِنا اِلٰهِيْنَ (سورۃ الانبیا) ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے سمجھ عطا فرمائی۔ وہ اللہ کی توحید کے محقق اور اس پر سختی سے کار بند تھے وہ ابوالموحدين یعنی تمام توحید پرستوں کے باپ تھے۔ بہر حال اچھی پیدائش اور پرورش کے متعلق تاریخی روایات ملتی ہیں جن کے متعلق یقین سے

کوئی ستاروں میں کمرہ شمعہ مانتا ہے۔ کوئی ارضی چیزوں کے پرستار ہیں اور کوئی آسمانی چیزوں کے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے باپ کو مندر کا محافظ اور بڑا مشرک پایا تو دعوتِ توحید کی ابتداء اسی سے کی اور کہا کہ اے میرے باپ! کیا تم ان خود تراشیدہ بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ حقیقی خالق اور مالک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مسمیٰ اور پتھر کے بتوں کی پوجا کی جائے۔

فَرَمَا يَا حٰثِرُ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

میں تو تمہیں اور پوری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوسے و ثوق اور جوش و جذبے کے ساتھ اعلان کیا کہ اے باپ! تو اور تیری پوری قوم شرک کا ارتکاب کر کے گمراہی کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ فرمایا جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر ان کی خرید و فروخت کرتے ہو، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ ان پر چڑھاؤ کیوں چڑھاتے ہو۔ ان کو نذر و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ آخر ان کو کون سا اختیار حاصل ہے جس کے ذریعے یہ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہو۔ یہ تو محض شیطان کا دھوکا ہے جو تمہیں پٹی پڑھاتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، انہیں خدائی اختیارات حاصل ہیں حالانکہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔

مولانا ابوالکلام آزادؒ لکھتے ہیں کہ انسان بھی عجیب مخلوق ہے۔ جب یہ ماننے پر آتا ہے تو گوہر کو بھی معبود بنا لیتا ہے، کھیرے سکڑوں، مکھیوں، بلکہ بلی چوہے اور سانپ کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ اور جب انکار کرے تو پھر اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام کو جھٹلا دے اور ان پر پتھر برسوانے لگے۔ اللہ کے مقرب انبیا کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ خود حضور علیہ السلام کو اپنے بھائی بندوں کے ہاتھوں کتنی مشقت برداشت کرنا پڑی۔ عکاظ کی منڈی میں لوگوں نے دیکھا کہ

پوری قوم
کی گمراہی

حضور علیہ السلام تشریف لے جائے اور کہہ رہے ہیں اے لوگو! قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کے پیچھے پیچھے لمبا پتھر پہننے ہوئے ایک لمبا دھڑنگا گورا چٹا جوان آپ کو پتھر مارتا جاتا تھا۔ اور کہتا تھا لوگو! یہ شخص (معاذ اللہ) پاگل ہے۔ اس کی بات نہ سنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ پتھر مارنے والا شخص کون ہے تو بتلایا گیا کہ یہ حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا ابو کسب ہے۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے توحید کا واضح تصور پیش کیا اور اُسے بتایا کہ تم اور تمہاری پوری قوم گمراہی کے گڑھے میں گر چکی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اُس کمال کا ذکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید اور توحید کے حق میں قوم کے سامنے واضح دلائل پیش کیے جن کی وہ تردید نہ کر سکے۔

تاریخ اور
آزہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کٹر مشرک اور آپ کے سخت دشمن تھے۔ اُن کے نام کے متعلق قرآن میں تو صراحتاً موجود ہے کہ اُن کا نام آزہ تھا، مگر بعض لوگ آزہ کو باپ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، لہذا باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ یہ بات اصولاً غلط ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کے اباؤ اجداد کے متعلق یہ کہا کہ اُن میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، قطعاً غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کی نسل میں بہت سے مشرک گزرے ہیں۔ لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس سے نبی کی معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ شیخ سعدی نے کہا ہے

ہنر بہ نما اگر داری نہ گوہر گل از خار است و ابراہیم از آزہ
اگر تم ذات نہیں رکھتے تو ہنر میں کمال پیدا کرو۔ پھول کانٹوں سے نکلتا ہے
اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آزہ سے نکلا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے

کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکال دے۔ یعنی یہ تو اسی حکمت پر موقوف ہے، چاہے تو مشرک سے مؤحد پیدا فرمائے اور مومن کی نسب سے کافر پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کا بیٹا اگر باپ کی بات نہیں مانتا تو غرق ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ ثابت کرنا کہ حضور علیہ السلام کی نسل میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا، حقیقت کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی مشرک تھا اور ان کی اولاد میں بھی بہت سے مومن تھے اور بہت سے کافر مشرک بھی تھے۔

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں تجھے اور تیری قوم کو کھٹکی گمراہی میں پاتا ہوں۔ کفر و شرک سب سے بڑی گمراہی ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوتی۔ بابل شہر کا رقبہ ساٹھ یا سو مربع میل پر پھیلا ہوا تھا مگر پوری آبادی مشرک تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی تو آپ اپنی بیوی سارہ اور بیٹے لوط علیہ السلام کے ہمراہ نکلے۔ اس وقت ان کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَلِيَكُون مِّنَ الْمُؤَقِنِينَ ﴿٤٥﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
 اللَّيْلُ رَاكِبًا قَالَ هَذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ
 لَأَجِبُ الْاُولِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ
 هَذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي
 رَبِّيَ لَأَكُون مِّنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٤٧﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ
 بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّيَ هَذَا اكْبَرُ فَلَمَّا
 أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٤٨﴾
 اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
 وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٤٩﴾

ترجمہ :- اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام

کو بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی ، تاکہ ہو جائیں وہ یقین

رکنے والوں میں ﴿۴۵﴾ جب ستارے ہو گئی اُن پر رات ، پس

دیکھا ہنوں نے ستارے کو تو کہنے لگے ، کیا یہ ہے میرا رب؟

جب وہ غائب ہو گیا تو کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) میں نہیں پسند

کرتا غائب ہو جانے والوں کو ﴿۴۶﴾ پھر جب انہوں نے دیکھا

چاند کو چمکتا ہوا ، تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ جب

وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے ، اگر نہ ہدایت دیکھا مجھ کو میرا
 پروردگار تو البتہ میں ہو جاؤں گا گمراہ لوگوں میں سے ﴿۷۷﴾ پھر
 جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا
 رب ؟ یہ بڑا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے
 اے میری قوم کے لوگو ! میں بنیاد ہوں ان چیزوں سے جن
 کو تم شریک بناتے ہو ﴿۷۸﴾ تحقیق میں نے متوجہ کر لیا ہے اپنے
 کو (یعنی جسم و جان کو) اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا
 ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور میں حنیف (یک سونے والا)
 ہوں اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے ﴿۷۹﴾

رابط آیات

اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے
 اور اس دلیل کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے شرک کی تردید میں مشرکین کے سامنے پیش کی۔ ان آیات
 میں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور مسک بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے پھر اگلی آیات میں قوم
 سے جھگڑا کرنے کا ذکر ہوگا۔ پھر انبیاء کا مسک بیان ہوگا جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا
 مسک ہے۔ گذشتہ آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے واقعہ کو دھیان میں لاؤ جب انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں
 کو الہ بنا رہا ہے۔ میں تجھے اور تیری قوم کے لوگوں کو صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تم
 اپنے ہاتھ سے پتھر تراش کر بت بناتے ہو اور پھر انہیں معبود سمجھ کر ان کے سامنے
 سجدہ ریز ہو جاتے ہو، یہ کونسا دین ہے؟ یہ تو واضح گمراہی ہے جس میں ساری قوم
 مبتلا ہے۔

میں نے کل عرض کیا تھا کہ مفسرین کی تحقیق کے مطابق آزر ابراہیم علیہ السلام کے
 والد ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ تورات میں اور عام تاریخی کتابوں میں ان

نام آزر
 کی تحقیق

کا نام تاریخ آتا ہے مگر قرآن پاک نے صراحتاً آذر بتایا ہے۔ اس معاملے میں بعض مفسرین کو غلط فہمی بھی ہوئی ہے جنہوں نے تاریخ کو والد اور آذر کو چچا کہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض کے نزدیک تاریخ کی بجائے زارخ کا تلفظ بھی آیا ہے اور عین ممکن ہے زارخ کو آذر میں تبدیل کر دیا گیا ہو بعض اوقات اہل لغت الفاظ میں اس قسم کی تبدیلی کر لیتے ہیں لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ امام ابن کثیرؒ کی تحقیق کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ آذر نامی بت کے پجاری تھے اور اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، لہذا ان کا نام بھی بت کے نام پر آذر ہی مشہور ہو گیا اور یہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے تاہم اگر اصل نام تاریخ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا لقب بہر حال آذر مشہور ہو گیا اور اسی نام سے جانے پہچانے جانے لگے۔ عربی زبان ”آب باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے نہ کہ چچا کے لیے قرآن پاک میں ہر جگہ ابی کا لفظ ہی آیا ہے، لہذا اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ آذر آپ کے والد ہی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام شانی تھا، آپ کلدانی قوم کے فرد تھے۔ یہ قوم قدیم عراق میں ایک بڑی تہذیب کی وارث تھی اور وہاں پر صدیوں سے ان کی حکومت چلی آرہی تھی اس علاقے میں کلدانیوں سے پہلے آشوری دور بھی گزرا ہے کلدانیوں میں حمورابی بادشاہ ہوا ہے جس نے اپنے قوانین پتھروں پر کندہ کرائے تھے یہ شخص دو ہزار سال قبل مسیح ہوا ہے۔ اسی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس وقت فرود حکمران تھا۔ فرود اصل میں نموتھا۔ نموت سے انور ہوا اور پھر عربی لہجے میں آکر فرود بن گیا۔

جیسا کہ کل عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی کا نام سارہ تھا جو آپ کی چچا زاد تھی۔ آپ کی دوسری بیوی تہاجرہ تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں عام مشہور یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی تھیں مگر یہ بات درست

نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ کی تحقیق کے مطابق حضرت ہاجرہ شہزادی تھیں۔ گمروش زمانہ میں آکر کسی طرح قید ہو کر شاہ مصر کی تحویل میں چلی گئیں جنہوں نے انہیں لونڈی بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے تو وہاں کا جبار حکمران اپنے دستور کے مطابق بڑی کا اردہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے خوفزدہ کر دیا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان نوواردان کو مصر سے نکال دیا جائے تاہم اس نے خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو دیدی۔ پھر انہوں نے اُسے حضرت ابراہیم کو مہر کر دیا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے اسماعیل جیسا عظیم فرزند اور عالی شان رسول پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی قطورہ نامی بھی تھی۔ آپ نے عمر کے آخری حصے میں ان سے قرہ خلیل میں نکاح کیا۔ اسی مقام پر آپ کی قبر کی نشان دہی بھی ملتی ہے۔ مدین وائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی بیوی کی اولاد تھے جو بنی قطورہ کہلاتے تھے ابراہیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے آپ کا تذکرہ قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں مختلف عنوانات کے تحت ہوا ہے۔ آپ کے نام ایک سورۃ ابراہیم بھی قرآن پاک میں موجود ہے آپ عنیفیت کے سب سے بڑے اہم تھے۔ آپ سے پہلے صابی دور تھا جو کہ شہادت علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا یہ دین بھی ابتداء میں حق پر تھا مگر بعد میں اس میں بت پرستی، ستارہ پرستی اور سورج پرستی شروع ہو گئی۔ یہ لوگ آسمانی کردوں میں کہہ شتمہ مانتے تھے اور سیاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے جن کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، ان قباحتوں کو دیکھا اور پھر ان کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ان آیات میں آپ کی اس کاوش کا ذکر ہے جس کے

ذریعے آپ نے بتوں کی پرستش کے خلاف نہایت حکیمانہ دلائلِ قدرت پیش کیے۔

قیامِ حجت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شرع سے ہی سمجھ عطا فرمائی۔ امام ابن کثیر مِنْ قَبْلُ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مِنْ قَبْلُ صِفْرِهِ اِطْلَاقِ كَيْسِهِ یعنی ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر سن شعور تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ماہر اور محقق تھے۔ آپ نے اپنے والد کو خطاب کر کے واضح الفاظ میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ چونکہ وہ لوگ صابی ملت سے تعلق رکھتے تھے اور عام طور پر ستارہ پرست تھے، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان ستاروں اور سیاروں کو ہی اپنی قوم کے سامنے بطور دلیل پیش کیا آج کی آیات میں ستارہ چاند اور سورج تین چیزوں کا ذکر ہے جن کے مشاہدہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کی الوہیت کی نفی کی ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تینوں مشاہدات ایک ہی دن میں نہیں کیے گئے، بلکہ مختلف مواقع پر ان کا مشاہدہ کرنے اور پھر قوم کو متوجہ کرنے کے بعد آپ نے ان پر دلیل و حجت قائم کی۔ اور اپنے بابِ آذر اور قوم کے دیگر افراد کو سمجھایا کہ بتوں کی پرستش صریح گمراہی ہے کفر اور شرک ہے، لہذا اس سے باز آ جاؤ۔

ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی ہے وَكَذَلِكَ فَرَعْنَا إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھا دی۔ ملکوت، ملک کا مبالغہ ہے، جیسے رحمت سے رحمت اور جبر سے جبروت۔ اور ملکوت کا معنی ہو گا عظیم سلطنت۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ارض و سما کی عظیم سلطنت کا نظام دکھا دیا۔ عجائباتِ قدرت

نشانات
قدرت کا
مشاہدہ

کا انہیں مشاہدہ کرا دیا۔ اس قسم کا طرز کلام سورۃ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کے ضمن میں بھی آیا ہے، پاک ہے وہ (ذات) جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا لَنْبُيْكَ مِنْ اَيْتِنَا تَاكْرَهُمْ اُسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور پھر اصل مشاہدہ کی تصدیق سورۃ نجم میں یوں کی "لَقَدْ رَاى مِنْ اَيْتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى" انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیا۔ اللہ نے آپ کو سمجھا دیا کہ کائنات کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ سورج، چاند اور ستارے اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کا ایک حصہ ہیں۔ اور یہ سب کچھ دکھانے سے مطلوب کیا تھا؟ وَيَكُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر سچمتہ ہو جائے۔ بعض اوقات ایمان لانے کے باوجود مشاہدہ کی خواہش برقرار رہتی ہے، جسکی مثال ابراہیم علیہ السلام ہی کے واقعہ میں ملتی ہے۔ آپ نے پروردگار عالم سے عرض کیا رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَى اے پروردگار! مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا۔ عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں، وَ لَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ تاہم میں مشاہدے کے ذریعے اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چار پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد پھر زندہ کر دینے کا مشاہدہ کرا دیا اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی سلطنت کی نشانیاں دکھا دیں۔ اور ان کی حکمت سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا۔

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا جَب

رات تاریک ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارے پر نگاہ کی جو کہ چمک رہا

تھا۔ اس وقت آپ کسی مجلس میں ہوں گے جہاں قوم کے بہت سے لوگ

ستارے پر
نگاہ

ہوے تھے جن کی دماغ پوجا ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں آنکھ کھولی، ان قباحتوں کو دیکھا اور پھر ان کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ان آیات میں آپ کی اس کاوش کا ذکر ہے جس کے

موجود تھے تو آپ نے اُن کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا قال ہذا رَجَعُ کَمَا یَہُ (شمارہ) میرا رب ہے؟ بعض مفسرین کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے اُن کے مطابق ابراہیم علیہ السلام تحقیق کے منازل طے کرنے کے دوران شکر بھی کرتے ہے، اسی لیے انہوں نے ستارے کو ایک نظر دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ میرا رب ہے اور پھر آخر کار تحقیق کرتے کرتے توحیدِ خالص کا نقطہ پایا۔ مولانا مودودی صاحب کو بھی اسی قسم کا اشتباہ ہوا ہے۔ مگر یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزِ اول سے ہی کامل درجے کے مؤعد تھے۔ انہوں نے کبھی ستارے، چاند، یسورج کو اپنا رب نہیں کہا بلکہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے استفہامیہ طور پر کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ آپ کا مقصد ستارے کو توحید کی دلیل بنانا تھا۔ فَلَمَّا أَفَلَ جَبَّ وَهُ غُرُوبٌ هُوَ كَمَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَیْنَ فرمایا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ تم محض ستارے کی چمک دیکھ کر اسے معبود بناتے ہو حالانکہ یہ تو غروب ہو جانے والی چیز ہے۔ اور جس چیز پر زوال آجائے وہ الہ نہیں ہو سکتی، لہذا میں ستارے کو اپنا رب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معبودِ برحق تو وہ ہستی ہے الَّتِیْ كَمَا كَانَ جَوَازِلٌ مِّنْ جَحَىٰ اور اب بھی ہے اور ابد میں بھی ہوگی۔ ایسی ذات پر کسی قسم کا تغیر نہیں آسکتا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق پر اپنی تجلیات کا نزول کرتا ہے، کبھی وہ نظر آتی ہیں اور کبھی نہیں آتیں، تو اس سے مخلوق میں تو تغیر آتا ہے مگر خود اس ذات باری تعالیٰ میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا اور ابد میں بھی رہیگا۔ وہ چیز الہ نہیں ہو سکتی جو کبھی طلوع ہو اور کبھی غروب ہو، کبھی ایک افق میں ہو اور کبھی دوسرے افق میں، فرمایا میں متغیر ہونے والی شے کو معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔

مبارک ہے الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَاتٌ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ عِزِّى
 سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو عظیم نشانیاں ہیں۔ مگر ان کو الوہیت
 کا درجہ دینا سخت گمراہی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس روز سورج گمراہی
 ہوا، اسی روز حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی جاہلیت
 میں یہ توہم پایا جاتا تھا کہ جس دن سورج یا چاند گمراہی ہو اس دن کوئی بڑا آدمی
 پیدا ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ
 کسوف کسی کے پیدا ہونے یا مرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جب
 چاہتا ہے مخلوق میں تغیر و تبدل کو دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی چیزوں
 میں تغیر و تبدل پیدا کر دیتا ہے تو ان کے مقابلے میں کمزور سے انسان کی کیا حیثیت ہے، بہر حال کسوف کے دن
 اپنے لمبی نماز پڑھی طویل قرارت کی، رکوع اور سجود بہت لمبے کیے اور پھر بڑی لمبی دعا فرمائی۔
 سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جب زمین، سورج اور چاند کے درمیان
 ایک سیدھ میں آجاتی ہے، تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے
 چاند کا اتنا حصہ تاریک ہو جاتا ہے، اُسے چاند گمراہی کہتے ہیں۔ اسی طرح
 جب چاند، سورج اور زمین کے عین درمیان میں آجاتا ہے تو سورج کی روشنی
 زمین کے اتنے حصے تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے اُس حصہ زمین سے
 سورج تاریک نظر آتا ہے، یہ سورج گمراہی ہے۔ کسوف کی تکوینی وجہ کچھ بھی
 ہو یہ بہر حال خدا تعالیٰ کا فعل ہے کہ چاند یا سورج کی روشنی کو موقوف کر دے۔
 حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایسے موقع پر توبہ و استغفار کرو، غلام آزاد کرو۔
 صدقہ خیرات کرو اور اپنی فحشہ کرو، نہ کہ کھیرے لے کر فوط کھینچنا شروع کر دو۔
 اس فعل کو خدا ہی کی طرف منسوب کرو اور مشرکانہ یا مبتدعانہ افعال سے پرہیز کرو۔
 حقیقت میں نیر اعظم یعنی روشنی کا منبع تو سورج ہی ہے جب سورج کی
 روشنی چاند پر پڑتی ہے تو وہ معکوس ہو کر پھر زمین پر پڑتی ہے، اسی لیے
 چاند کی روشنی مدہم ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمر شہد ہے کہ اُس نے

سورج کو بہت زیادہ تابانی عطا کی ہے اور چاند کو کم۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج میں تابانی کے لیے بڑے درجے کا ایندھن جمع کر دیا ہے جو سورج کی پیدائش کے دن سے لیکر جب تک اللہ کو منظور ہے روشنی اور حرارت ہم پہنچاتا ہے گا۔ پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس ایندھن کو ٹھنڈا کر دے گا اور کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے چاند کی دھیمی روشنی میں انسان کے فائدے کی کئی چیزیں رکھی ہیں۔ چاند کے ذریعے اناج میں رس اور پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور پانی پر اس کے خاص اثرات وارد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورج حرارت اور روشنی کا منبع ہے۔ اس کے ذریعے فصلیں بکھتی ہیں اور کئی قسم کے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں

فَرَمَا فَلَمَّا رَأَى الْقَسَمَ بَاذِعًا جَبَّ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ
چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں چاند کے سبب بھی
موجود تھے۔ چاند کے مشاہدہ کے وقت آپ نے ان کو متوجہ کیا قال
هَذَا رَبِّيٌّ اَوْ كَمَا، كَيْفَ يَمِيرُ رَبِّيٌّ؟ فَلَمَّا اَفَلَ بَحْرُ جَبَّ
چاند بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم کے سامنے دوسری دلیل پیش کی۔
قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَآ كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ
اگر میرا پروردگار مجھے راہِ راست پر نہیں رکھے گا، تو میں گمراہ لوگوں میں سے
ہو جاؤں گا۔ اگر اللہ نے میری راہنمائی نہ فرمائی تو جس طرح یہ لوگ چاند میں گمراہ
مان کر شرک ہیں مبتلا ہو چکے ہیں تو میں بھی بہک سکتا ہوں۔ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ
کی مہربانی سے ہی حاصل ہوتی ہے اگر وہ دستگیری نہ فرمائے اور اپنی رحمت
سے نہ نوازے تو کسی کو صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حریتِ
میں آتا ہے، حضور علیہ السلام خطبہ میں پڑھا کرتے تھے مَنْ يُضِلِّهِ
فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے

سکتا۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے دو سو کے دن چاند کا مشاہدہ کر کے اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل پکڑی اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی مشاہدے کا تیسرا دن آیا تو سورج اپنی پوری تابانی کے ساتھ آسمان پر موجود تھا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

فَلَمَّا رَا الشَّمْسُ بَارِزَةً جَبَّ آيُنَا سَوْرَجٍ كَوْجَمَكْتِهٖ هَوْنَةً
وَيَحْيَا قَالَ هَذَا رَجِيٌّ هَذَا الْكَبِيرُ فَرَمَا يَا كَيْفَ مِيرَابِ هَيْءَ؟

یہ تو بڑا ہے مگر سورج بھی تغیر پذیر ہے فَلَمَّا أَفَلَتْ جب وہ بھی غروب ہو گیا قَالَ رَجِيٌّ برائی مِمَّا تَشْتَكُونَ فرمایا، اے لوگو!

ہیں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو مقصد یہ کہ نہ ستارہ الہ ہے، نہ چاند اور نہ ہی سورج جو ان میں سب سے بڑا ہے لہذا

میں ان میں سے کسی کو بھی معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مقصد یہی تھا کہ تم ان کو معبود بنا کر شرک کے مرتکب نہ ہو بلکہ معبود بہ حق وہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ دو سو کے مقام پر فرمایا

”لَا تَسْجُدْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ رَحْمَةً سَجْدَةً“

چاند کی پرستش نہ کرو بلکہ اس اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرو، نہ سب کو پیدا کیا۔

پھر فرمایا اِنِّیْ وَجْهَتُ وَجْهًا لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَشِیْکٌ مِّنْ مَّتَّوَجِبِ
کر لیا اپنے رخ کو اس ذات کی طرف جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یعنی میں تو صرف اسی کو

معبود ماننا ہوں جس نے بغیر نمونے کے زمین و آسمان اور باقی تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ فاطمہ اور بدیعہ

کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو بغیر سابقہ نمونہ اور بغیر کسی آلے کے اپنی صفت اور تجلی سے پیدا فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے

فرمایا کہ میں تمہارے تمام شریکوں سے بیزار ہوں کہ اسی ایک خدا کی طرف کو

آفتاب
ماہتاب

رجوع
الی اللہ

لگاتا ہوں۔ اور اسی کو معبود بہ حق جانتا ہوں حَنِيفًا میں حنیف ہوں، یعنی
 ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک وحدہ لا شریک کی طرف جھکنے والا ہوں
 شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حنیف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا
 ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہی حکم دیا ہے "حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ
 مُشْرِكِينَ بِهٖ (الحج) تم سب حنیف بن جاؤ، ہر طرف سے کٹ کر
 اس ایک کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ فرمایا میں
 حنیف ہوں وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے
 نہیں ہوں۔ میں کسی قسم کا شرک روا نہیں سمجھتا۔ بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے
 ستاروں، چاند اور سورج کو سامنے رکھ کر قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت
 کی دلیل پیش کی۔ تغیر و تبدل کو علت بنایا کہ جس میں یہ چیز پائی جائے وہ
 معبود نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اپنا عقیدہ قوم کے سامنے واضح کر دیا اب
 اگلی آیت میں قوم کے بحث مباحثے اور جھگڑے کا تذکرہ آئیگا۔

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ ط قَالَ اتَّخَذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِين ط
 وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ط
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۸۰﴾
 وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ
 أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ط
 فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
 أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾

رفتند اور
 ہدایت

ترجمہ :- اور جھگڑا کیا ان (ابراہیم علیہ السلام) سے ان کی
 قوم نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو
 میرے ساتھ اللہ کے بائے میں اور بیشک اُس (اللہ)
 نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اور میں نہیں خوف کھاتا ان چیزوں
 سے جن کو تم اُس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ
 کہ میرا رب جو چاہے (وہ ہی ہوتا ہے) میرے رب کا علم
 ہر چیز پر وسیع ہے، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ﴿۸۰﴾ اور
 میں کیسے خوف کھاؤں گا ان چیزوں سے جن کو تم شریک
 بناتے ہو اور تم خوف نہیں کھاتے کہ تم شریک بناتے ہو
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو جن کے بائے میں —

اُس نے تمہارے اُوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی پس دونوں فریقوں
میں کون زیادہ مستحق ہے امن کا، اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (۸۱)
وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمانوں
کو ظلم (شُرک) کے ساتھ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہو
گا اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے (۸۲)

ربط آیات

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی تردید کے سلسلے میں اپنے والد اور قوم
کے سامنے ستائے، چاند اور سورج کے تغیر و تبدل کو بطور دلیل پیش کیا، اور فرمایا غائب
ہو جانے والی چیزیں اللہ نہیں بن سکتیں لہذا میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں معبود
تو وہ ہو سکتا ہے جو ازلی، ابدی، قائم اور دائم ہو اور وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے
جن چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تو مخلوق ہیں، ان کو زوال آتا ہے۔ مگر تم ان کو معبود
مشکل کشا اور حاجت روا مان کر۔ شرک کا ارتکاب کرتے ہو، میں اس معاملہ میں
تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا میں نے تو اپنا رُخ یعنی جسم و جان اُس مالک الملک کی طرف
پھیر لیا ہے جو زمین و آسمان کا فاطر ہے، اُس نے تمام کائنات کو بغیر نمونے کے پیدا
کیا ہے۔ میں حنیف یعنی ہر طرف سے ہٹ کر صرف اُسی ایک خدا کی طرف رجوع کرنے
والا ہوں۔ میں تو اُس کی وحدانیت کا پرستار ہوں۔ میں شرک گرنیوالوں میں سے نہیں ہوں۔
جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کے سامنے شرک کی تردید اور اللہ تعالیٰ
کی وحدانیت کے حق میں دلیل پیش کی تو وہ لوگ دلیل کا جواب دلیل تو نہ دے سکے
بلکہ وَحَاجَّهٖ قَوْمُہٗ آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔
اس جھگڑے کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں مثلاً جب ابراہیم علیہ السلام کسی
راستے سے گزرتے تھے تو مشرکین آپ کی طرف اشارے کرتے تھے اور کہتے تھے
اٰھذا الَّذِیْ یَذِکُرُ الْاِلٰھَکُمْ (سورۃ الانبیاء) کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے
معبودوں پر نکتہ چینی کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ تمہاری مشکلات کو حل نہیں کر سکتے کوئی

معبودان باطلہ
کے متعلق جھگڑا

ہے۔ ہو وعلیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے شکر کا اسے بیزار ہوں۔ اب تم جو تدبیر کرنا چاہو کہ کوئی شکر لَّا تُنْظِرُونَ (ہو) پھر بیشک مجھے مہلت بھی نہ دو۔

ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے ان معبودوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہوں جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اَلَا اِنْ يَشَاءُ رَبِّي شَيْئًا اَخْتَارُ اور تصرف میرے رب کے پاس ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے، جو وہ چاہے۔ وہی عطا کرتا اور وہی واپس لینے پر قادر ہے وہی تکلیف پہنچاتا اور وہی دور کرتا ہے وَ سِعَ رِجْتُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيَّ مِثْرًا اور رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ وہ علم کل اور عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ اس کے احاطہ سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ باختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے۔ پھر مجھے بے یار و مددگار معبودوں سے ڈراتے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا وَ كَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ میں کس طرح خوف کھاؤں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ڈرتو تمہیں آنا چاہیے، مگر وَلَا تَخَافُوْنَ اَنْتُمْ اَشْرِكْتُمْ بِاللّٰهِ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو ایسی چیزوں کو مَا لَكُمْ بِسُؤَالٍ بِهِ عَلَيَّكُمْ سُلْطٰنًا جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تم نے محض اپنی خواہشات نفسانیہ، رسم و رواج اور بے وقوفی کی وجہ سے ان کو خدا تعالیٰ کی صفت الوہیت میں شریک کر لیا ہے لہذا خوف تو تمہیں کھانا چاہیے۔ جنہوں نے احکم الحاکمین، قادر مطلق اور متصرف فی الامور خدا تعالیٰ سے ٹکر لے رکھی ہے یاد رکھو اس جرم عظیم کی پاداش میں تم پر ضرور گرفت آئیگی جس سے بچ نہیں سکو گے

فرمایا فَاَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ دونوں فریقوں میں
 سے کونسا فریق امن یعنی نجات کا زیادہ مستحق ہے؟ ایک فرقہ ہمارا ہے جو
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے اور شرک سے بیزار ہے۔ اور دوسرا فرقہ
 وہ ہے جس نے بے شمار معبود بنا رکھے ہیں، انہیں خدا تعالیٰ کی صفات میں
 شریک کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے نام
 کی دہائی دیتے ہیں، ان کو نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ مصیبت کے وقت
 انہیں پکارتے ہیں۔ تو بتاؤ ان دونوں فرقوں میں سے اللہ کی ابدی رحمت
 کا کون مستحق ہے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں کچھ علم اور سمجھ ہے
 تو خود ہی فیصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کون زیادہ حقدار ہے؟
 پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا، کہ امن کے حق دار وہ لوگ ہیں الَّذِينَ
 اٰمَنُوا جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
 اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
 الْاَمْنُ امن ایسے ہی لوگوں کو حاصل ہوگا، وہی زیادہ حق دار ہیں۔
 اس آیت میں مذکور ظلم کا مفہوم سمجھنے میں صحابہ کرامؓ کو کسی قدر شبہ
 واقع ہوا، چنانچہ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن
 مسعودؓ سے مروی ہے کہ صحابہؓ کو خیال ہوا کہ ظلم سے مراد عام کوتاہی ہے
 تو انہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرض کیا اَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ
 نَفْسًا ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس سے ظلم یعنی چھوٹی چھوٹی
 خطانہ سرزد ہوئی ہو، اگر ہر چھوٹے بڑے گناہ پر گرفت ہوگئی تو پھر ہماری نجات
 تو محال ہو جائیگی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ لفظ ظلم کا اطلاق
 ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی سے لے کر بڑے سے بڑے گناہ پر ہوتا ہے یعنی
 لحاظ سے اس کا معنی ہے وضع الشی فی غیر محلہ یعنی کسی
 چیز کا اپنے اصل مقام کی بجائے دوسرے مقام پر رکھ دینا مثلاً مسجد میں داخل

ہوتے وقت اگر دائیاں پاؤں پہلے داخل کرنے کی بجائے بائیاں پاؤں
داخل کر دیا تو یہ بھی ظلم کی تعریف میں آگیا۔ اور بڑے سے بڑا ظلم شرک اور کفر
ہے، جیسا کہ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
بِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ أَلَّا نَسْتَعِينُكَ يَا رَبَّنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَظْمٌ
عَظِيمٌ (سورۃ لقمان) بیشک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضور علیہ السلام
نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے چھوٹا موٹا گناہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے
شرک مراد ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نجات اور امن ان لوگوں کا
حق ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا۔ اور
جن لوگوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو ملا لیا، ان کا عقیدہ خراب
ہو گیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون واضح ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"
یعنی اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے
بغیر توبہ کے معاف فرمائے، اسے مکمل اختیار حاصل ہے، مگر شرک کو معاف
نہیں فرمائے گا۔ تو آیت کا مطلب یہ نکلا کہ نجات ایسے ایمانداروں کا حق ہے
جو شرک سے بچتے ہیں۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور یہی ہدایت یافتہ
لوگ ہیں۔

مشابہ آیات
کی تفسیر

قرآن پاک میں اور بھی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے سمجھنے میں صحابہ کرامؓ
کو اشکال پیدا ہوا۔ مثلاً سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں آئی ہے "وَإِنْ
تَدْرُؤْا مَا فِي الْقُسُفِ أَوْ تَخْفَوْا بِمَا سَبَّحُوا بِه
اللَّهُ فَعَلَىٰ نَفْسِكُمْ ظَهِرٌ مِّمَّا تَبْجُؤا، اللہ تعالیٰ اس کا ضرور
حساب لے گا۔ یہ آیت صحابہ کرامؓ پر بڑی دشوار گزری۔ انہوں نے خفوا
سے ہر وہ خیال اور سوچ مراد لیا جو کسی انسان کے دل میں آتا رہتا ہے اور
جسے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ صحابہؓ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر ہر سو

پر بھی مواخذہ ہوا تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکیگا۔ آپ نے فرمایا ایسا خیال نہ کرو، بلکہ
 ”وَعَفْرَانِكَ رَبِّكَ“ کے ہمارے پورے دگار! ہم تجھ سے معافی طلب
 کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمائی ”لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا رَّحْلًا وَّسَعَهَا“ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے
 زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دل میں وسوسوں کا آنا غیر اختیاری امر ہے، یہ کسی
 شخص کی طاقت میں داخل نہیں، لہذا اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

اسی طرح اختتامِ سحری کے متعلق حضرت عدی بن حاتم کو اشتباہ پیدا
 ہو گیا تھا۔ سورۃ بقرہ میں اختتامِ سحری کی نشانی اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرمائی ہے
 ”حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ“ یہاں تک کہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ یعنی اس
 وقت تک روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہو۔ حضرت عدیؓ نے
 دھاگے سے مراد عام دھاگا لیا اور صبح صادق کے اقیانوس کے لیے اُسے
 اپنے پاس سر ہانے کے نیچے رکھ لیا۔ جب اس بات کا ذکر حضور علیہ السلام
 سے کیا، تو آپ نے فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ جس میں تم نے دن
 اور رات کو لپیٹ کر رکھ لیا ہے۔ فرمایا سیاہ اور سفید دھاگے سے رات
 اور دن مراد ہیں۔ اس پر اللہ نے ان الفاظ کے بعد ”مِنَ الْفَجْرِ“ کے
 الفاظ نازل کر دیے، جس سے واضح ہو گیا کہ طلوعِ فجر تک سحری کھاپی سکتے ہیں۔
 اس آیت کی تفسیر میں مندا احمد کی ایک لمبی حدیث بھی آتی ہے۔
 جو حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک
 دفعہ ہم حضور علیہ السلام کے ہمراہ کسی کام سے مدینہ سے باہر نکلے۔ حضورؐ می
 دُور گئے تھے کہ ایک سوار کو دیکھا جو اپنی سواری کو دوڑاتا ہوا ہماری طرف
 آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”يَا كَوْمِيْدُ
 یعنی یہ سوار تمہارے پاس ہی آنا چاہتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس نے

سلام کیا، ہم نے جواب دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا مَنْ
 اَيْنَ اَقْبَلْتِ تَمَّ كَمَا مِنْ اَهْلِيْ وَوَلَدِيْ
 وَعَشِيْرَتِيْ اِنِّيْ سِجِّيْ اَهْلِيْ وَوَلَدِيْ
 حضور علیہ السلام نے دریافت کیا اَيْنَ تَسْرِيْدُ كَمَا مِنْ كَاخِيَالِ هِيَ
 تُوُوهُ شَخْصٌ كَنْنِيْ لَكَا اُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِيْنَ تُوُو اللّٰهِ كِي رَسُوْلٍ كِي خِدْمَتِ مِيْنَ حَاضِرِ هُوْنِيْ كِي لِيْ اَيَا هُوْنِيْ۔ اَب
 عَلَيْهِ السَّلَامُ نِيْ قَرِيْبًا قَدْ اَصْبَحْتَهُ اُسْ تَمَّ بِهِنِيْ كُنِّيْ هُو۔ پھر اُس
 شَخْصٌ نِيْ عَرْضِ كِي، حَضُوْرِيْ عَلِيْمِيْ مَا لِيْ كِيْمَانِ يَعْنِيْ اِيْمَانِ كِي اَي
 مَحْمِيْ سَكَا دِيْ كِي۔ اَب نِيْ فَرِيَا، اِيْمَانِ يِهْ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تُوُو لِيْ كِي كِهْرَانِيْ
 سِيْ كُو اِيْ دِيْ كِي اللّٰهِ كِي سُوَا كُو اِيْ مَعْبُوْدِيْ نِيْ اُوْر مَحْمُوْدِيْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ
 كِي رَسُوْلٍ هِيْ اُوْر مَحْمُوْدِيْ ظَاهِرِيْ اِحْكَامِ مِيْنَ تَقِيْمِ الصَّلَاةِ نَمَازِ قَامِ
 كِي وَتُوُوِيْ الزَّكَاةِ مَالِ هِيْ تُوُو سَالَاةِ زَكَاةِ اُوَا كِي۔ تَصُوْمِ رَمَضَانَ
 مَاهِ رَمَضَانَ كِي رُوَزِيْ رَكْبُو۔ تَحُجُّ اَلْبَيْتِ اَكْرَا سَطَاعَتِ هِي
 تُوُو بِيْتِ اللّٰهِ كَا حُجُّ كِي۔

جب حضور علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں تو وہ شخص کہنے لگا قَدْ
 اَقْرَبْتِ مِيْنَ نِيْ مَانِ لِيَا۔ اَب كِي اَرشَادَاتِ پَر اِسِيْ طَرَحِ عَمَلِ كِي
 گَا۔ پھر جب واپس ہوا تو اس کے اونٹ کا پاؤں جنگلی چوہے کی بل میں
 پھنس گیا، جس سے اونٹ گر پڑا۔ ساتھ ہی وہ شخص بھی سر کے بل زمین
 پر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اُسے جلدی اٹھا کر
 لے آؤ۔ عمارؓ اور حذیفہؓ دوڑے، جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ
 اُس کی روح پرواز کر چکی تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا
 قَدْ قَبِضَ الرَّحْبَلُ يِهْ اُدْمِيْ تُوُو اللّٰهُ كُو پَارِيْ اُوُو چُكَا هِيْ حَضُوْرِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وہاں سے ذرا ہٹ گئے، پھر عمارؓ اور خدیجہؓ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں وہاں سے کیوں ہٹ گیا تھا؟ پھر خود ہی فرمایا، میں نے دیکھا کہ دو فرشتے جنت کے پھل اس شخص کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ اس شخص کی موت بھوک کی حالت میں واقع ہوئی ہے دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو اس نے یہ بھی کہا راستے میں مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی لہذا میں درختوں کے پتوں اور گھاس پھونس پر گزارہ کرتا رہا ہوں۔

الغرض! اس واقعہ کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، دیکھو! هَذَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا نُهُوا عَنْهُ بِظُلْمٍ يَهْدِيهِمْ يَخْلَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنبَتَ الْوَعْرَاءُ لَئِن لَّمْ يَظْهَرُوا لَهُمْ لَآئِنٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ لَأَنجَبُوا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اس نے اپنے ایمان کو شرک کی نجاست سے پاک رکھا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہی آیت تلاوت فرمائی۔

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو اٹھا لو، پھر اس کو غسل دیا گیا، خوشبو لگائی گئی، کفن پہنایا گیا، اس کی قبر کھودنے لگے تو آب وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا الْحَدُّ وَاللَّهُ اس کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کرو هَذَا الْحَدُّ لَنَا كَمَا كُنَّا لِحَدِّ هَؤُلَاءِ يَلْبَسُونَ وَالشَّقِيقَ لِنَفْسَيْنَا اور دو سکر لوگوں کے لیے دو لحدیں کھلی قبر ہے تاہم ہمارے لیے کھلی یعنی صندوق نما قبر بھی جائز ہے مگر لحد یا بغلی قبر بہتر ہے۔ دینے کی زمین قدرے سخت ہے اور وہاں لحد آسانی سے بن جاتی ہے۔

آپ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا هَذَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَلِيلًا وَأَجَبُوا كَثِيرًا یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے، جنہوں نے عمل تو مختصر کیا مگر اجر بہت زیادہ پاگئے۔ ظاہر

ہے کہ اُس شخص نے ابھی تک نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ حج کیا اور نہ زکوٰۃ ادا کی۔ ایمان لانے کے متصل ہی اُس کو حادثہ پیش آگیا اور وہ فوت ہو گیا۔ بہر حال وہ صحیح اور مشرک سے پاک ایمان لے کر گیا اور اُسے ایک طرح کی شہادت کا درجہ بھی مل گیا، کیونکہ جو مومن کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ ایک درجے میں شہید ہوتا ہے۔ بہر حال امام ابن کثیر نے مسند احمد کی یہ روایت بیان کر کے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ ایمان کی حفاظت کریں گے، اُسے مشرک میں ملوث نہیں کریں گے، اُن کی کامیابی انشاء اللہ یقینی ہے، انہیں امن نصیب ہو گا۔ اس کے برخلاف مشرک میں ملوث اور اعتقاد ہی منافق پکڑے جائیں گے۔

واذا سمعوا

الانعام ۶

درست بیت و چہار ۲۴

آیت ۸۳ تا ۸۶

وَتِلْكَ مِجْنَاتُ ابْنِهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَزَعُوْا
 دَرَجٰتٍ مِّنْ نَّشَاؤِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۸۳﴾
 وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْمٰحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا ج
 وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَ
 سُلَيْمٰنَ وَيُوْبَ وَ يُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ
 وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۸۴﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَ
 عِيْسٰى وَإِلْيَاسَ كُلًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَاسْمٰعِيْلَ
 وَآلِيْسَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا وَكُلًّا فَضَلْنَا عَلٰى
 الْعٰلَمِيْنَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ:- اور یہ ایک ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام)

کو اُن کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے

جس کے چاہیں۔ بیشک تیرا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا

ہے ﴿۸۳﴾ اور ہم نے بنجنا اُس (ابراہیم علیہ السلام) کو اسحاق (جیسا بیٹا)

اور یعقوب (جیسا پوتا) سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اور نوح (علیہ السلام)

کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے اور اُس کی اولاد میں سے

حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون (علیہم السلام) کو۔ اور ہم اسی

طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۸۴﴾ اور زکریا اور یحییٰ

اور عیسیٰ اور الیاس (علیہم السلام) کو یہ سب نیکو کاروں میں سے تھے ﴿۸۵﴾

اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط (علیہم السلام) کو۔ اور سب

کو ہم نے فضیلت بخشی تمام جان والوں پر (۸۶)

بط آیت

اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کیونکہ آپ کی کلڈانی اور بابلی پوری قوم مشرک تھی۔ آپ کے والد آزر خود بت تراش اور بت پرست تھے۔ آپ نے اپنے والد اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سامنے ستارے چاند اور سورج کی دلیل بھی پیش کی۔ باری باری ان تینوں کے متعلق فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے مگر جب وہ ڈوب گئے تو آپ نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ اور فرمایا، اے میری قوم! جن چیزوں کو زوال آجائے یا جن میں تغیر و تبدل واقع ہو، وہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتیں، چاند، سورج اور ستارے طلوع ہوتے ہیں۔ پھر غروب ہو جاتے ہیں تو میں ایسی چیزوں کو الہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں معبود وہ ذات ہو سکتی ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہ ہو اور جس کو کبھی زوال نہ آئے اور وہ ذات صرف خدا تعالیٰ کی ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس کو کبھی زوال نہیں۔ پھر قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، تو آپ نے ان کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ تم میرے ساتھ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ خداوند تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے اور میں تمہارے معبودوں سے خوف نہیں کھاتا۔ حق پر کون ہے اور ابدی نجات کس کو حاصل ہوگی اس کا علم تمہیں قیامت کو ہوگا مگر یاد رکھو کہ امن کا مستحق وہ ہے جو سچے دل سے ایمان لایا اور پھر اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا، تم سب شرک میں مبتلا رہے تمہیں کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔

سنی درجہ

گذشتہ سے پوسٹہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتداء سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا تھا چنانچہ انہوں نے شرک کے خلاف وہ واضح دلیل پیش کی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، مگر مشرکین آپ

کی بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہ ہونے بلکہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے۔
 تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی دلیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

یہی ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کے مقابلے میں
 دی مگر مشرک قوم نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ پھر فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید
 پرستی اور شرک کی تردید کی وجہ سے بلند درجہ عطا فرمایا اور ہمارا قانون یہ ہے
 کہ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ہم جس کو چاہیں درجات

بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی صلاحیت، استعداد، ظاہر و باطن اور
 قلبی حالت سے واقف ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق جس کو اس قابل

سمجھتا ہے۔ اُس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام
 پر اللہ تعالیٰ نے خاص مہربانی فرمائی اور ان کے درجات بلند کر دیے۔
 ابراہیم علیہ السلام کی بلندی درجات کئی وجوہات سے ہوئی۔ انہوں نے

قوم کے سامنے علی الاعلان شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور کہا اِنِّی
 وَجَّهْتُ وَجْهَی لِذِی فَطْرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فِیْہِ اِیْنِ

رُحِّ، توبہ اور حسم و جان اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا
 موجد اور انہیں عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ حَنِیْفًا وَّمَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ میں ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کی طرف
 لگنے والا ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ آپ کی فقہ کی بلندی اور

عقیدے کی پختگی تھی جو آپ کے رفع درجات کا سبب بنی۔ فرشتوں کے
 درجات بھی اسی سبب سے بلند ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو

مانتے ہیں، اُس کا ذکر اور عبادت کرتے ہیں انبیاء بھی توحید باری تعالیٰ
 کے امام اور مبلغ ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرما

دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابوالانبیاء ہیں آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ

نے ہزاروں نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ عقیدے کی پاکیزگی کیساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حسن اخلاق، عبادت میں انہماک اور مخلوقِ خدا سے کمالِ رحمت کی بہرہ دہی بھی عطا کر رکھی تھی، لہذا یہ اوصاف بھی آپ کی بلندی درجات کا سبب بنے۔

فرمایا اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ تیرا رب

حکیم ہے، اُس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ علیم بھی ہے، اُس کو ذرے ذرے کا علم ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بہر حال مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب تو نہ دے سکے، مگر وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ دوسری سورتوں سے معلوم ہوتا ہے دلائل سے ناکامی کے بعد انہوں نے کئی قسم کی اذیتیں پہنچائیں حتیٰ کہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے۔ مگر اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی، دشمن آپ کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے حتیٰ کہ ان کی طرف سے آپ کو زندہ جلا ڈالنے کا منصوبہ بھی بُری طرح ناکام ہو گیا اور بالآخر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا۔

اللہ تعالیٰ جس انسان پر بہت بڑا احسان کرتا ہے اُسے منصبِ نبوت سے نوازتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جلیل القدر پیغمبر بنایا اور پھر دوسرا بڑا احسان یہ کہ آپ کی نسل سے ہزاروں انبیاء و رسل مبعوث فرمایا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا عظیم فرزند اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام

ابراہیم علیہ السلام
پر احسانات

کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے تفسیری روایات کے مطابق آپ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے چار ہزار نبی پیدا فرمائے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بعد میں حالانکہ اسماعیل علیہ السلام عمر میں بڑے ہیں مفسرین کرام اس کی دو وجوہات بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک آپ کی والدہ حضرت سارہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو برس تھی اور کم از کم بیس اسی ہی حضرت سارہ کی تھی۔ اس عمر میں بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور انعام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ کو یعقوب علیہ السلام کو پوتا عطا کیا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ۷۵ سال عمر پائی۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں غیر معمولی طور پر پیش آئیں، اس لیے اسحاق علیہ السلام کا ذکر پہلے کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ اور آپ کو دوسری فوقیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ آپ آزاد عورت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے جب کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے جن کو لونڈی کے طور پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو دیا تھا۔ اگرچہ حضرت ہاجرہ فی الواقعہ لونڈی نہیں تھیں مگر مصر میں وہ لونڈی کی حیثیت سے وقت گزار رہی تھیں۔ بہر حال حضرت اسماعیل علیہ السلام اگرچہ اسحاق علیہ السلام سے چودہ سال بڑے ہیں۔ تاہم مذکورہ بالا دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پہلے فرمایا ہے۔ كَلَّا هَدَيْنَا سَبَّحًا بِمَا كَفَرْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ۔

اولاد نوح
و ابراہیم علیہ السلام

اگے احسان ہی کے تسلسل میں فرمایا و نوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے حضرت نوح کا ذکر فرمایا ہے جب کہ دونوں انبیاء کے درمیان بڑا طویل زمانہ حائل ہے۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَالْيُوسُفَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ اور آپ کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو ہدایت عطا کی یہاں پر ذریتہ میں ہ کی ضمیر کو اگر نوح علیہ السلام کی طرف لٹایا جائے تو بھی درست ہے کیونکہ فی الواقع حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، اس لیے باقی سارے مذکورہ انبیاء بھی انہی کی اولاد میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہ کی ضمیر کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لٹایا جائے تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ حضرات داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہر حال ان انبیاء میں سے کچھ تو براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے۔

یہاں پر مذکورہ کل اٹھارہ انبیاء نے کرام میں سے چودہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور باقی چار آپ کی نسل سے نہیں بلکہ براہ راست حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں جو کہ موجودہ پوری نسل انسانی کے باپ ہیں حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لہذا آپ کی اولاد میں سے نہیں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یسوع علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے نہیں ہیں۔ اور خود حضرت نوح علیہ السلام تو سب کے بزرگ تھے، لہذا آپ بھی اولاد ابراہیم سے خارج ہیں۔ باقی سب انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں فرمایا وَكَذَلِكَ بَخْتَنِي الْمُحْسِنِينَ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے لہذا انہوں نے بہتر بدلہ پایا۔

پھر فرمایا وَذَكَرْنَا وَيْحِي وَعِيسَىٰ وَآلِيَّاسَ اور ہم نے
 حضرات زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہدایت سے نوازا۔ كُلُّ
مَنْتَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیکو کاروں میں سے تھے
 صلاحیت اور نیکی والے لوگ تھے۔ صالح اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے
 حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے۔ یہ سب نبی الیہ
 ہی تھے۔ گے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ یعنی
 حضرات اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ
 نے ان کو بھی ہدایت دی۔ بہر حال یہ ابراہیم علیہ السلام پر ہونے والے احسان
 کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے کتنے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا۔
 ان آیات میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر مختلف گروہوں کی صورت میں ہوا
 ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ گروہ انبیاء کی بعض مشترک خصوصیات کی
 بنا پر معرض وجود میں آتے ہیں۔ مثلاً حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس
 علیہ السلام کا تعلق ابتلا کے گروہ سے ہے۔ دونوں پر سخت آزمائش آئی
 حضرت ایوب علیہ السلام لمبی بیماری میں مبتلا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی
 کے پیٹ میں چلے گئے۔ بعض انبیاء، ایسے ہیں جن پر ابتلا اور خوشحالی والے
 دونوں دور آئے۔ جیسے یوسف علیہ السلام ہیں کہ غلام بھی بنے اور تخت شاہی
 پر بھی بیٹھے۔ اسی طرح حضرات داؤد اور سلیمان علیہما السلام حکومت کے لحاظ سے
 مشترک اقدار کے حامل ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت
 ملنے کی وجہ سے اس گروہ میں بھی شامل ہیں۔ بعض انبیاء کو عظیم معجزات
 عطا ہوئے، ان میں حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور
 بعض پیغمبر ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا کوئی پروکار نہیں بنا جیسے لوط علیہ السلام
 آپ اللہ کے عظیم رسول ہیں مگر قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ جب
 ہجرت پر نکلے تو صرف بیٹیاں ساتھ تھیں۔ بیوی بھی پیچھے رہ گئی تھی۔ اور

انبیاء علیہم السلام
 کے گروہ

بعض انبیاء و عبادت و ریاضت میں بہت بڑھے ہوئے تھے جیسے حضرت
الیاس، زکریا یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام۔

عطا فضیلت

ان اٹھارہ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَكَلَّا فَضَّلْنَا عَلَي
الْعَالَمِينَ ان سب کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ یہ دوسرا بڑا
احسان ہے۔ انہیں نبی بنایا، ہدایت دی اور پھر اپنے اپنے زمانے میں تمام
انبیاء باقی لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت
عطا کی اور بعض کو حکومت اور سلطنت بھی دی۔ یہ بھی فضیلت کی بات
ہے۔ اور آخرت میں تو اس فضیلت کا بہت بہتر ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ
وہاں بھی علی قدر المراتب، اعمال اور ابتلا کی وجہ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں
گے۔ بنیادی طور پر تو اللہ کے سارے ہی نبی عابد، زاہد اور کامل ہوتے ہیں۔
پھر بھی بعض کو حالات کی بنا پر بعض پر فوقیت حاصل ہے جیسے فرمایا
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (البقرة) یہ رسول
ہیں اہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بہر حال یہاں حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے مشرکین کے سامنے دلیل پیش کرنے کے سلسلے میں
ان کی اپنی فضیلت کا ذکر ہوا۔ اور آپ پر احسانات کے ضمن میں آپ کی
اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام
کی طرح ان سب پر اپنا احسان فرمایا۔ ان انبیاء کا ذکر کرنے کے قرآن پاک کے
اولین مخاطبین کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام
کا بھی وہی مشن ہے جو تمام سابقہ انبیاء کا تھا، لہذا انہیں ان کی بات کو سبزوتم
تسلیم کر لینا چاہیے۔

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
 وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۷﴾ ذَلِكَ هُدَى
 اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا
 لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِهَا هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۚ فَكَذَّبُوا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا
 أَدْبَانُ بَشَرٍ لِيُتْرَكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ هَادِي السَّبِيلِ ﴿۸۹﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ
 افْتَدَاهُ قُلُوبَهُمْ لَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا ۚ إِنَّ هُوَ الْغَنِيُّ
 ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

ترجمہ :- اور ان کے آباؤ اجداد میں سے اور ان کی اولادوں

اور بھائیوں میں سے ہم نے انہیں منتخب کیا اور ان کو سیدھے

راستے کی ہدایت دی ﴿۸۷﴾ یہی ہے اللہ کی ہدایت، وہ ہدایت دیتا

ہے اس کے ساتھ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور

اگر یہ بھی شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتے ان کے وہ

کام جو وہ کیا کرتے تھے ﴿۸۸﴾ یہی لوگ ہیں جن کو دی ہے

ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت، پس اگر کفر کریں اس کے

ساتھ وہ (مکے والے) پس بیشک مقرر کیا ہے ہم نے

اُس کے ساتھ اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ کفر کرنے والے
 نہیں ہیں (۸۹) یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی
 ہے، پس تو بھی ان کی ہدایت کے راستے پر چل -
 اے پیغمبر! آپ کہ دیجئے، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی
 بدلہ، نہیں ہے یہ مگر نصیحت سب جہان والوں کیلئے (۹۰)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُس دلیل کا ذکر ہو چکا ہے جو انہوں نے توحید
 باری تعالیٰ کے حق میں اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ پھر اللہ نے بطور احسان فرمایا
 کہ یہ دلیل ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو سمجھائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور
 آپ کی اولاد پر کیے گئے احسانات کا ذکر بھی کیا، آپ کو جلیل القدر اور عالی مرتبت
 بیٹے عطا کئے جن کی نسل سے ہزاروں انبیاء مبعوث ہوئے۔ اولاد کا نجیب ہونا
 باعث شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد حضرت نوح
 علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ موجودہ بنی نوع انسان آپ ہی کی اولاد ہے۔ طوفانِ نوح
 میں تمام کافر مشرک ہلاک ہو گئے تھے اور پھر آگے نسلِ انسان آپ کے تین بیٹوں عام
 سام اور یافت کے واسطے سے ہی چلی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت اور رشد و ہدایت آپ ہی کی
 نسل میں قائم ہوا۔ آپ کی اولاد سے اللہ نے بڑے عالیشان رسول اور حضرت
 داؤد اور سلیمان علیہما السلام جیسے خلیفۃ اللہ پیدا فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور
 یوسف علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ
 کو عظیم معجزات عطا کئے۔ یہ سب انبیاء اور رسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں
 سے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے ان بندوں کی نیکی اور ان کے اچھے انجام کا ذکر کیا جنہوں نے
 ذکر کیا، سچائی، الیاس اور عیسیٰ علیہم السلام جیسے عبادت گزاروں اور زاہدوں کا ذکر کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جن کی اولاد سے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

پیدا ہوئے۔ دنیا میں عزت و شرف پانے والی قوم قریش آپ ہی کی نسل سے ہے۔ اللہ نے حضرات ایسع، یونس اور لوط علیہم السلام کا ذکر بھی کیا جن کی قوموں نے ان کی دعوت کا کوئی جواب نہ دیا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کر کے اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا ہے۔

متعلقین انبیاء
کا انتخاب

اب آج کے درس میں ان انبیاء علیہم السلام کے متعلقین کا تذکرہ ہو رہا۔ اور ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِمْ اور ان مذکورہ انبیاء کے آباء و اجداد میں سے بعض کو بزرگی عطا فرمائی۔ یہاں پر مِنْ تبعضیہ ہے، یعنی سائے کے سائے آباء و اجداد کو نہیں بلکہ ان میں سے بعض کو شرف عطا فرمایا، ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ان کو ہدایت بخشی۔ البتہ بعض انبیاء کے آباء و اجداد کافر اور مشرک بھی ہوئے ہیں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا تذکرہ گذشتہ رسوخ میں ہو چکا ہے کہ وہ سخت قسم کے بت پرست تھے آگے فرمایا وَدَرَسْتَهُمْ اور ان انبیاء کی اولادوں میں سے بھی بعض کو اعلیٰ درجات عطا کیے۔ ایمان کی دولت نصیب کی اور بعض کو نبوت سے نوازا، تاہم بعض کفر، شرک اور معصیت میں بھی مبتلا ہے۔ پھر فرمایا وَإِخْوَانِهِمْ اور ان انبیاء کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت عطا کی اور ان کے درجات بلند کیے۔ بہر حال مجموعی طور پر انبیاء اور ان کے متعلقین کے بارے میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں سے باخبر تھا اس لیے ان کو پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی تقویٰ اور ایمان کو پسند فرمایا اور سب کو عزت و شرف سے نوازا۔ اس دنیا میں بھی ان کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اعلیٰ درجات کا وعدہ فرمایا، ان کے انتخاب سے یہی مراد ہے۔

قرمایا انبیاء علیہم السلام اور ان کے متعلقین کو منتخب فرمایا

صلوٰۃ مستقیمہ
کی طرف رہنمائی

وَهَدِيَهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ان کی صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی بھی فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کسی خاص کام کے لیے منتخب کرنا ہے، پھر اس کی راہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے، تمام انبیاء ہی کہتے ہیں "نَحْنُ لَكَ مُسْلِمُونَ" (البقرہ) ہم صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں اور اسی کی وحدانیت کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں "لَعِبُدُ الْإِلَهَاءِ وَاحِدًا" ہم صرف ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے۔ فرمایا ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ رِجَالًا وَمَالًا يُهْدِيهِ لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، ہر شخص کی نیت، ارادے، صلاحیت اور باطنی عزائم کے مطابق اس کو ہدایت دیتا ہے، جن لوگوں کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں انہیں اس ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔

شک سے
اعمال کا ضیاع

ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شرک کی تردید کے ضمن میں ہی بیان ہوا تھا۔ اب اٹھارہ انبیاء کا ذکر کرنے اور ان پر کئے گئے احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد شرک کی قباحت کو یوں بیان فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَآبَدُكَ اللَّهُ کے منتخب بندے اور پیغمبر بھی شرک کا ارتکاب کرتے لِحَبِطِ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو ان کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جاتے شرک اتنی بری چیز ہے کہ بالفرض اگر اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اس میں ملوث ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے تمام کیے دھرے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے۔
 "وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
 لَئِنْ أَشْرَكَكَ لَيَجْطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ"

آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی کہ اگر بالفرض آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں یا سابقہ نبی شرک کا ارتکاب کرتے تو سر کے اعمال ضائع ہو جاتے۔

معلوم ہوا کہ شرک بہت ہی قبیح چیز ہے۔ سو سال کی عبادت ایک لمحہ میں غرق ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر معافی مانگ لے تو بات بن جائیگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ قَبْلَ الْمَوْتِ موت سے پہلے پہلے توبہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر شرک سے باز نہیں آئیگا تو کسی نیچی کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سب اکارت جائیں گی سورۃ رعد میں آتا ہے کہ لوگ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آئیں گے۔ مگر جب کفر شرک سامنے آئے گا تو وہ پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے جسے ہوا میں رکھنا جاتی ہے۔ ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ نیچی کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی لازمی ہے۔ نجات اس شخص کے لیے ہے وَمَنْ يَكْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ (الشما) جو نیک اعمال انجام دے گا بشرطیکہ اس کا ایمان صحیح ہو۔ ایمان کی درستگی اللہ کی وحدانیت اور شرک سے بیزاری کے ذریعے ہوتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم کے بتائے اعلان کیا اَنَا بَرَاءٌ وَا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (ممتحنہ) میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہ بھی کہا اَفِ لَكُمْ وَا لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (ممتحنہ) انبیاء افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا وَا بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاةَ وَالْبَغْضَاءَ اَبَدًا ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت کی دیوار حائل ہے۔ اور یہ دیوار اسی طرح رہے گی۔

حَتَّىٰ تَوَدُّوا بِاللَّهِ وَحُدُودَهُ يَاسَٰرًا ۚ وَمَن يَفْعَلْ مِثْلَ هَٰذَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ بِهَٰذَا مِنَ الْكِتَابِ فَهُوَ مُشْرِكٌ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ
(سورۃ ممتحنہ)

انبیاء علیہم السلام بلاشبہ شرک سے پاک ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرض اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ بات سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب انبیاء کرام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں تو پھر شرک کرنے والے کسی شخص کو معافی کیسے مل سکتی ہے۔ شرک سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے ورنہ خطرہ ہے کہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

کتاب حکم
اور نبوت

اَکْفَىٰ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا حُرْمَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُرْمَةَ وَالْحُرْمَةَ وَالْحُرْمَةَ
یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب حکم اور نبوت عطا کی۔ انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی رہی اور ان میں سے بعض کو مکمل کتاب عطا فرمائی اور بعض پر صحیفے نازل فرمائے۔ بعض انبیاء کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ سابقہ کتب صحیفہ کی ہی نشر و اشاعت کریں، ان کو علیحدہ احکام و شرائع نہیں دیے گئے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد شریعت ہے یعنی کچھ انبیاء کو خاص شریعت دی گئی۔ بعض اس سے حکومت بھی مراد لیتے ہیں۔ تاہم حکومت بھی تمام انبیاء کو تو نہیں ملی۔ البتہ بعض کو ملی ہے جیسے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام۔ بعض فرماتے ہیں کہ حکم سے مراد فہم ہے جس سے انسان صحیح فیصلے پہنچاتا ہے اور یہ تمام انبیاء کو عطا کیا گیا۔ چونکہ نبی پوری امت کے معاملات میں حکم ہوتا ہے اس لیے اس میں قوت فہم و فیصلہ بھی بدرجہ اتم ہوتی ہے باقی رہی نبوت تو یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ اعزاز ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کا نبی مقرب ترین بندہ ہوتا ہے۔ نبی ہونا بجلتے خود بلند ترین ہستی ہونے کی نشانی ہے وہ خدا تعالیٰ کے معصوم بندے ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی گارنٹی حاصل

ہوتی ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ وہ امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ان کا قول، فعل اور عمل امت کے لیے حجت ہوتا ہے۔

قیم دین کا
خدائی انتظام

انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد روئے سخن اولین مخاطبین قرآن کی طرف ہوتا ہے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُوَ لَاؤِءِ أَكْفَرُ اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں یہاں هُوَ لَاؤِءِ کی ضمیر مکے والوں کی طرف لڑتی ہے۔ قرآن پاک کے اولین مخاطبین وہی تھے اور وہی لوگ بنی، کتاب اور شریعت کا انکار کرتے تھے۔ سورۃ یوسف میں اس بات کی تصریح ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں عربی بولنے والے لوگوں کی طرف نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ فرمایا اگر یہ مکے والے اس کا انکار کر دیں فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ پس ہم نے اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو کفر کرنے والے نہیں ہیں۔ مقصد یہ کہ اگر اولین مخاطبین اللہ کے دین پر اور پیغمبر آخر الزمان پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ جو ایمان لا کر دین کے مددگار ثابت ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مشرکین مکہ نے مخالفت کی تو مدینے والوں نے خوشی خاطر سے دین کو قبول کر لیا اور اس کی حمایت کا یقین دلایا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اردگرد کے تمام قبائل آپ کے جاں نثار بن گئے۔ چنانچہ یہی اولین لوگ ہیں جو اسلام کا علم لے کر دنیا میں پھیل گئے۔ اسلام کی آبیاری انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوئی اور یہ لوگ پوری دنیا کے معلم بن کر ابھرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حب حب الاقصاد الیہ الایمان یعنی انصار مدینہ کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب

فرمایا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔
 وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا
 أُمَّتًا لَّكُمْ اگہ تم روگردانی کر گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بجائے دوسرے
 لوگوں کو لے آئیگا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاتاری
 اسلام کے سخت دشمن تھے اور لقبول مولانا شبلی نعمانیؒ انہوں نے ایک کروڑ
 مسلمانوں کو قتل کیا، مگر تھوڑے عرصہ بعد ہی یہ لوگ اسلام کے علمبردار بن گئے
 اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ جب اپنے بیگانے ہو گئے تو
 اللہ نے بیگانوں کو اپنا بنا دیا۔ تم کوں کا بھی یہی حال تھا۔ ابتداء میں اسلام کے
 بدترین دشمن تھے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اتركوا الترك ما تركوكم
 تم کوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ خود چھپر چھاڑے گی ابتداء نہ کہ میں اور پھر سلطان
 محمد خامس کے زمانے میں وہ دور بھی آیا جب اللہ نے اپنی تم کوں کو اسلام کی
 طرف مائل کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک دن میں چاند لاکھ ترک مسلمان ہوئے
 اور آج تک پوری کی پوری ترک قوم اسلام کی شیدائی ہے۔ باہر سے آنے
 والے کچھ یہودی اور نصرانی وہاں موجود ہیں، وگرنہ اصل ترک سب مسلمان ہیں۔
 ترک کی میں بڑے بڑے سیاسی انقلاب بھی آئے مگر انہوں نے اسلام کا
 دامن نہیں چھوڑا۔

اللہ کا قانون آج بھی وہی ہے۔ اگر آج کا مسلمان دین سے غفلت
 کرے گا تو خدا تعالیٰ اس کی جگہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا۔ جو اس کے دین کو
 آگے بڑھا سکے۔ اس طرح دین تو قائم و دائم ہے گا مگر یہ مسلمانوں کی بد قسمتی
 ہوگی کہ وہ دین کے پورے کی آبیاری نہ کر سکیں۔ جب عربوں میں صلاحیت
 باقی نہ رہی تو وہ بھی ذلیل ہو گئے۔ سیاسی طور پر اب ترک بھی ختم ہو چکے ہیں۔
 خدا نے انگریز جیسا دشمن دین مسلط کر دیا ہے۔ جس نے تمام مسلمان سلطنتوں
 کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ روسی، امریکی اور بطلوی سب انگریز ہیں اور عیسائی

ہیں جو ہمیشہ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکی تہذیب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔

آج مسلمان قوم محض اس لیے انخیز کا شکار ہو رہی ہے کہ یہ اندرونی خلفشار میں مبتلا ہے۔ ان کی آپس میں اقتدار کے لیے رسہ کشی ہو رہی ہے ہر فرد اور ہر ملک حب مال و جاہ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہر کوئی سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہتا ہے۔ اب ان میں دین سے لگاؤ اور قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ عیاشی بھی اسی وجہ ذلیل ہونے اور منغل بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے۔ آج کے مسلمان کی ذلت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس نے دین کے کام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ تبلیغی جماعت والے کسی حد تک اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ مگر ان کے ذریعے ایک فیصد سے زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ باقی ۹۹ فیصد کام کون کرے گا؟ اسلام جس قربانی کا تقاضا کرتا ہے، وہ مسلمانوں میں مفقود ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کی ساری توانیاں فسق و فجور پھیلانے پر صرف ہو رہی ہیں۔ اقتدار کے حصول کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ تمام کوششیں امریکہ، روس اور چین کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ عیاشی، فحاشی اور کھیل تماشے میں مگن ہیں۔ کھیلوں کی وزارتیں بن چکی ہیں۔ کھیل کی ٹیمیں غیر مالک میں بھیننے پر کثیر رقم خرچ کی جاتی ہیں مگر اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والے ملک پاکستان میں اسلام کے نام کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ کھیلوں میں جاتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں مگر عملی طور پر ایک اسچ بھی آگے نہیں بڑھتے۔ یاد رکھو اگر تم دین کا بیڑا نہیں اٹھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔

علامہ اقبال مرحوم کہا کرتے تھے، مسلمانو! جب تم نے دین کا دامن چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سکھوں میں سے ایک آدمی کھڑا کر دیا جس نے دین کی موتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا۔ مولانا احمد علی لاہوری کے والد سکھ ہی تو تھے۔ آپ

اقتدار کا
ہوس

نے پانچ سو علماء کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی۔ مولانا عبداللہ سندھی کا باب بھی سکھ تھا۔ وہ ہمارے استاذ الاساتذہ ہیں، جنہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔ مگر مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دین سے کیوں اعراض کیا ہے۔ دین تو بہر حال زندہ ہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کسی دوسری ہستی سے لے لیگا۔ مگر ہماری تذلیل ضرور ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ مکے والے دین کا انکار کریں گے تو ہم ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے جو آگے بڑھ کر اس کا دامن تھام لیں گے۔

فرمایا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد وہی انبیائے کرام ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں فِيهِدَاهُمْ اقتداء آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ یہ خطاب حضور علیہ السلام سے ہو رہا ہے کہ آپ بھی ان انبیاء کے طریقے کو اپنا کر دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انبیاء کی ہدایت کا جزو ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے جس پر سب متفق ہیں۔ لہذا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ذات اور صفات، اس کی عبادت، شرک سے بیزاری وغیرہ کے معاملہ میں سابقہ انبیاء کی اتباع کریں۔ دوسری چیز اخلاق حمیدہ اور صفاتِ کاملہ ہے۔ یہ چیزیں بھی انبیاء علیہم السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آپ بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر کے انہی کا اقتداء کریں۔ فرمایا تیسری چیز احکام اور شریعت ہیں۔ بہت سے احکام و شریعت سارے نبیوں میں مشترک ہے ہیں، آپ بھی ان پر چلتے رہیں۔ اصول فقہ والے بتاتے ہیں کہ سابقہ امتوں کے جو احکام قرآن پاک یا زبانِ نبوی سے بیان ہوئے ہیں، اگر ان کی تردید نہیں کی گئی تو وہ ہمارے لیے بھی قابلِ عمل ہیں مختلف انبیاء کی شریعت میں بعض چیزیں مختلف ہوتی ہیں مگر اصول دین تمام نبیوں کے مشترک ہوتے

ہدایت یافتہ لوگ

ہیں، آپ بھی ان پورکار بند رہیں۔

بلا معاوضہ
تبلیغ دین

تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک اصولی بات سمجھا دی گئی ہے۔ قُلْ دَاعِيَ مَن مِّنكُمْ
 آپ کہ دیجئے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا میں تم سے کوئی معاوضہ
 طلب نہیں کرتا۔ یہ دین کا کام میں کوئی تجارت کے طور پر نہیں کرتا ہوں،
 بلکہ یہ حق پرستی کی تعلیم میرے فرائض منصبی میں شامل ہے جسے میں ادا کرتا رہا
 ہوں۔ اللہ کے سائے نبیوں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ تبلیغ دین کی کوئی
 فیس طلب نہیں کرتے۔ دو کلمہ مقام پر آتا ہے "إِنْ أَحْبَبْتَنِي إِلَّا
حَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء) میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے
 جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم انبیاء کی جماعت ہمیشہ بے لوث ہوتے
 ہیں، ہم کسی ذاتی غرض کے لیے دین کا کام نہیں کرتے۔ ہم جو چیز آپ کو
 پیش کر رہے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ تو تمام جہان والوں کے
 لیے ایک نصیحت ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ لوگ اس نصیحت کو
 قبول کر لیں، توحید کا راستہ اختیار کر لیں، کفر، شرک اور معصیت کو ترک کر
 کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ ہم تو
 خیر خواہی کے طور پر تمہیں صراطِ مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ بہر حال آیت
 کے اس حصہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ نبی لوگوں سے کوئی
 معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے
 اسے اپنے پاس رکھو۔ ہماری دعوت کو قبول کر کے فلاح پا جاؤ یا انکار
 کر کے دائمی ذلت کا شکار ہو جاؤ، اب یہ تمہاری فکر پر موقوف ہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ
 بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ
 بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْمَعُونَ قُرْآنًا
 تَبَدُّونَهَا وَخَفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ
 ذَرَّهُمْ فِي خَوَافِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَذَا
 كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُورًا مِّمَّنْ بَيْنَ يَدَيْهِ
 وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

ترجمہ :- اور نہیں قدر کیا ان لوگوں نے اللہ کا
 جیسا کہ اُس کا حق ہے قدر کرنے کا، جب کہ انہوں نے
 کہا اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے پیغمبر!
 آپ کہہ دیجئے، کس نے اتاری ہے وہ کتاب جس کو لائے
 تھے موسیٰ (علیہ السلام) جس میں نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے
 تم اس کو ورق ورق کرتے ہو۔ تم اس (کے کچھ حصہ)
 کو ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو بہت سا حصہ۔ اور تم

کو سکھلائی گئی وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے
 اباؤ و اجداد۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے (اتاری
 ہے وہ کتاب) پھر چھوڑ دیں آپ ان کو، اپنے باطل (خیالات)
 ہی میں وہ کھیلتے رہیں گے (۹۱) اور یہ کتاب (قرآن) جس کو
 ہم نے نازل کیا ہے۔ برکت والی ہے اور تصدیق کونیوالی ہے
 اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے۔ اور تاکہ آپ ڈرا دیں،
 ام القریٰ والوں کو اور اس کے اردگرد والوں کو۔ اور وہ لوگ
 جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب
 پر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں (۹۲)

رابط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے رد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل
 کا ذکر کیا اور بطور احسان فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل سمجھا دی ان کی قوم کے
 مقابلے میں۔ پھر اللہ نے آپ کی اور آپ کی اولاد کی فضیلت کا تذکرہ کیا۔ بہت
 سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اللہ نے
 ابراہیم علیہ السلام کے اسلاف میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی کیا اور پھر
 آپ کے اباؤ اجداد اور بھائیوں میں سے اللہ کے منتخب بندوں کا ذکر کیا جنہیں ہدایت
 سے نوازا گیا۔ فرمایا اگر یہ لوگ بھی شرک کے مرتکب ہوتے تو ان کے اعمال بھی ضائع
 ہو جاتے۔ شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔
 اگر موت سے پہلے پہلے کوئی شخص تائب نہیں ہوا تو پھر اس کی بخشش کی کوئی
 گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔

گذشتہ آیات میں اٹھارہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے انہیں
 کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائی اور اگر مکے والے ان کا انکار کرتے ہیں تو کوئی
 بات نہیں، ہم ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے جو ان پر ایمان والے

ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے ہر دور میں ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ بھی اللہ کے ہدایت یافتہ انبیاء کے نقش قدم پر چلیں۔ جس طرح وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ بھی ایسا ہی کہیں۔ نیز آپ ان کے سامنے یہ بھی اعلان کہہ دیں کہ میں دین کی بات تم کو خیر خواہی کے جذبے سے پہنچا رہا ہوں مگر میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ گذشتہ درس میں انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کرنے کے بعد اب اس رکوع میں رسالت کا ذکر ہے۔ یہاں پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے توحید کا ذکر اور شرک کی تردید کا بیان ہے اور پھر ایمان ہی کے سلسلے میں رسالت کا تذکرہ ہے۔

شانِ نزول

ان آیات کی شانِ نزول میں دو اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات یہود کے حق میں نازل ہوئیں کیونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کا ذکر ہے اور وہ قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک یہودی عالم مالک ابن صیف یا فخاص ابن عازور کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے گفتگو کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے لاجواب کہہ دیا اُس کا دعویٰ تھا کہ اللہ نے نہ کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر یا تعظیم نہیں کی۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور حضور علیہ السلام کے درمیان مباحثے مدنی زندگی میں شروع ہوئے تھے جب کہ یہ سورۃ مکی دور میں نازل ہوئی تھی لہذا یہودیوں کے حق میں ان آیات کا نزول خارج از بحث ہے۔ اس کے برخلاف حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی رسالت

کے منکر تھے اور کہتے تھے کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی سورۃ کے پہلے رکوع میں گنہ چکا ہے ”وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْنَا مَلَكٌ“ یعنی ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات زیر درس میں ان مشرکوں کا ہی رد فرمایا ہے۔

ان آیات کے روئے سخن کے متعلق ایک تیسری توجیہ بھی بیان کی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرکین چونکہ عام طور پر علم سے بے بہرہ تھے، اس لیے وہ حضور علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرنے سے پہلے یہودیوں کو اہل علم سمجھ کر ان سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر جتنے اعتراضات کیے وہ سب یہودیوں سے پوچھ کر کیے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے ”يَسْئَلُونَكَ“ یعنی اے پیغمبر! یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو سوال کرنے والے بظاہر تو مشرکین مگر ہوتے تھے مگر درپردہ وہ یہودیوں سے سیکھ کر اعتراض کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان آیات کے مخاطبین مشرکین اور یہودی دونوں گروہ ہو سکتے ہیں۔ تاہم حضرت ابن عباسؓ کی رائے زیادہ قوی ہے کہ یہ مشرکین کو خطاب ہے۔

جہاں تک یہود و نصاریٰ کا تعلق ہے، وہ مشرکین کے برخلاف سلسلہ نبوت کے تو قائل تھے کیونکہ وہ حضرات موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور دیگر انبیاء کو مانتے تھے مگر حضور علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ خاص طور پر یہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے بلکہ نعوذ باللہ آپ کو دجال کہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی اسی طرح انہوں نے حضور خاتم النبیین کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا، وہ پہلے انبیاء کو تو مانتے تھے مگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ لہذا یہ بھی کافر ٹھہرے۔ ان دونوں گروہوں کے علی الرغم مشرکین مگر سلسلہ نبوت ہی کے منکر تھے لہذا ان آیات کا مصداق زیادہ تو یہی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور ان لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا اُس کا حق تھا۔ بعض قدر کا معنی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ عزت نہیں کی، اجلال نہیں کیا۔ اور قدر کا معنی پہچان بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اُس کے پہچاننے کا حق تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے پہچانا تو سہی مگر غلط طریقے سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ٹھیک طور سے معرفت نہیں ہوگی۔ ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مشرکین بھی خدا تعالیٰ کا تصور تو رکھتے تھے مگر وہ بھی غلط طریقے سے۔ صحیح معرفت وہی ہے جو اللہ کے انبیاء نے بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ وحده لا شریک اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے اسماء پاک اور صفات بحق ہیں۔ صحیح طریقے پر ایمان لانا ہی اللہ کی قدر کرنا ہے۔

فرمایا ان کی ناقدری کا سبب یہ ہے اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشِيْئٍ مِّنْ سَمٰوٰتٍ وَهٰؤُلَاءِ يَكْفُرُوْنَ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گو یا وحی الہی کا سکر سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کے انکار کی وجہ تو واضح ہے کہ وہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی لائی ہوئی کتاب کو تسلیم کر لیا تو لامحالہ آپ کو نبی بھی تسلیم کرنا پڑے گا اور یہی چیز ان کے مفادات کے خلاف جاتی تھی، لہذا انہوں نے دونوں چیزوں کا انکار ہی کر دیا۔ باقی ہے مشرکین عرب، تو وہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ ان کی توجیہات قرآن پاک نے مختلف مقامات پر بیان کی ہیں۔ مثلاً وہ کہتے تھے مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يٰۤاَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْسِكُ فِي الْاَسْوَاقِ (الفرقان) یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے ہم ایسے شخص کو اللہ کا رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہ رسول بنایا ہے اور نہ اس پر وحی

کتاب، شریعت یا احکام نازل کیے ہیں اور یہی چیز واضح کھرتی ہے، کہ
 فی الحقیقت انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے انبیاء کی بعثت اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کی علامت ہے۔ اُس نے مخلوق پر اپنی رحمت اور مہربانی کی
 کہ اُن کی ہدایت کے لیے پے در پے نبی اور رسول بھیجے۔ انسان کو پیدا
 کیا، اُسے عقل و فہم اور قوائے ظاہرہ و باطنہ سے نوازا اور پھر اُس کو بالکل تہل
 نہیں چھوڑ دیا بلکہ اُسکی ہدایت کے لیے رسول بھی بھیجے۔ رسول مبعوث
 کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو رسولوں کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی
 صفت، اس کی قدرت، رؤفیت اور مہربانی کا انکار کرتا ہے۔
 ایسا انسان خدا تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتا ہے اور اس کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟
 حضرت ام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ نے
 کوئی رسول نہیں بھیجا، وہ کافر ہے کیونکہ اُس نے اللہ کی صفت کا انکار
 کیا ہے۔ اسی طرح جو شخص جزائے عمل کا منکر ہے، وہ بھی کافر ہے۔
 قیامت کے دن محاسبہ کرنا بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ اور
 جیسا کہ پہلے عرض کیا، کسی ایک صفت کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے
 اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ "وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ
 إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ" (کہتے ہیں) ہم رسولوں کو اندازہ و تبشیر کے لیے
 دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
 حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑبڑ جاری رکھا۔ اُس نے قرآن پاک
 کی شکل میں جامع پر وگرام نازل فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سامان
 کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی بعثت اور وحی کا نزول اللہ تعالیٰ کی صفت
 میں سے ہے، لہذا جو شخص ان کا انکار کرتا ہے، اُس نے اللہ تعالیٰ
 کو پہچانا ہی نہیں اور نہ اُس کی کما حقہ قدر وانی کی ہے۔

غرضیکہ جب منکرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی چیز

نہیں اتاری، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ آپ کہ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ بھلا یہ تو بناؤ کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ کس نے اتاری تھی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام انسان نہیں تھے؟ کیا وہ خدا کے رسول نہ تھے؟ اور کیا ان پر تورات نازل نہیں ہوئی تھی؟ جب ان سب سوالوں کا جواب مثبت میں ہے تو پھر تم حضور خاتم النبیین کی نبوت و رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کا کس منہ سے انکار کرتے ہو۔ یہاں پر تورات کی مثال پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکین دونوں گروہوں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ یہودی تو خود موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور ان کی لائی ہوئی تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر مشرکین بھی یہودیوں کے متعلق خوب جانتے تھے کہ ان لوگوں کا پیغمبر کون ہے اور یہ اپنی نسبت کس آسمانی کتاب کی طرف کرتے ہیں۔

پھر جس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے نور؟ وہ تو نور ہدایت تھی قرآن میں انجیل کے متعلق بھی نور کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا، وہ کتاب تو لوگوں کے لیے واضح روشنی تھی وَهُدًى لِلنَّاسِ اور ہدایت بھی لوگوں کے لیے رکھیں بَصَائِرٍ لِلنَّاسِ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ یعنی تمام کتب سماویہ لوگوں کی راہنمائی کے لیے بصیرت ہیں۔ اور روشنی سے مراد محض ظاہری روشنی نہیں بلکہ ایسی باطنی روشنی مراد ہے جس سے جہالت کی تمام تاریکیاں دور ہو کر دل و دماغ میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے انسانوں پر علم کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کو خالق معلوم ہوتے ہیں قرآن پاک علم اور عمل دونوں کی اصلاح کرتا ہے مگر یہودیوں نے ان دونوں چیزوں کو برباد کر لیا۔ ان کے پاس نہ حقیقی علم رہا اور نہ عمل۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے اسی لیے اللہ نے عیسائیوں کو ضال اور یہودیوں کو مغضوب علیہم کے القاب دیے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر کے علم و عمل دونوں کو بگاڑ

دیا اور اپنی کتابوں کے نور اور ہدایت سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔

علم و عمل میں خیانت رافضیوں نے بھی اسی طرح کی ہے جس طرح یہود و نصاریٰ نے۔ مسلم شریفین کے مقدمہ میں آتا ہے کہ رافضیوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں بہت سی غلط باتیں منسوب کر دی ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں قَاتِلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَنْ كُوْتَبَا وَرَبُّوْا كِرَةً، حضرت علیؑ کو اللہ نے کیسا اعلیٰ علم عطا کیا تھا، اُن کے فیصلے کتنے اچھے تھے، اُن کے پاس ہدایت کی روشنی تھی، مگر ان لوگوں نے اُسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس میں غلط باتوں کی ملامت کر کے انہیں حضرت علیؑ کی طرف منسوب کیا اور اس طرح غلطیوں کا ایک طومار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ چنانچہ موجودہ فقہ جعفریہ کی یہی حقیقت ہے۔ اگرچہ اُس میں صحیح باتیں بھی ہیں۔ مگر جھوٹ اور کذب بیانی بھی بہت زیادہ ہے۔ مقصد یہ کہ علم کے بگاڑ میں اہل کتاب اور رافضی ایک جیسے ہیں۔

فرمایا اللہ کی کتاب تو وہ نور ہدایت ہے جو دل میں بصیرت پیدا کرتی ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہدایت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز میں کہی گئی بار اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا کہ ہم بھٹک کر اپنے علم، اعتقاد، عمل اور اخلاق کو خراب نہ کر بیٹھیں۔ اور پھر یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا یہ نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں تو لوگوں کے لیے واضح ہدایت ہے مگر تمہارا حال یہ ہے تَجْعَلُوْنَهُ قُرْطُبًا کہ تم اُسے ورق ورق کرتے ہو۔ قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں، یعنی تم نے اس کتاب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے اور پھر کرتے یہ ہو کہ تَبَدُّوْا نَهَا

ہدایت کی
ضرورت

اس کے بعض حصے کو ظاہر کرتے ہو، جو چیزیں تمہاری خواہش کے مطابق ہوتی ہیں ان کو تو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے اور اس طرح اپنی سیادت کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ اور جو چیزیں تمہاری خواہشاتِ نفسانیہ کے خلاف ہوتی ہیں وَتُخْفُونَہَا کَثِیْرًا ان کو چھپا دیتے ہو۔ یہاں پر کثیراً کا لفظ لا کر واضح کر دیا کہ کتاب الہی کے بیشتر حصے کو چھپا دیتے ہو اور مخفورے حصے کو ظاہر کرتے ہو۔ یہود و نصاریٰ یہی کچھ کرتے تھے۔ جن آیاتِ حضورِ خاتم النبیین کی تصدیق ہوتی تھی ان کو چھپا دیتے تھے حالانکہ یَعْرِفُوْنَہُمْ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَہُمْ وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے مگر جان بوجھ کر انکار کرتے تھے، جس کی وجہ خود قرآن پاک کے بیان کے مطابق حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِہِمُ تھی۔ وہ حسد، بغض، عناد اور اپنے مالی مفادات کی خاطر حضور علیہ السلام کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی جس کے اکثر حصے کو یہودی چھپا دیتے تھے اللہ نے فرمایا کہ اس تورات کے ذریعے تمہیں نور ہدایت عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ وَعِلْمُہُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُکُمْ تمہیں وہ چیزیں بتلائی گئیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباؤ اجداد مثلاً حیرت و عدت کے قوانین، جائزہ اور ناجائزہ امور وغیرہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں سمجھانے و گمراہیوں سے باز رکھنے اور ہدایت کی بصیرت عطا فرمائی۔ تو یہ تو بتاؤ کہ یہ کتاب کس نے نازل کی تھی۔ تم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی تو اللہ کی اس آخری کتاب کا کیسے انکار کرتے ہو، جو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل

فرما کر دین کو مکمل کر دیا۔

نزولِ تورات کے متعلق جب منکرین سے کچھ جواب نہ بن پڑا، تو پھر اللہ نے خود فرمایا وَسَلِّ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ بِغَيْرِ اِسْمِكُمْ کہ میں اللہ ہی نے نازل کیا ہے تورات کا لفظی معنی قانون (قانون) ہے۔ بنی اسرائیل نے خود

نزولِ قرآن
کی دلیل

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی پر وحی نازل فرماتا ہے۔ حضرت

موسیٰ علیہ السلام انسان تھے اور اللہ کے رسول تھے، جس طرح ان پر تورات نازل ہوئی، اسی طرح حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا فرمایا اگر اس دلیل کے بعد بھی یہودیوں یا مشرکین پر اس کا اثر نہ ہو اور وہ

اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں تو آپ کے لیے حکم یہ ہے تَوَدَّوْاْ آپ ان کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ وہ اپنے باطل تخلیقات میں ہی کھیلتے رہیں گے اور یہودہ باتیں کرتے رہیں گے، آپ

ان کی پروا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی گرفت کر لے گا۔

فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تورات کو نور اور ہدایت بنا کر نازل کیا، اسی

طرح وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ یہ کتاب یعنی قرآن حکیم کو بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح انسان ہیں جس طرح گزشتہ درس میں مذکور تمام انبیاء انسان تھے۔ اللہ نے ان کو منصب رسالت و نبوت کے لیے

منتخب فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند فرمایا، تو اس

آخری کتاب کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ تو بڑی بڑی باتوں والی کتاب ہے اور اس سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس

کے احکام پر عمل کرے۔ سلف نے ایسا کیا تو اسکی برکات سے نوازے

گئے مگر آج ہم ہیں کہ اس سے معترض ہو کہ طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہیں۔ فرمایا یہ کتاب مُبْرَكَةٌ بڑی ہی بابرکت ہے مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے لہذا تمہارے لیے لازم ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ۔ اور دنیا و آخرت میں فلاح حاصل کرو۔

ام القریٰ
کے لیے انذار

فرمایا قرآن پاک کے نزول کا ایک اہم مقصد یہ ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ ڈرامیں ام القریٰ والوں کو اور اس کے گرد و پیش والوں کو۔ ام القریٰ کا لفظی معنی بستیوں کی ماں ہے اور اس کے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں موجود ہے "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ" اللہ کا سب سے پہلا گھر یعنی عبادت خانہ اسی مکہ مکرمہ میں بنایا گیا جو لوگوں کے لیے بعثت بרכת اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے بھی مکہ مکرمہ دنیا کے وسط میں واقع ہے۔ امریکہ اس کی بالکل دوسری طرف ہے۔ یہ سر زمین تخلیق کے لحاظ سے بھی کمرہ ارض کا مرکز ہے اور پھر اسے مرکز اسلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ اس کی برکات اور مرکز ہدایت ہونے کا اثر ہے کہ ہر مومن کا دل اس بستی کی طرف راغب رہتا ہے اور اُسے وہاں پہنچنے کی تڑپ رہتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، جسکی برکات سے کوئی دل خالی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے ساتھ مدینہ طیبہ کو بھی شرف عطا کیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ آخری دور میں اسلام ان دو مسجدوں یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان سمٹ کر رہ جائیگا۔ پھر دجال کے زمانے تک پوری زمین بے دینی سے پھو جائیگی، مگر اللہ تعالیٰ اس خطہ کو محفوظ رکھے گا، فرمایا کہ آپ ام القریٰ اور اس کے ارد گرد یعنی پورے عالم عرب کو ان کے آخرت کے انجام سے ڈرامیں۔ مفسرین کرام

وَإِذَا سَمِعُوا

دُرس بست و ہفت ۲۶

الانعام ۶

آیت ۹۳ ۹۴

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ
 أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ
 سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي
 غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ
 أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ
 بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
 عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى
 كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ
 وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ
 الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ
 قَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ

تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾

ترجمہ :- اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس
 نے افتراء بانڈھا اللہ پر جھوٹ - یا اس نے کہا کہ میری
 طرف وحی کی گئی ہے ، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی
 نہ کی گئی ہو - اور (اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو گا جس
 نے کہا کہ میں اتاہتا ہوں اُس کی مثل جس کو اللہ نے اتاہتا ہے

اور (اے مخاطب) اگر آپ دیکھتے ہیں جب کہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ اُن کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے اور اُن سے کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی بات اور تھے تم اس کی آیتوں سے تاجر کرتے (۹۳) البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس تنہا جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور چھوڑ دیا تم نے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا پشتوں کے پیچھے۔ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ تحقیق منقطع ہو جائیگی (وہ بات) جو تمہارے درمیان ہے۔ اور گم ہو جائیگی تم سے (وہ بات) جس کو تم گمان کرتے تھے (۹۴)

پہلے شرک اور مشرکین کا رد ہوا، اور پھر توحید کے اثبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ پھر آپ کے ساتھ دو سکر اٹھارہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر بھی آیا اور توحید کے راستے کو صراطِ مستقیم بنایا گیا۔ شرک کی قیاحت ہی کے غم میں فرمایا کہ اللہ کے یہ مقربین بندے بھی شرک میں ملوث ہوتے تو اُن کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ پھر اللہ نے اُن لوگوں کا بھی رد کیا جو کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی جانے والی کتاب تورات کی مثال پیش کی اور آخر میں قرآن کریم کا ذکر کیا۔ جس اللہ نے تورات نازل کی تھی اُس نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے جو کہ بڑی بابرکت کتاب

رابط آیات

ہے، اس کے نزول کا ایک مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، پھر رسالت کے ضمن میں ایک طرف پیغمبر آخر الزما کی تصدیق کی اور دوسری طرف نبوت کا انکار کرنے والوں کے بُرے انجام سے آگاہ کیا۔ اب آج کی آیات میں نبوت و رسالت ہی کے سلسلے میں مکذبین کے دعوے کو افتراء علی اللہ فرمایا گیا ہے، وحی الہی کی حقیقت اور اس کے بے مثل ہونے کا بیان ہے۔ نیز جھوٹے مدعیانِ نبوت اور ان کے آخرت میں بُرے انجام کی نشاندہی کی گئی ہے۔

جھوٹے
مدعیانِ نبوت

ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا
مِمَّنْ افترى على الله كذباً جو اللہ پر جھوٹ بانڈھتا ہے
مفسر قرآن قنادہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کہ میرے جھوٹے مدعیانِ نبوت
کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی نبوت
کا دعویٰ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص مسلمہ کذاب تھا جو قبیلہ بنی حنیفہ کا
لیڈر تھا۔ یہ قبیلہ عربوں کا لمبا چوڑا قبیلہ تھا جس کے افراد کی تعداد بہت زیادہ
تھی۔ ان کا سردار مسلمہ اگرچہ عمر آدمی تھا مگر سخت شرسنڈ تھا دوسرا مدعی نبوت
اسود غفنی تھا، جو صنعا کا رہنے والا سیاہ رنگ اور موٹے نقش و نگار کا آدمی
تھا۔ وہ ہمیشہ سر پر اورٹھنی ڈالے رکھتا تھا، اس لیے اُسے ذوالخمار بھی کہتے
تھے۔ صحاح سنہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے
خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں دو کنگن پہنائے گئے۔ فرمایا کہ مجھے انہوں
نے پریشان کر دیا۔ پھر مجھے اشارہ ہوا کہ ان کو ہاتھ سے جھٹک دیں تو میں
نے ایسا ہی کیا۔ اس خواب کی تعبیر حضور علیہ السلام نے خود ہی یہ بیان فرمائی کہ دو
کذاب ہیں جو میرے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوئے ہیں اور میں ان کے
درمیان ہوں۔ ان میں سے ایک صنعا میں رہتا ہے اور دوسرا بنی حنیفہ کا سردار
ہے (جو پیامہ میں رہتا ہے) ان دونوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔

مسیلمہ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے نبی ہیں اور میں
 بنی حنیفہ کا نبی ہوں، اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں وفد بھی بھیجا تھا۔
 مسیلمہ خود بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ
 مختصر سی گفتگو کے بعد ہی اُسکی موجودگی میں اُسے کذاب کہہ دیا تھا۔ مسیلمہ کا مطالبہ
 تھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب بنا دیں تو میں ایمان لانے کے لیے
 تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ آپ نے
 چھڑی کے ایک تنکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس تنکے کے
 برابر بھی تمہیں کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہر حال مختصر گفتگو کے بعد آپ
 تشریف لے گئے اور اُس کی بات کا مزید کوئی جواب دینے کے لیے حضرت
 ثابت بن قیس انصاریؓ کو مقرر کر گئے۔

اسود عنسی بھی بڑا شرسپند آدمی تھا۔ حضور علیہ السلام کی وفات سے دو دن
 پہلے حضرت فیروز دہلیؓ

نے اُسے قتل کر دیا۔ آپ کو وحی کے ذریعے خبر
 ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بشارت سنائی کہ آج رات اسود عنسی کو ختم کر
 دیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس حصہ آیت کا مفہوم نہ صرف خدا تعالیٰ
 پر جھوٹ باندھنا ہے بلکہ اس کی طرف غلط بات منسوب کرنا بھی ہے۔
 اگر کوئی شخص خدا کی اولاد ثابت کرے یا شرک کی کوئی بات اس کی طرف
 منسوب کرے تو وہ بھی اس آیت کی وعید کی زد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ
 کی ذات، صفات یا عبادت میں کسی کو شریک کرنا افراتعالی اللہ کے مترادف
 ہے۔ اور ایسا شخص بہت بڑا ظالم تصور ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس شخص سے
 بڑھ کر کون ظالم ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔

پھر فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اَوْ قَالَ اَوْحِيَ اِلَيْهِ
 جو کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ وَلَمْ يُوحِ اِلَيْهِ شَيْءٌ

نزول وحی
 کا دعویٰ

میں موجود ہے اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی کوشش کریں ”اِنَّ يَأْتُوا بِمِثْلِ
 هَذَا الْقُرْآنِ“ کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے
 بھلا یہ مسلمہ کذاب کہاں سے قرآن کی نظیر پیش کرے گا۔ اس نے کچھ عربی
 عبارتیں بنائی تھیں مگر لوگوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا کہ یہ اس کے مقابلے
 کی چیز لائے ہو۔ پوری دنیا کے زبان دان، شعراء، ادیب، خطبا اور فصیح و بلیغ
 لوگ قرآن پاک کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ لہذا قرآن کی نظیر پیش کرنے
 کا دعویٰ باطل ہے۔ فرمایا ایسا دعویٰ کرنے والا بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔
 ام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک
 میں انسانوں کی بہتری کے لیے جو حکمتیں رکھی ہیں، تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی ان
 میں سے کسی ایک حکمت کی گہرا پائک کو نہیں پہنچ سکتے، چہ جائیکہ اس جیسا
 قرآن پیش کرنے کا دعویٰ کریں۔ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدائی قانون
 اور شریعت جیسا کوئی دوسرا قانون بنا سکتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔
 اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے مقابلے جو لوگ خود ساختہ قوانین نافذ
 کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں دخل اندازی کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہی
 ان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔

بنی نوع انسان کا فرض تھا کہ اللہ کی زمین پر اسی کا نازل کردہ قانون نافذ
 کرتے، مگر انہوں نے خلیفۃ اللہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ خدائی قانون کی
 بجائے رومن لاء جرمن لاء اور برٹش لاء کی طرف دیکھتے ہیں۔ کوئی امریکہ کے
 نئے اور پورٹال نے قوانین پر نظر لگائے بیٹھا ہے۔ کوئی کارل مارکس کی پیش کردہ
 شریعت کا گرویدہ ہے اور کوئی لینن (ماویسے تنگ) کی لال کتاب پر فریفتہ
 ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر خود ساختہ
 قوانین سے امید لگائی جا رہی ہے۔ مسلمان ممالک کا بھی یہی حال ہے۔ کسی
 ملک نے امریکہ کا قانون اپنا رکھا ہے تو کسی نے برطانیہ کا اور کسی نے فرانس کا۔

قرآنی قانون
 کا احب

کوئی جرمن قانون سے راہنمائی حاصل کرتا ہے تو کوئی روسی قانون سے، خود ہمارے ملک میں تین مختلف قوانین نافذ ہیں۔ تعزیری قانون انگریزی کا بنایا ہوا انیسویں صدی کا قانون ہے، جسے تعزیرات پاکستان کا نام دیکر اختیار کر لیا گیا ہے اس وقت مارشل لاء کے اپنے ضابطے بھی موجود ہیں اور ان پر بھی حسب ضرورت عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تیسرا قانون اسلامی کہلاتا ہے۔ بعض معاملات میں اس کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ یہ کس قدر عجیب تقسیم ہے۔ اگر اسلام کے مکمل ضابطہ چلتا ہونے پر یقین ہے تو پھر باقی تمام لغتوں کو چھوڑ کر صرف احکام الہی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ جب مارشل لاء کے ذریعے ہر قسم کی سختی جائز ہے تو اسلامی قوانین کو بیک فٹلم کیوں نہیں نافذ کیا جاتا؟ اگر کوئی دقت پیش آئی تو تجربہ کے ساتھ آہستہ آہستہ رفع ہو جائیگی، اس کو جاری تو کر دو۔ اب تک تو وعدے وعید ہی ہوتے آئے ہیں، مگر عمل درآمد کچھ نہیں۔ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نازل کردہ چیز کے برابر کوئی چیز پیش کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ قرآن پاک کے مثال چیز سے۔ تمام دنیا بل کر بھی کسی آیت کی مصلحت کو نہیں پہنچ سکتی۔

اشتراکیوں کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ قرون وسطیٰ میں تو یہ قرآن واقعی قابل عمل تھا مگر یہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ آج کا دور صنعتی، سائنسی اور ایٹمی دور ہے، اس زمانے میں چودہ صدیاں پرانے قوانین نافذ نہیں ہو سکتے، مگر قرآن کہتا ہے "فَبَايَ حَدِيثًا بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" (المسلسلہ) اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤ گے، یہ تو اللہ کا آخری قانون ہے اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کون سے قوانین پر عمل کر دو گے؟ حضور علیہ السلام کے بعد ہر زمان و مکان کے لیے یہی قانون نفاذ کے قابل ہے، جو کوئی اس کو چھوڑ کر دوسرے قوانین تلاش

کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس سے ہدایت کا طالب ہوگا، وہ ہدایت کو پائے گا۔ اور جو کوئی گنہگار دوسری طرف دیکھے گا، ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا۔

موت کی
سختیاں

اللہ نے تین قسم کے آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، پہلا شخص وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افتراء باندھے دوسرا وہ ہے جو کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آتی ہو اور تیسرا ظالم شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں میں بھی ایسی چیز لاسکتا ہوں۔ اب اللہ نے ایسے لوگوں کے انجام

کا ذکر فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَّاتِ الْمَوْتِ اٰی مَخَاطِبٍ اٰمُرًا لَّمْ يَكْتُمُوْا لِيْسَ ظَالِمٌ لَّوْكَوْنٌ كُوْجِبَ وَهٗ مَوْتٌ كِى سَخْتِيُوْا
میں مبتلا ہوں گے۔ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِنَّ

اور فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہیں گے اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ نِكَالُوْا اٰی جَانُوْا كُوْجِبَ مَعْنُوْا
میں کوئی شخص اپنی جان خود تو نہیں نکالتا۔ مگر یہ مجرمین کو وعید سنائی جا رہی ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اپنی جانوں کو خود نکالو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نکلوا اب خدا کے غضب کی طرف اور پھر فرشتے اسکی جان نکال لیتے ہیں اور اُسے غضب کے مقام کی طرف لے جاتے ہیں
اہم رازی اور بعض دیگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بد بخت انسانوں سے کہتے ہیں کہ لاؤ اپنی جان نکالو اور اس سختی سے بچ جاؤ مگر وہ اس دن

کی سختی سے بچ نہیں سکتے۔ فرشتے کہتے ہیں اَلْيَوْمَ نَجْزِيْكُمْ عَذَابًا
الْهُوْنِ اٰج تَمِيْضِ ذَلَّتْ كِى مَار دِى جَابِغِى۔ ہون خواری کو کہتے ہیں یعنی تمہیں
ذلیل و خوار کر دیتے والا عذاب دیا جائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ عٰلِيْنَ الْحَقِّ اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی

اور ناجائز باتیں کہتے تھے۔ خدا کا شریک بناتے تھے، اس کا بیٹا بنا لیا، کبھی اسکی عبادت میں کسی کو شامل کر لیا، کبھی کہتے تھے کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور

اس طرح خدا تعالیٰ پر افتراء باندھتے تھے وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ
تَسْتَكْبِرُونَ اور تم اس کی آیات کے ساتھ بھجرتے تھے۔ اپنی چودھرا قائم رکھتے تھے اور اللہ کی آیات کو پس پشت ڈالتے تھے، لہذا آج تمہیں
زولت ناک عذاب دیا جائے گا۔

خالی ہاتھ
پیشی ہوگی

فرمایا، دیکھو! وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْتُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ آج تم ہمارے پاس بالکل اکیلے چلے آہے ہو۔ جس طرح کہ ہم نے
تمہیں پہلی دفعہ اکیلے پیدا کیا۔ جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ
کوئی محافظ نہیں آتا۔ اسی طرح آج تم ہمارے پاس کسی فوج، پولیس، باڈی گارڈ،
قبیلہ بردری، اولاد یا دوستوں کے بغیر اکیلے ہی چلے آہے ہو۔ وَتَرْكْتُمْ
مَّا خَوَّلْتُمْ وَّرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا
تھا۔ وہ سب کچھ پیچھے ہی چھوڑ کر آئے ہو، نہ کوئی خزانہ ہے نہ مال و دولت
ہے، نہ کوٹھی کا رہنے اور نہ کوئی کارخانہ ہے۔ آج بالکل خالی ہاتھ ہو۔
انسان دنیا میں کہتا ہے مَالِي مَالِي یہ میرا مال ہے۔ یہ میرا مال ہے۔
کوئی کہتا ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا باغ ہے، حالانکہ
تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھالیا، یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا آگے پہنچا دیا
جو بیچ گیا وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے قیامت
وائے دِنِ اللّٰهِ تَعَالٰی پوچھے گا، اے ابنِ اَدَمِ! میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ
کدھر گیا، بندہ عرض کرے گا، مولا کریم! میں اُسے اچھی حالت میں چھوڑ کر
چلا آیا تھا، اگر اجازت ہو تو لا کر پیش کر دوں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
تم جھوٹے ہو، تم نے وہاں کچھ نہ کیا، آج کیا چیز لانے کی اجازت طلب
کرتے ہو۔ اس مال کے بل بوتے پر تو نے دنیا میں جو خرابیاں کیں، ان کے

متعلق آج باز پرس ہوگی۔ اور پھر اس پر سزا ملے گی۔

فَرَمَا يَا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ

زَعَمْتُمْ اَلِهٰٓةُمْ فِیْكُمْ شَيْءٌ كَوْنًا اَوْ رَحْمًا

نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ سفارتی جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں۔ آج وہ تمہارے سفارتی کہاں گئے جن کو نذر و نیاز پیش کیا کرتے تھے اور جو تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دم بھرتے تھے اور جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑالیں گے یا تمہاری کشتی پارہ بگاڑیں گے۔ کارسانہ، مشکل کشا اور حاجت روا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کہیں کو اس کے شریک بناتے تھے لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ اَجْمَعًا درمیان تمام تعلقات منقطع ہو چکے ہیں۔ تمام رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ جو رشتہ معبودانِ باطلہ کے ساتھ جوڑا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے وَصَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور گم ہو جائے گی وہ چیز جس کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ فلاں چیز ہمیں مفید ہوگی، فلاں حضرت صاحب دستگیری فرمائیں گے، فلاں بزرگ بگڑ ہی بنائیں گے، فلاں نذر و نیاز رنگ لائیگی،

اُس دن وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سب کچھ گم ہو کر رہ جائے گا۔ اُس دن حبس لانے والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے ہیں۔

الانعام ۶
آیت ۹۵ تا ۹۸

واذا سمعوا
دکرت بستی و پشت ۲۸

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ
تُوفَكُونَ ﴿۹۵﴾ فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿۹۶﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ
فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾ وَهُوَ الَّذِي
أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾

ترجمہ :- بیشک اللہ تعالیٰ بچاڑ کر نکالتا ہے دانے
اور گٹھلیوں سے :- نکالتا ہے وہ جاندار چیز کو بے جان
سے ۔ اور نکالتا ہے وہ مردہ کو زندہ سے ۔ یہی ہے
اللہ تعالیٰ ، تم کدھر پھرے جاتے ہو ﴿۹۵﴾ وہ بچاڑ کر
نکلنے والا ہے صبح کا اور اُس نے بنایا رات کو
سکون کا ذریعہ ، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے
یہ اندازہ رکھا ہوا ہے اُس کا جو غالب اور سب کچھ
جاننے والا ہے ﴿۹۶﴾ اور وہ وہی ہے جس نے بنایا

تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم راہ پاؤ ان کے ذریعے جنگل اور دریا کی تاریکیوں میں۔ تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں (۹۷) اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک ہی جان سے، پس تمہارے لیے ایک قرار گاہ ہے اور دوسری امانت سپرد کرنے کی جگہ۔ تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں۔ (۹۸)

پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ پھر دگر اٹھارہ انبیاء کا ذکر کر کے توحید کے مسئلے کی وضاحت فرمائی اس کے ساتھ منصب رسالت اور انبیاء کے فرائض کا ذکر ہوا، منکرین رسالت کا رد ہوا اور تورات کو بطور مثال پیش کیا۔ پھر آخر میں قرآن حکیم جیسی بابرکت کتاب کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر افتراء باندھتا ہے اور جو اپنی طرف وحی آنے کا جھوٹا دعوے کرتا یا جو شخص قرآن پاک کی مثل لائے گا دعوے کرتا ہے ایسے ظالموں کی موت کے وقت سختیوں کا بھی ذکر ہوا اور ان کے لیے بڑھی جزا کو بیان کیا گیا۔ پھر انسان کو سمجھایا گیا کہ تمہیں اللہ کے پاس اکیلے حاضر ہونا ہے، یہاں کی جمع کی گئی مال و دولت وہاں کچھ کام نہ آئیگی اور نہ ہی کوئی سفارشی موجود ہوں گے کہ جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑالیں گے۔

ان آیات کا تعلق بھی سابقہ مضمون اثبات توحید اور رد شرک کے ساتھ ہی ہے تاہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات عقلی دلائل کے ساتھ سمجھائی ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کر کے انسان کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے سے اسکی توحید سمجھ میں آجائے گی حکماء کہتے ہیں کہ حکمت حقیقت میں یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کے افعال کو سمجھنے لگے اور حکمت

ربط آیات

افضل حکمت

کا مطلب یہ ہے۔ معرفۃ الحقائق بقدر طاقتہ البشریۃ انسان
 اپنی طاقت کے مطابق حقائق کو سمجھنے لگے۔ یہ حکمت کا افضل حصہ ہے جنسہ علیہ السلام
 کا ارشاد ہے رَأْسُ الْحِكْمَةِ تَخَافَةُ اللَّهِ حِكْمَتُ كَيْ جَبْرُ بِنَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
 کا خوف ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے افعال کو سمجھنا
 افضل حکمت ہے۔ اسی واسطے بزرگانِ دین کی دعائیں یہ الفاظ بھی آتے ہیں
 اللَّهُمَّ ارْنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ لَعَلَّ اللَّهُ ارَاهِمِ الْأَشْيَاءَ كَمَا
 دِكَّهَا لَعَلَّ جَلِيَا كَمَا وَهَ وَاقِعَ كَمَا انْدَرِهِمْ۔ انسان کی غلطیوں کی ایک وجہ یہ
 بھی ہے کہ وہ حقائق کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا۔ کسی چیز کا صحیح علم ہی حکمت
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے افضل حکمت ہے۔

دندان گھٹلی

بہر حال یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہوتا
 ہے إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى بِشَاكِ اللَّهُ تَعَالَى بَچَا رُ نَے
 والا ہے دانے اور گھٹلی کو۔ اناج اور پھلوں کی پیداوار کے لیے عام طور پر
 دو چیزیں بطور بیج استعمال کی جاتی ہیں، ایک دانہ اور دوسری گھٹلی۔ اناج کی
 پیداوار کے لیے گندم، جو، چاول، مگھی، باجرہ وغیرہ کے دانے ہی بطور بیج زمین
 میں ڈالے جاتے ہیں اور اس بیج سے یہی دانے بشمار تعداد میں پیدا ہوتے
 ہیں۔ اسی طرح پھلوں کی پیداوار کے لیے آم، جامن، آدو وغیرہ کی گھٹلی لگانی
 جاتی ہے تو تناور درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے متعلقہ پھل پیدا ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو کمال علم اور کمال حکمت کے ساتھ پیدا کر کے انسانوں کی خوراک
 کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کا ذکر کئی جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا
 ہے۔ کہ ایک ایک دانے اور گھٹلی کے سینکڑوں اور ہزاروں دانے اور
 گھٹلیاں پیدا کرنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر تم کہہ رہے
 بھٹک رہے ہو۔ جو اللہ انسان کی خوراک کے لیے اناج، پھل اور سبزیاں
 پیدا کرتا ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اسی
 صفت پر غور کرے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ مشکل کشائی اور حاجت بری

بھی وہی کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ ایک دلیل قائم کی ہے۔ جب دائرہ گھٹلی کچھ عرصہ زمین کے اندر گزارنے کے بعد پھلٹی ہے تو اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ اس کا ایک سر اُپر کی طرف نکلتا ہے جو تینا اور شاخ بنتا ہے اور دوسرا حصہ نیچے کی طرف زمین کے اندر جاتا ہے جو اُس پوسے یا درخت کی جڑ بنتا ہے۔ زمین سے اُپر کی طرف نکلنے والی پتی نہایت ہی نرم و نازک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سخت زمین کو بھاڑ کر اس کے لیے راستہ بناتا ہے۔ اسی طرح نیچے جانے والا حصہ دُور دُور تک زمین میں پھیل جاتا ہے جو ایک طرف پوسے یا درخت کے لیے زمین سے خوراک حاصل کرتا ہے اور دوسری طرف اُسے گرنے سے بچاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ خود بخود پوسے کے اپنے مزاج سے ہو رہا ہے یا اس کو کرنے والی کوئی ذات موجود ہے؟ انسان محسوساً بھی غور کر لگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب کچھ کرنے والا خداوند تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل سورۃ عبس میں بیان فرمائی کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور کرے تو اُسے معلوم ہوگا کہ اس کے پیدا کرنے میں خداوند تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے انسان! ذرا غور کر انا صَبَبْنَا السَّمَاءَ صَبًّا ۝ ہم نے کس طرح بارش کے ذریعے پانی کا انتظام کیا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ پھر ہم نے زمین کو بھاڑا اور پھر اس میں سے اناج اور پھل پیدا کیے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو دلنے اور گھٹلی کو بھاڑ کر زمین کے اندر سے اس کی شاخ نکالتا ہے اور پھر وہ اناج کا پودا یا پھل کا درخت بن جاتا ہے۔

جڑ اور
شاخ

مختلف مزاج
ظاہر طور پر مختلف اقسام کا غلہ اور پھل اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے رنگ و بو اور ذائقہ میں مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح باطنی طور پر ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض پھل ایک مزاج کے ہوتے ہیں اور بعض میں کئی

کئی قسم کے مزاج اکٹھے پائے جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تدریج کے پھل میں چاروں مزاج یعنی سرد، گرم، خشک اور ترہ بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ دانے، مغز، پھلکے اور گودے کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ انگوڑ میں بھی مختلف مزاج کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی گٹھلی اور چھلکا سرد خشک ہے۔ جب کہ مغز اور پانی گرم تر ہے۔ کیا یہ اس کی اپنی طبیعت کا کام ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خاصیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی سا جگہ ہے۔ اہم رازی فرماتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ طبیب کسی آدمی کے خلاف ہو گئے وہ اسے ختم کرتا چاہتے تھے مگر کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ آخر انہوں نے شراب میں ایفون کی بہت زیادہ مقدار ملا کر اُسے پلا دی اور ایک کوٹھڑی میں ڈال دیا کہ اب یہ مر جائے گا۔ خدا کی قدرت اس کوٹھڑی میں کہیں سے ایک بڑا اثر داخل ہو گیا۔ جس نے اس شخص کو ڈس لیا۔ پہلے اس کے جسم میں ایفون کی سرد خشک تاثیر تھی، اب سانپ کے زہر کی تاثیر سخت گرم بھی داخل ہو گئی۔ چنانچہ جب سرد اور گرم مزاج اکٹھے ہو گئے تو دونوں کا اثر زائل ہو گیا اور آدمی بچ گیا۔ نہ اس پر ایفون نے اثر کیا اور نہ سانپ کے زہر نے۔ یہ متضاد مزاجوں کا کرشمہ تھا۔

زندہ اور
مردہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دانے اور گٹھلی سے پورے کونکالتا ہے اور دوسری یہ کہ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى مُرَدُّهُ سَازِدٌ كُونُكَالتَا ہے اور زندہ سے مردہ کونکالتا ہے۔ مردہ کی مثال انڈا کی ہے جس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ اور مرغی زندہ ہے جس سے مردہ انڈا پیدا ہوتا ہے۔ مجازی معنی میں نیک انسان سے بعض اوقات برا آدمی پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات بدترین آدمی سے

صلح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو کافر سے مومن پیدا کرے اور مومن سے کافر پیدا فرمائے یا نیک آدمی کی اولاد بد ہو اور بُرے آدمی کی اولاد نیک ہو۔ زندہ اور مردہ کا یہ معنی بھی کیا جاسکتا ہے۔

فرمایا ذلکم اللہ ہی اللہ تعالیٰ ہے جو یہ سب کام کرتا ہے۔ وہی ان صفات کا مالک ہے فَأَنْتَ تَعْلَمُ كُنْ مَكْمُورٌ تم کو دھیرے سے

جاتے ہو، تم کن چیزوں کو معبود بنا ہے ہو۔ عبادت کے لائق تو وہ اللہ ہی ہے جو اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ یہ محیر العقول کام انجام دیتا،

پھر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وہ اندھیرے کو بھاڑنے والا ہے جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ رات کے اندھیروں کو دور کرنے والی بھی وہی ذات ہے۔ دوسری جگہ فرمایا

إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَوْمًا لَّالْحَبِطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَأَى غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ

اگر اللہ تعالیٰ رات کو قیامت تک لمبی کرے تو کون ہے جو دن چڑھانے اس کی یہ بھی صفت ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات کے وقت ہر چیز تھم جاتی ہے، انسان، چاند

پرند، کیڑے مکوڑے سب رات کو آرام کرتے ہیں۔ آرام کرنے سے تھکاوٹ دور ہو کر قوتیں بحال ہو جاتی ہیں اور انسان نازہ دم ہو کر پھر سے کام میں لگ جاتا ہے۔ اگر انسان کو آرام میسر نہ ہو تو اس کی تمام توانیاں ختم ہو

جائیں اور وہ جلد ہی فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کام اور آرام کے لیے الگ الگ اوقات مقرر کیے ہیں اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔

فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سیاروں کی ایسی رفتار مقرر کر دی ہے

جس سے دن، رات، سرما، گرما وغیرہ ایک مقررہ وقت پر آتے ہیں اور

رات اور
دن

پھر چلے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان کا ایک فائدہ یہ ہے۔ "لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ" (پونس) تاکہ تم سال و ماہ کی گنتی معلوم کر سکو رات اور دن کے تغیر و تبدل سے ایام، ہفتے، مہینے اور پھر سال پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح صدیاں گزر جاتی ہیں۔ تو چاند اور سورج اللہ نے زمانے کے حساب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فرمایا ذلک تقدیر العزیز العلیم یہ اس خدا تعالیٰ کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے جو غالب اور مہر چیز کو جاننے والا ہے وہ کمال قدرت کا مالک ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر تم کہہ سکر گزراں پھر ہے ہو؟ یہ سب عقلی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ کہ ان چیزوں کا روزمرہ مشاہدہ کرتے ہو۔ ان میں غور کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اس سارے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، جو خداوند قدوس ہے کسی جن، فرشتے یا انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی نظام پیش کرے۔

ستاروں کے فوائد

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور احسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ وَهُوَ خدایا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کا نظام قائم کیا ہے لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تاکہ ان کے ذریعے تم خستجی اور تری میں راہ پاؤ۔ اور یہ راہ براہ راست بھی ہو سکتی ہے اور بالواسطہ بھی۔ جب قافلے جنگلوں اور صحراؤں میں بھٹک جاتے ہیں یا کشتیاں اور جہاز سمندروں میں راستہ گم کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان ستاروں کی مدد سے ہی تمہیں منزل مقصود کی طرف راہنمائی حاصل ہوتی ہے اس لیے اللہ نے ستاروں کا نظام قائم کر کے انسان پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اب مضافیسی آئے قطب نما وغیرہ بھی موجود ہیں جن کی مدد سے سمت معلوم کی جاتی ہے، یہ آئے بھی ستاروں کی حرکتوں کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں۔ راہنمائی کے علاوہ اللہ نے ستاروں کے بعض دیگر فوائد

بھی گنوائے ہیں مثلاً "وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ"
 ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی "وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا
 لِلشَّيْطَانِ" (سورۃ ملک) شیاطین کو رجم کرنے کا ذریعہ بھی تیار ہی ہے۔
 فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہم نے ان لوگوں
 کے لیے تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں اور علم کی روشنی
 رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ کمرشمے اہل علم و فہم کے لیے بہت
 بڑی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔

نفس واحدہ
 سے پیدائش

فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اور وہ ہی
 اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ نفس واحدہ سے مراد حضرت
 آدم علیہ السلام ہیں جن کے وجود سے اللہ نے تمام بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔
 سورۃ نسا میں بھی موجود ہے "خَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا" آپ ہی کے جسم سے
 آپ کا جوڑا پیدا کیا۔ غرضیکہ تمام انسانوں کے جدا جدا آدم علیہ السلام ہیں اور ان
 کو مٹی سے پیدا کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کَلَّكُمْ ابْنَاءُ آدَمَ وَ
 آدَمَ مِنْ تَوَابٍ يَعْنِي مِرْزَاقِ نَسْلِ، شَكْلِ وَصُورَتِ اور معاشرے کے
 لوگ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ نیلے، پیلے، چھوٹی، چھٹی اور بڑی ناک والے
 کالے اور گورے سب اولاد آدم ہیں۔ لہذا ایک دور کے گورے رنگ و نسل کی بنیاد
 پر حقیر جاننا بہت بری بات ہے۔ دنیا میں ایسے گورے رنگ والے بھی موجود ہیں
 جو سیاہ رنگ والوں کو اپنے ہٹلوں میں داخل نہیں ہونے دیتے اور کالے
 بچوں کو گورے بچوں کے سکولوں میں داخلے پر پابندی ہے یہ انتہا درجے کی
 بدتمیزی اور انسانیت کی توہین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کالے اور گورے
 سب ہمارے بھائی ہیں، سب ایک شخص کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 آدَمَ وَہُوَاکِی وَحَسْبُکُمْ کُورَا بِنَادِیَا ہِے اور کسی کو کالا، مگر ساری کی ساری
 مخلوق خدا تعالیٰ کی ہے، تجربات بتاتے ہیں کہ چار سو سال تک گرم یا سردی

میں ہنسنے کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا نسل میں شامل ہو جاتی ہے اور سرد
مکوں میں ہنسنے والے سفید اور گرم مرطوب علاقوں کے باشندے سیاہ رنگ
اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر حال تمام انسان ایک جان سے پیدا ہونے کی بنا پر
برابر ہیں اور رنگ و نسل کی وجہ سے کسی کو برتری حاصل نہیں۔

فرمایا تمہیں ایک جان سے پیدا کیا فَوَدَّعَسْتَقَرٌّ وَمَسْتَدِرِعٌ پس تمہارے
لیے ایک امانت کے طور پر رکھنے کی عارضی جگہ ہے اور ایک ٹھکانہ ہے بیتناہ عجب القلور

عارضی اور
مستقل قرار گاہ

محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ باپ کی پشت سے نکل کر جب مادہ ماں کے
رحم میں پہنچتا ہے تو یہ انسان کا مستقر یعنی عارضی قیام گاہ ہوتی ہے۔ یہاں مقررہ
مدت تک قیام کے دوران وہ آہستہ آہستہ دنیا کے اثرات قبول کرتا ہے اور
پھر ماں کے پیٹ سے مستودع یعنی دنیا کے ٹھکانے میں آجاتا ہے لیکن یہ جگہ
بھی انسان کے لیے مستقل قیام گاہ نہیں، بلکہ سچا س، ساٹھ، سو سال تک اس
دنیا میں ہنسنے کے بعد پھر عارضی مستقر قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ قبر
کے قیام کے دوران آخرت کے اثرات قبول کرتا ہے اور آخر کار قیامت
کو وہ حشر میں پہنچ جائے گا۔ محاسبے کے بعد اس کا مستقل ٹھکانا جنت میں
ہوگا یا جہنم میں آخری قرار گاہ وہی ہے۔ قبروں پر آخری آرام گاہ کی تختی لگانا درست
نہیں۔ کیونکہ قبر کی زندگی تو عارضی اور بیزخی زندگی ہے، اس کی آخری آرام گاہ
جنت یا دوزخ ہے۔ مقصد یہ کہ آخرت سے پہلے پہلے انسان عارضی قیام گاہوں
سے گزرتا ہے۔ ماں کا پیٹ، دنیاوی زندگی یا عالم بیزخ حقیقت میں عارضی قیام گاہیں
ہیں۔ انسان کا مستقل ٹھکانا آخرت ہے۔ فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ہم نے تمام آیات احکام اور دلائل کھول کر بیان کر
دیے ہیں تاکہ سمجھ رکھنے والے لوگ ان میں غور و فکر کریں اور اللہ کی معرفت حاصل
کریں۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے یہ چیزیں کچھ مفید نہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ
 كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ جَبًا
 مُتْرَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
 وَجِثٌّ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ
 يَنْعِهِ إِن فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾
 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
 بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَبَيْنَ عِلْمِ رَبِّهِمْ تَوَالِحًا
 عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

ترجمہ :- اور وہ وہی ذات ہے جس نے —

اتارا آسمان کی طرف سے پانی، پس نکالے ہم نے اس کے

ذریعے ہر قسم کے پودے۔ اور نکالا ہم نے اس سے

سبزہ جس سے نکالتے ہیں دانے تہ تہ (اوپر نیچے چڑھے

ہوئے) اور کھجوروں میں سے بھی ان کی شاخوں سے گچھے جھکے

ہوئے اور باغا انگور اور زیتون اور انار کے جو ملتے جلتے ہیں اور جو

نہیں ملتے (جدا جدا)۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ

پھل دیتا ہے۔ اور اس کے رپکنے کی طرف دیکھو) بیشک

البتہ اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۹۹) اور انہوں نے جنات کو اللہ کے شریک بنائے حالانکہ اللہ نے اُن کو پیدا کیا ہے۔ اور انہوں نے گھڑے اُس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں جہالت سے۔ پاک ہے اُس کی ذات اور بلند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں (۱۰۰)

رابط آیات

گذشتہ کئی دروس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید بیان ہو رہی ہے آج کی آیات بھی اسی سلسلہ کے ساتھ مربوط ہیں عقلی دلائل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر پوسے اور درخت پیدا کرنے کا ذکر فرمایا پھر رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کی طرف توجہ دلائی، سورج، چاند اور ستاروں کو ایک خاص حساب سے مقرر کرنے کا بیان کیا اور فرمایا کہ ان تمام اشیاء میں اہل عقل و خرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نے ایک نفس سے تمام بنی نوع انسان کی پیدائش کا ذکر بھی کیا کہ دیکھو معبود حقیقی وہی ذات ہے جس کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کے مطابق کائنات کا پورا نظام چل رہا ہے، لہذا اُس کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ تسلیم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔

اب آج کی آیات میں مزید عقلی دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا عظیم جوہر عطا کیا تاکہ انسان اس کو صحیح طور پر استعمال کرے اُس کی قدرت کے نشانات کو دیکھے، اُن میں غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین لائے اور شرک کی قباحت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔

بارش کی
اہمیت

ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
وہ وہی ذات ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا۔ سماء کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، آسمان کے علاوہ یہ لفظ فضا، بادل اور بلندی

کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نزولِ بارش کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے کہ سورج کی گرمی سے سمندوں سے بخارات اٹھتے ہیں جن سے بادل بنتے ہیں اور ہوائیں انہیں اڑا کر دور دراز علاقوں تک لے جاتی ہیں پھر یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں بادلوں سے برسنے لگتا ہے مفسرین کلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر آسمان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ کہیں لوگ بادلوں پر ہی تکیہ لگا کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ ان بادلوں کو بھینچنے والی حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمانوں سے حکم جاری کر کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس کی قدرت کا یہ بھی کمال ہے کہ بارش نازل کر کے اُسے یونہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ کچھ فالتو پانی کو جھیل، تالاب اور چشمے کی صورت میں جمع کر لیتا ہے اور باقی پانی کو ندی نالوں کی صورت میں آگے چلا دیتا ہے تاکہ جہاں بارش نہیں ہوئی، وہ جگہ بھی پانی سے سیراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پانی کا کچھ ذخیرہ زمین کے اندر بھی جمع کر دیتا ہے جسے لوگ اپنی ضرورت کے لیے کنویں اور ٹیوب ویل کے ذریعے نکال لیتے ہیں۔ غرضیکہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ فرقان میں ارشاد خداوندی ہے "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا" اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ" (انبیاء) اسی پانی سے ہم نے ہر جاندار کو حیات بخشی۔ تمام انسان، جانور، پھرند، پرند، کیڑے مکوڑے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

میڈیکل سائنس والے بتاتے ہیں کہ انسان کی رگوں میں جو خون گردش کرتا ہے اس میں انسٹی فیصد پانی ہے اور باقی بیس فیصد میں سالٹ پروٹین، وٹامن، لحمیات، نشاستہ، پیڑ اور دوسری اشیائے غذائیت ہیں۔ یہ خون پورے جسم میں گردش کر کے ہر حصہ جسم کو اس کی مطلوبہ خوراک پہنچاتا ہے چنانچہ خون کی گردش کے دوران ناخن اپنی ضرورت کی غذا حاصل کرتے ہیں۔

بال اپنی غذا، دل و دماغ اپنی اپنی ضروریاتِ حیات تلاش کر لیتے ہیں پھر یہاں
 حسبِ ضرورت کیلشیم حاصل کرتی ہیں اور اسی طرح جسم کے باقی اعضاء
 اپنی اپنی غذاؤں سے حاصل کرتے ہیں۔ خون میں غالب
 مقدار چونکہ پانی کی ہوتی ہے۔ لہذا اہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کا مدار پانی پر ہے
 کسی جاندار کی زندگی کے لیے جس طرح پانی ضروری ہے اسی طرح
 ہوا بھی لازمی ہے بلکہ پانی کے بغیر تو جاندار کچھ عرصہ تک زندہ رہ سکتا ہے مگر
 ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسانی جسم کو آکسیجن کی ہر سانس کے ساتھ ضرورت
 ہوتی ہے۔ یہی وہ نسیم طیب ہے جس کے ذریعے انسانی خون صاف ہوتا
 رہتا ہے اور وہ جسمانی نشوونما کے لیے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے۔
 سانس کے ذریعے انسانی جسم میں بہت سے گیس داخل ہوتے ہیں جن میں
 سے آکسیجن خون کو صاف کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسانی جسم کے داخلی
 مانے باہر آتے ہیں اور انسان تازہ دم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائیڈ
 جیسی غلیظ گیس بھی جسم میں پہنچ جاتی ہے جب یہ جسم کے اندر زیادہ مقدار میں
 جمع ہو جاتی ہے تو انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ غرضیکہ
 انسان کی اولین ضرورت ہوا ہے جس کے ذریعے وہ ایک منٹ میں بہت
 دفعہ سانس لیتا ہے اور بہت دفعہ اس کی نبض تڑپتی ہے۔ انسانی سانس
 سوتے جاگتے، چلتے پھرتے کسی حالت میں بھی منقطع نہیں ہوتا اور اس
 طرح انسان کو چوبیس گھنٹوں میں کم و بیش چوبیس ہزار نعمتیں سانس کے
 ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ انسان صرف انہی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا،
 چہ جائیکہ وہ باقی تمام نعمتوں کا حق بھی ادا کرے۔

انسانی زندگی کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 نے بالکل فری کمر دیا۔ یہ ہر جاندار کو بالکل مفت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری
 ضروری چیز پانی ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ قانونِ قدرت کے مطابق

ہوا کی ضرورت

یہ چیز بھی مفت حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا انتظام بارش کی صورت میں اور پھر ندی، نالوں اور چشموں کے ذریعے کر دیا ہے جہاں تک انسانی ہاتھوں کے ذریعے پانی کی بہم رسانی کا تعلق ہے، تو یہ بھی فری ہونی چاہیے۔ اب یہ کار پر داندان حکومت کا کام ہے۔ کہ وہ پانی کی بہم رسانی کو مفت اور یقینی بنائیں اس معاملے میں کسی انسان کو وقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ جب قدرت نے پانی مفت نازل کیا ہے کہ انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ قانون قدرت کا اتباع کرتے ہوئے کم از کم پانی پر کوئی ٹیکس عاید نہ کریں۔

فرمایا، ہم نے آسمان کی طرف سے پانی نازل فرمایا فَآخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پوسے نکالے تم سم فصلیں اور باغات پانی ہی کے مرہون منت ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی تو نہ فصلیں اور سبزیاں اُگتی ہیں اور نہ درخت پھل لاتے ہیں۔ فرمایا پانی نازل کر کے فَآخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّكَالْتُمْ ہیں اور پھر خُجْرًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا اُس سے تہ بترہ ڈالنے نکالتے ہیں۔ ہر خوشہ پہلے سبز رنگ کا ہوتا ہے، پھر پک کر سرخ ہو جاتا ہے اور اس سے بے شمار دانے پیدا ہوتے ہیں۔ کہیں دھان پیدا ہوتے ہیں، کہیں جو، باجرہ اور مکی اور کہیں گندم پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایک پوسے سے بیشمار دانے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اسی لیے فرمایا کہ پانی نازل کر کے ہم سبز پودے پیدا کرتے ہیں اور پھر اُس میں تہ بترہ بے شمار دانے پیدا کرتے ہیں۔

عام اندج کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ اور ہم پانی کے ذریعے کھجوریں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کی پیدائش کی صورت یہ ہے صَدْرٌ طَلَعَهَا قَنَوَانٌ دَانِيَةٌ یہ کھجور کے درخت کی شاخوں میں گچھے ہوتے ہیں جھکے ہوئے۔ کھجور کے ایک ایک گچھے میں ڈھیروں کھجوریں ہوتی ہیں جن کے وزن کی وجہ سے شاخیں جھک جاتی ہیں۔ کھجوروں کے درخت

انج کی
پیداوار

دری کی
پیداوار

مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ بعض قد میں چھوٹے اور بعض بہت لمبے ہوتے ہیں۔ کھجور کا درخت بہت لمبی عمر پاتا ہے۔ شاہد رہ کے مقام پر جو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، یہ مغلوں کے زمانہ کے ہیں۔ یہ درخت دنیا کے گرم خطوں میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کھجور کے درخت کی مثال مومن عیسیٰ ہے۔ جس طرح کھجور کا درخت بارہ مہینے سرسبز رہتا ہے اسی طرح مومن کا دل بھی سدا بہار ہے۔ کھجور کا پھل دیر پا ہے جو جلدی خراب نہیں ہوتا، اس لیے یہ سارا سال استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح نور ایمان سے منور اور اعمالِ حسنہ اور اخلاقِ حسنہ کا پیکر مومن مخلوقِ خدا کے لیے نمونہ ہوتا ہے اسی طرح کھجور کا پھل بھی مخلوقِ خدا کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اسی لیے حوادث کی صورت میں یہ آسانی سے نہیں گرتا۔ اسی طرح مومن کے دل میں ایمان کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور وہ آسانی سے شیطان کے ہکا بکاوے میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں ایمان کو نچتہ کر چکا ہے۔ سورۃ محمد میں موجود ہے "اِنَّ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يَثْبُتْ اَقْدَامَكُمْ" اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا اور انہیں کوئی دوسری طاقت اکھیر نہیں سکے گی۔ اسی طرح کھجور کے درخت کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہوتی ہیں "وَفَوْعَهَا فِي السَّمَاءِ" اور اس کی شاخیں بھی فضا میں پھیلی ہوتی ہیں۔ ایمان والے آدمی کے اعمال بھی اسی طرح اُوپر عالم بالا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کمالِ حیثیت کا درخت ہے اور اسے مومن آدمی کے ساتھ یہ مطابقت حاصل ہے۔

کھجور کے درخت کو انسانی زندگی سے ایک اور بھی مطابقت اور مناسبت ہے اور وہ یہ کہ جس طرح انسان کے سر سے پانی گزر جائے تو یہ مر جاتا ہے، اسی طرح کھجور کے درخت کے سر سے تک پانی پہنچ

جائے تو یہ بھی سوکھ جاتا ہے۔ انسان کی گمہ دن کٹ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے
 اسی طرح اس درخت کا تنا اگر اوپر سے کاٹ دیا جائے تو یہ بھی بیکار ہو
 جاتا ہے۔ اس کو انسان کے ساتھ عجیب مشابہت ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت کریمہ میں کھجور کا ذکر سب سے پہلے فرمایا ہے کہ اکثر خطوں میں
 اس کا پھل بطور غذا استعمال ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد
 مبارک ہے کہ جس گھر میں کھجوریں موجود ہیں اس گھر کے ہنرے والے کھجور کے
 نہیں ہیں۔ کھجور ایک لذیذ اور طاقت ور غذا ہے اور انسان کے لیے نہایت
 مفید ہے۔

انگور غذا نیت
 سے بھر پور

دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے انگور کا ذکر کیا ہے وَجَدْتُمْ مِّنْ
 اَعْنَابٍ اَنْجُوْرٍ كَيْفَ يَدْرِي كَيْفَ يَدْرِي كَيْفَ يَدْرِي كَيْفَ يَدْرِي
 بڑا شیریں اور طاقتور پھل ہے، اسے افضل الاثمار یعنی پھلوں میں سے افضل
 کہا جاتا ہے۔ اسے جائزہ طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ناجائزہ
 طریقے سے بھی۔ جن خطوں میں انگور کثرت سے پیدا ہوتا ہے، وہاں لوگ
 اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کا شربت بنا کر مشروب کے
 طور پر پیتے ہیں۔ حیدرآباد دکن میں انگور سے ملتا جلتا شریفہ پھل پیدا ہوتا ہے
 جسے فاکھتہ الغریبا یعنی غریب لوگوں کا پھل کہا جاتا ہے۔ وسیع
 جنگلوں میں یہ واقف مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور مفت بل جاتا ہے اور لوگ
 اسے کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انگور کا جائزہ استعمال بھی ایسا
 ہی ہے۔ البتہ اس سے شراب بھی کشید کی جاتی ہے جو کہ حرام ہے۔
 سورۃ نحل میں موجود ہے کہ اللہ نے کھجور اور انگور جیسے عمدہ پھل پیدا کیے
 تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَوًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا جنہیں تم نے
 اور عمدہ روزی کے طور پر استعمال کرتے ہو۔ گویا اس کا ایک ناجائزہ استعمال
 شراب کی صورت میں بھی ہے۔ بہر حال انگور ایک اچھا اور عمدہ پھل ہے

جو کہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ کھجور کے بعد دوسرے نمبر انگور کا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے پر زیتون کا ذکر فرمایا ہے۔ وَالزَّيْتُونُ
 زیتون زیادہ تر عرب اور افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی اس
 کی کاشت کے تجربات ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبیوں نے اس درخت
 کے بابرکت ہونے کی دعا فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں
 لکھتے ہیں کہ شام و فلسطین میں زیتون کے بعض درخت یونانیوں کے زمانے
 سے چلے آ رہے ہیں جنکی عمر اڑھائی ہزار سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس
 درخت کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کَلُوا الزَّيْتِ
 وَادْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةِ مَبَارَكَةِ زَيْتُونِ كَاتِلِ
 کھانے میں استعمال کرو اور اس کی مالش بھی کرو کیونکہ یہ مبارک درخت
 کی پیداوار ہے۔ اگرچہ یہ تیل Olive Oil مہنگا ہے مگر دنیا کے
 ہر خطے میں ملتا ہے۔ لوگ اسے گھی کی جگہ استعمال کرتے ہیں اور سر میں لگانے
 کے کام بھی آتا ہے۔ اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے۔ درخت کی لکڑیاں استعمال
 ہوتی ہیں، پتے اور چھلکے بھی مفید ہے اور اس کی جڑیں بھی کام میں لائی
 جاتی ہیں۔ یہ غذا اور دوا دونوں طریقوں سے استعمال میں آتا ہے۔ اللہ
 نے عجیب و غریب درخت بنایا ہے۔

انار دہلیار

چوتھے نمبر پر فرمایا وَالرُّمَّانَ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے انار
 بھی پیدا فرمایا ہے یہ میٹھا اور مے خوش یعنی کھٹا میٹھا پھل ہے، اس
 کی مختلف قسمیں ہیں جن میں قندھاری انار کے دانے موٹے اور زیادہ
 لذیذ ہوتے ہیں۔ اس میں فولاد کافی مقدار میں پایا جاتا ہے جسکی وجہ سے
 جگر کے مریضوں کے لیے بڑا مفید ہے گھرمی کو مارتا ہے اور گردوں
 اور جگر کو صاف کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے موٹے موٹے دانوں کو
 باریک چھلکے میں عجیب طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ احمد شاہ ابدالی محض

اس لیے دہلی میں نہ رہ سکا کہ وہاں قندھاری انار کھانے کو نہیں ملتے تھے، کہنے لگا
 ”اِس جَا اِنَارِ قَنْدَهَارِ كَجَاسْتِ“ یہاں کھانے کے لیے قندھاری انار میسر نہیں لہذا
 واپس وطن چلو۔ بہر حال یہ بھی کمال درجے کا پھل ہے اور اس کا دار و مدار بھی پانی
 پر ہے۔

غور و فکر
 کا مقام

تمام پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا مُشْتَبِهًا وَ غَيْرَ مُشْتَبِهٍ
 یہ پھل ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور بعض غیر مشابہ بھی۔ بعض کی شکل ملتی ہے
 تو ذائقہ الگ ہے۔ بعض کا ذائقہ ملتا جلتا ہے تو رنگ مختلف ہے اللہ نے
 سورۃ رعد میں فرمایا ہے، اللہ نے زمین میں انگوڑ کے باغات اور کھیتی اور کھجور
 کے درخت پیدا کیے لَيْسَتْ بِسَّمَاءٍ وَاحِدَةٍ سَبَّحُوهَا كَمَا سَبَّحُوا رَبَّكَ
 سِرَابٌ كَمَا جَاءَتْ مَكَّةَ كَوْمًا مَّيْطًا ہے اور کوئی کھڑوا، کوئی تلخ ہے اور کوئی
 کیلہ۔ مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف شکلیں۔ کچھ آپس میں ملتے
 جلتے ہیں اور کچھ غیر مشابہ ہیں مگر خوراک سب کی ایک ہی پانی ہے اللہ تعالیٰ
 کی قدرت کا یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ اس میں صاحب عقل لوگوں کے لیے
 بڑی نشانیاں ہیں۔ غور کیجئے، آخر یہ سب کچھ خود بخود اپنی نیچر سے ہو رہا ہے
 یا اسے کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ یہ اس مالک الملک کی شان ہے
 کہ خرم بوزے کے کھیت میں ایک ہی کنویں سے پانی جا رہا ہے مگر کوئی
 خرم بوزہ میٹھا ہے اور کوئی پھیکا ہے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ
 کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ ہی کار فرما ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی
 نہیں جو اس قسم کے عجیب و غریب کام کر سکے۔

فَرِيَا أَنْظُرُوا إِلَىٰ الرِّجْلِ ثُمَّ إِذَا أَثْمَرَ اس پھل کی
 طرف دیکھو جب وہ پھل دیتا ہے وَيَنْعَلُ اور اس کے پکنے کی
 طرف دیکھو۔ پہلے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر زرد اور پھر کوئی سرخ
 ہو جاتا ہے اور کسی کی رنگت زرد ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی

پسند نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہوئے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا**
عَظِيمًا تم اپنی زبانوں سے بہت بڑی بات کہتے ہو۔ سورۃ مریم میں فرمایا
 کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا اتنا گندہ عقیدہ ہے **تَكَادُ السَّمَاوَاتُ**
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُّ الْأَرْضُ فَخِشُّ الْجِبَالِ هَكَذَا
 کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں
 خدا کی شان میں یہ گستاخی اس کے غضب کو دعوت مینے کے مترادف ہے آخر
 اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے۔ کیا اُسے نسل کشی کی ضرورت ہے یا اُسے
 بڑھاپے میں سہاڑے کی ضرورت ہے وہ تو صمد اور غنی ہے، وہ محتاج نہیں بلکہ
 ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تم نے جہالت کی وجہ سے اس کے بیٹے اور
 بیٹیاں بنا لیے ہیں۔ **سُبْحٰنَكَ** اس کی ذات تو ایسی چیزوں سے پاک ہے
وَتَعَالَى اور اس کی ذات اعلیٰ و ارفع ہے **عَمَّا يَصِفُونَ** ان چیزوں
 سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کوئی اس کی طرف اولاد کو منسوب کرتا ہے
 کوئی کسی کو علم اور تصرف میں شریک ٹھہراتا ہے اور کوئی قدرت میں شریک
 بناتا ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں سے پاک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۡىٰ يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ
 وَلَمۡ يَكُنۡ لَّهٗ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
 وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۱﴾ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿۱۲﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ
 وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۗ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿۱۳﴾

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں
 اور زمین کا۔ کیسے ہو سکتا ہے اس کا بیٹا حالانکہ نہیں
 ہے اس کی کوئی بیوی۔ اور اس نے پیدا کی ہے ہر چیز
 اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ﴿۱۱﴾ یہ ہے اللہ تمہارا
 پروردگار۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا
 پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا۔ پس تم اسی ہی کی عبادت
 کرو۔ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے ﴿۱۲﴾ نہیں پاسکتیں اس
 کو آنکھیں اور وہ پاتا ہے آنکھوں کو۔ اور وہ نہایت ہی
 باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے ﴿۱۳﴾

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید کے عقلی دلائل
 بیان کیے۔ اگر انسان اپنی عقل کو بروئے کار لائے اور غور و فکر کرے تو اللہ کی
 وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بھی کیا کہ دیکھو انہوں

نے اللہ کے لیے شریک بنا رکھے ہیں، کسی نے جنات کو خدا کا شریک بنا لیا ہے، کوئی اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کی ذات اس کی طرف منسوب کی جانے والی ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے توحید ہی کے اثبات میں اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ گذشتہ درس میں نزول بارش اور اس سے پیدا ہونے والے اناج اور پھلوں کا تذکرہ ہو چکا ہے اور اللہ کی اولاد ہونے کی تردید بھی کی جا چکی ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی طرف توجہ دلا کر اپنی بیوری اور اولاد ہونے کی نفی کی ہے اور اپنی توحید خالص کا درس دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے **بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے بدیع کا معنی عدم سے وجود میں لانے والا، یا نیستی سے ہستی میں لانے والا یا پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا ہم معنی لفظ فاطر بھی ہے۔ اللہ نے مختلف مقامات پر **فَاٰتٰرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** بھی فرمایا ہے۔ اس کے معنی بھی کسی چیز کو کتم عدم سے پھاڑ کر نکلانے کے ہیں۔ گویا دونوں الفاظ کے معانی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ ابداع ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر نمونے مادہ، اور آلے کے وجود میں آئے اور بدیع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لفظ بدعت کا مادہ بھی یہی ہے اور اس سے مراد دین میں ایسی ایجاد ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہ ہو یعنی وہ ایجاد بندہ ہو۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی چار صفات بالترتیب کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ابداع، اس کے بعد خلق، اس کے بعد تدبیر اور آخر میں تدلی کی صفت، اسکی تفصیل آپ نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا ابداع سے مراد ایسی چیز ہے جو بغیر نمونے،

آسمان و زمین
کا موجب

صفت ابداع

مادہ اور آلہ کے وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی صفت کے ساتھ کائنات کو مجموعی طور پر کتمِ عدم سے نکالا ہے۔ اس کو شخصِ اکبر بھی کہا گیا ہے۔ مجموعہ کائنات کی ایجاد ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے اور انسان اس کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مبدع (موجد) اور مبدع (ایجاد کردہ) کے درمیان عالم شہادت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے نظیر کے طور پر پیش کیا جاسکے۔ یعنی موجد اور ایجاد کردہ کے درمیان ایسی نسبت پائی جاتی ہے کہ اس کی کوئی مثال کائنات میں موجود نہیں۔ لہذا یہ نہایت ہی پوشیدہ اور غامض چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح ایجاد کیا، یہ انسان کی عقل و فکر سے باہر ہے البتہ یہ ہوا ضرور ہے اور اس کی موجودگی ہی اس کا ثبوت ہے۔ مجموعی کائنات اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور صفات کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے کیونکہ اس کے وجود سے پہلے نہ کوئی نمونہ تھا، نہ مادہ اور نہ ایجاد کرنے کا کوئی آلہ۔

صفتِ خلق

جب کائنات بحیثیت مجموعی وجود میں آگئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفتِ خلق کا فرما ہوئی۔ یعنی ابداع کے بعد دوسرے نمبر پر صفتِ خلق نے کام کیا۔ اگر پہلے مادہ موجود ہو تو اس سے کسی چیز کو بنانا خلق کہلاتا ہے جب مجموعی کائنات بشمول زمین اور اس کی مٹی ایجاد ہوگئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جیسے فرمایا "خَلَقْنَا مِنْ تَرَابٍ" (آل عمران) اُسے مٹی سے پیدا فرمایا۔ ابداع اور خلق میں یہی فرق ہے۔ ابداع کے ذریعے مٹی کو بغیر کسی مادہ کے ایجاد کیا اور پھر اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سطح زمین سے مٹی لے کر آدم کا مجسمہ بنایا، اس کے اعضا بنانے اور پھر اس میں روح ڈالی تو انسان زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس ایک

نفس سے سلسلہ تناسل کے ذریعے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ آدم علیہ السلام کی طرح جنات کی تخلیق کے متعلق ارشاد ہے "وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّخَارِجٍ مِنْ نَّارٍ" (الرحمن) اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں بھی آگ کا مادہ موجود ہے جس سے جنات کو خلق کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین وغیرہ کے اجسام مختلف عناصر کے گندے اور تعفن زدہ مادے سے اٹھنے والے بخارات سے پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان میں غلیظ قسم کی رو عین ڈالی جاتی ہے جن کا معنی فساد ہوتا ہے۔ بہر حال خلق اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جس کے ذریعے وہ پہلے سے موجود مادہ سے کوئی نئی چیز پیدا کرتے ہیں۔

صفت تدبیر

جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر کام کرتی ہے۔ پیدائش کے بعد انسان، حیوان، پندروں اور درندوں کا بتدریج جوانی کی عمر تک پہنچنا اور پھر بڑھاپے میں اس کے اعضاء کا کمزور ہو جانا حتیٰ کہ بتدریج موت کی آغوش میں چلے جانا، اللہ تعالیٰ صفت تدبیر ہی کا کام ہے۔ اسی طرح نباتات اور درختوں کی پیدائش کے بعد انہیں بڑھانا ان میں پھل پیدا کرنا اور پھر اپنی مقررہ مدت پوری کر کے ختم ہو جانا سب اسی صفت کا کام ہے۔ کائنات میں موجود چاند، سورج اور دیگر سیاروں کو ایک مربوط نظام کے تحت چلانا، دن اور رات کا آگے پیچھے ہونا اور کبھی بڑے اور کبھی چھوٹے ہونا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسا، چاند اور سورج کا گھٹنا جانا سورج کا ہمیشہ یکجا رہنا جب کہ چاند کا بڑھتے گھٹتے رہنا، ہر ہر کام کی تدبیر اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر ہی کی مرہونِ منت، اس کا اپنا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَيَّ الْأَرْضِ (آل عمران)

جو آسمان سے لے کر زمین تک کے تمام معاملات کی تدبیر کرتی ہے۔

ابداع اور خلق کے بعد صفت تدبیر تیسرے مرحلے میں کام کرتی ہے

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عرش الہی کے نیچے حظیرۃ القدس میں تمام

صفت تدبیر

انسانیت کا ایک مجسم نمونہ پایا جاتا، اس کو امامِ نوحِ انسانی یا روحِ اعظم کہتے ہیں۔ اسی نمونے پر دنیا میں ہر انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں آتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب چوتھے چلے میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو روح اس میں ڈالی جاتی ہے وہ روحِ اعظم کا عکس ہوتا ہے اور اس عکس میں اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا عکس بھی ہوتا ہے جو عرش پر پڑتی ہے اور پھر اس کا اثر خطیرۃ القدس کی معرفت روحِ اعظم میں بھی ہوتا ہے اور یہی اثر پھر ہر انسان کی روح میں بھی آتا ہے۔ مقصد یہ کہ ہر نمونہ لود کی روح میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اعظم کا عکس ضرور پایا جاتا ہے جسے تدلی کا نام دیا گیا ہے۔ تجلی اعظم کے عکس کے اثر کی وجہ سے ہر انسانی روح کی کشش اُپر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اس دنیا کے مادی دھندوں میں پھنس کر انسانی روح کی حالت ایسے نیم بہوش شخص کی سی ہوتی ہے۔ جسے کلوروفارم سونگھا دیا گیا ہو۔ جس دن اس کلوروفارم کا اثر زائل ہو جائے گا تو آدمی کو ہوش آ جائیگا۔ اور تجلی اعظم کا عکس انسان کو اُپر کی طرف کھینچے گا۔ پھر اگر اس نے اس دنیا میں رہ کر ایمان حاصل نہیں کیا تو اس کا اُپر جانا نہایت دشوار ہو جائیگا اور وہ اُپر کی بجائے نیچے کی طرف جائیگا جسکی وجہ سے اُسے سخت تکلیف ہوگی البتہ جس نے خطیرۃ القدس میں موجود نمونہ کے مطابق زندگی بسر کی ہوگی، اُسے تجلی اعظم کی کشش آسانی سے اُپر عالم بالا میں لے جائیگی۔ بہر حال شاہ صاحب کی حکمت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی چوتھی صفت تدلی ہے جس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔

انسانی قلب

جس طرح انسان کی روح میں تجلی اعظم کا عکس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے قلب میں بھی تجلی اعظم کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی طرح انسانی قلب بھی بڑا پیچیدہ (COMPLICATED) عضو ہے۔ ابھی تک سائنس نے انسانی دماغ کے ۲۵ فیصد سے زیادہ کا مطالعہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا غامض بنایا ہے۔ ہزاروں آپریشن اور تجربات ہو چکے ہیں مگر

سے برابر اور منزہ ہے اس کی طرف اولاد کی نسبت کیسے کی جا سکتی ہے
 اُسے بیوی اور اولاد کی آخر ضرورت بھی کیا ہے۔ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
 وہ تو خود ہر چیز کا خالق ہے۔ کائنات اور اللہ کے درمیان خالق اور مخلوق کی
 نسبت ہے۔ جو چیز مخلوق ہے وہ خالق کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد
 تو ہم جنس ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی جنس سے کوئی دوسری ہستی نہیں ہے وہ
 یکتا ہے اور لاشریک ہے۔ فَرَمَا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 اور وہ ہر چیز کو جاننے والا یعنی علیم کل ہے۔ اُس کی نظروں سے کوئی چیز
 اوجھل نہیں۔ وہ ہر شخص کی نیت اور ارادے تک سے واقف ہے
 اُس کی اولاد ثابت کرنا اُس کا شریک ٹھہرانا ہی ناقابلِ معافی جرم ہے۔

اللہ کی
 وحدانیت

فَرَمَا ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے
 جو تمہیں پیدا کر کے بتدریج درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا لا إله إلا هو اس کے
 سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو موجود اور علیم کل ہو۔
 چونکہ یہ صفات کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتیں، اس لیے اُس کے
 سوا معبود بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ پھر فرمایا کہ ہر چیز کا خالق
 وہی اللہ ہے فَاعْبُدُوهُ لہذا عبادت بھی اسی کی کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ
 کے علاوہ جن، فرشتے، انبیاء وغیرہ سب مخلوق ہیں اس لیے ان میں سے
 کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب اسی کی عبادت کرنے پر مامور ہیں۔ عبادت
 انتہائی درجے کی عاجزی کا نام ہے اور عاجزی کا اظہار زبان، قلب، اعضاء
 اور مال سے ہوتا ہے لہذا ہر قسم کی زبانی، قلبی، مالی اور بدنی عبادت کے لائق
 صرف وہی وحدہ لاشریک ہے۔ آخر اس کی عبادت اور انتہائی تعظیم کیوں
 نہ کی جائے جب کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہر چیز کا کارساز
 بھی وہی ہے۔ بگڑھی کو بنانے والا وہی ہے۔ ہر چیز کا تصرف اسی کے
 پاس ہے، لہذا ہر قسم کی حاجت براری کے لیے ہاتھ بھی اسی کے سامنے

پھیلانا چاہیے۔ سورۃ مزمل میں فرمایا "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا" چونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا ہر کام میں کارساز بھی اسی کو کہہ دو۔ وہی تمہارے کام بنائے گا اور وہی بگاڑے گا۔ یہ صفت صرف اسی کے لیے خاص ہے باقی سب اس کے عاجز بندے ہیں۔

رؤیت الہی

یہ بات عام تعلیم کے دوران بھی سمجھائی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ غیر مرئی ہے اس کائنات میں کوئی شخص اس کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بھی فرمایا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَاللَّهُ تَعَالَى كُودِيَةٌ أَنْتَهِن دِيكْهَتِي سِي قَاصِرِي۔ اس مادی جہان میں انسانی آنکھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، البتہ دوسرے جہاں میں اہل ایمان کو رؤیت الہی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں كَمْ تَرَوَا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا مَرْنِي سِي سِي لِي تَمِ اِنِي رَب كُودِيَةٌ دِيكْهِي سَكْتِي۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے رؤیت کا مطلق انکار کیا ہے مگر ایسا نہیں بلکہ اس عدم رؤیت کا تعلق اس جہان سے ہے۔ اسی اشتباہ کی وجہ سے یہ اختلاف بھی پیدا ہوا کہ معراج کے موقع پر بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تھا یا نہیں۔ اس ضمن میں شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ آخرت دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک زمان اور دوسری مکان ہے۔ آخرت کا زمانہ تو جب آئے گا جب قیامت برپا ہوگی، البتہ اس کا مکان عالم بالا میں ہے۔ معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رؤیت اس دنیا کے مکان میں نہیں بلکہ عالم بالا میں ہوئی تھی۔ وہ تو حظیرۃ القدس کا مقام تھا جس کے متعلق آتا ہے "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ" بہر حال اس جہاں کا ذکر ہے، اس مادی دنیا میں رؤیت الہی ممکن نہیں۔

فرمایا تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پاسکتیں وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ آنکھوں کو پاتا ہے۔ اس کی نظر ہر چیز پر ہے، کوئی چیز اس کی نظروں

سے پوشیدہ نہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ رؤیت اور ادراک دو مختلف چیزیں ہیں۔ رؤیت سے مراد سطحی نظر سے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہ ادراک سے مراد کسی چیز کا کھل طور پر احاطہ ہوتا ہے یہاں پر ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی یہ انسانی آنکھیں اس کا پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتیں اور یہ چیز تو اگلے جہان میں بھی ممکن نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے جس کا احاطہ ممکن ہی نہیں۔ البتہ اس کے نیک بندوں کو تجلی نظر آئے گی جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے، یہی رؤیت ہوگی۔ معراج کے واقع میں بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا رَأَيْتُ نُورًا فَسَجَدْتُ لَهُ میں نے نور دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ بہر حال آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نصیب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اسی کو رؤیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لطیف کے دو معنی آتے ہیں۔ یعنی مہربانی کرنے والا اور بہت زیادہ لطافت والا اور باریک بین خیر سے مراد ہر چیز کی خیر رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ دونوں صفات ذات واحد رب العالمین میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی لطیف ہے کہ اس کی نظر ہر چھوٹی سے چھوٹی اور مخفی سے مخفی چیز پر ہو اور نہ کوئی علیم کل ہے اسی طرح اس کے علاوہ نہ کوئی بدیع ہے اور نہ خالق۔ یہ تمام صفات اسی کے ساتھ خاص ہیں لہذا معبودِ برحق بھی وہی ہے۔

قَدْ جَاءَكُمْ بِصَٰئِرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ
 فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
 بِحَفِيفٍ ۚ ۱۰۴ ۝ وَكَذٰلِكَ نَصْرَفُ الْاٰیٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دِرْسَتْ
 وَلِنُبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يُعْلَسُوْنَ ۝ ۱۰۵ ۝ اَتَّبِعْ مَا وُحِيَ
 اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ
 الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ۱۰۶ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا ۚ وَمَا
 جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ
 بِوَكِيْلٍ ۝ ۱۰۷ ۝

ترجمہ :- تحقیق آچھی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی

باتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ جس نے دیکھا (بصیرت

کی باتوں کو) پس اپنے نفس کے فائدے کے لیے۔ اور جو

اندھا بنا رہا، پس اُس پر پڑے گا اُس کا وبال۔ اور

نہیں ہوں میں تم پر ننگھبان (۱۰۴) اور اسی طرح ہم پھیر پھیر

کہ بیان کرتے ہیں دلائل اور تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے

پڑھا ہے۔ اور تاکہ ہم بیان کر دیں اُس کو ان لوگوں کے لیے

جو دانش ور ہیں (۱۰۵) (اے پیغمبر) آپ پیروی کہیں اُس چیز

کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی

جانب سے نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا

اور آپ اعراض کہیں شرک کرنے والوں سے (۱۰۶) اور آگہ
اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے ، اور نہیں بنایا ہم نے
تمہیں ان پر نگہبان اور نہیں ہیں آپ ان پر وکیل (۱۰۷)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد میں عقلی اور نقلی دونوں قسم کے
دلائل بیان فرمائے اور ان کا ذکر آگے بھی آئے گا سابقہ کتب کا ذکر بھی ہو چکا ہے اور
اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو مختلف قسم کے انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر بھی ہو چکا ہے
کائنات کی تخلیق اور اس کے چلانے والے نظاموں کے متعلق بیان ہو چکا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل قدرت بیان کر کے اپنی ذات و صفات کو سمجھنے کی
تعلیم دی ہے۔

اس سے پہلے انسان کی تخلیق ، رات دن کے اختلاف ، چاند اور سورج
کی مسافت ، ستاروں اور سیاروں کے مربوط نظام۔ آسمان سے بارش کے نزول
اور اس کے ذریعہ سبزے ، اناج اور پھلوں کی فراوانی خاص طور پر کھجور ، انگور ، زیتون ،
اور انار کا تذکرہ کر کے انسان کی توجہ ان دلائل قدرت کی طرف دلائی گئی ہے ، کہ
ان چیزوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے اور انسان ایمان
قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ان واضح
دلائل کے باوجود جنوں ، فرشتوں اور انسانوں میں سے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں
ہیں حالانکہ نیست سے ہست کرنے والا ، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اور ہر
چیز کی تدبیر کرنے والا وہی وحدہ لا شریک ہے جب یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ میں
پائی جاتی ہیں تو معبود برحق بھی وہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔

بصیرت کی
باتیں

الغرض ! اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد فرمایا
ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ تَحْقِيقُ تَمَّاءِے پَس

تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی باتیں آچکی ہیں۔ بصارت آنکھ کی روشنی کہتے ہیں اور بصیرت سے مراد انسان کے دل کی روشنی، علم اور یقین ہے جب کوئی شخص دل کی آنکھوں سے کوئی چیز پالیتا ہے تو اسے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں بصارت سے مراد وہی عقلی اور نقلی دلائل ہیں جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ہر نشانی صاحب عقل و ضرر انسان کے دل میں بصیرت پیدا کر دیتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا تمہارے دل کو روشن کر دینے والی بصیرت کی باتیں تمہارے پاس آچکی ہیں فَمَنْ أَبْصَرَ جس نے ان واضح دلائل کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا فَلِنَفْسِهِ پس یہ اس کی اپنی بہتری کے لیے ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لے گا۔ اس کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچے گا، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی قربت کا مستحق ہو جائے گا، اس کا شمار مقربین کے گروہ میں ہوگا، وہ بہترین سوسائٹی کا فرد اور حظیرة القدس کا ممبر بن جائے گا۔ جو ایمان لاکر نیکی کا اہتمام کرے گا، اس کا فائدہ خدا تعالیٰ کو تو نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے، البتہ اس کا فائدہ خود مومن ہی کو پہنچے گا۔

فرمایا وَمَنْ عَمِيَ اور جو اندھا بنا رہا۔ نہ عقلی دلیل پر غور کیا اور نہ نقلی دلیل کو سمجھا، اس نے ہر طرف سے آنکھیں بند کر لیں یعنی جو شخص دل و دماغ کو بروئے کار ہی نہ لایا، وہ اللہ کی وحدانیت کو کیسے پاسکتا ہے۔ حقیقت میں ایسے شخص کا دل اندھا ہو چکا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے۔ سورۃ حج میں اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔ عام طور پر علم، ایمان اور نیکی

دل کا اندھا

کے بارے میں دل اندھے ہوتے ہیں۔ جب دل ہی اندھے ہو جائیں تو بصیرت کیسے آسکتی ہے۔ بصیرت تو غور و فکر، طلب اور جذبے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے مگر جس شخص نے ان چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں وہ حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی سوچ کی روشنی میں اپنی آنکھیں بند کر کے خود اندھا بن جائے۔ ایسی صورت میں اُسے کوئی چیز نظر نہیں آئیگی اور وہ ہر بھلائی سے محروم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی لیے فرمایا، جو شخص خود اندھا بنا رہے فَعَلَيْهَا تو اس کا وبال اسی کی ذات پر پڑے گا۔ کسی دوسرے شخص کا کچھ نہیں جائیگا۔ ایسا شخص ایمان، نیکی اور بالآخر نجات سے محروم ہو جائیگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اور بدی کا قانون اس طرح سمجھایا ہے لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة) اگر انسان اچھے کام سے لگا تو ان کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور اگر بُرے کام کرے گا تو نقصان بھی خود ہی اٹھائے گا۔ ہر بُرے کام کا وبال بُرائی کو پہنچے گا، نہ کہ کسی دوسرے شخص پر۔ امام ابوحنیفہؒ فقہ کی یوں تعریف کرتے ہیں معرفة النفس ما لها وما عليها یعنی انسان کا نفس اپنے لیے ہر مفید اور نقصان دہ چیز کو جان لے، امام صاحب نے حدیث شریف کی تعریف میں فرمایا ہے معرفة قول الرسول و فعله و تقريره یعنی حضور علیہ السلام کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے تقریر اس عمل کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو، مگر آپ نے اُس سے منع نہ کیا ہو۔ بہر حال سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی اچھائی اور بُرائی سے واقف ہے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ جو کوئی بصیرت حاصل کرنے سے لگا۔ اُس میں اسی کا فائدہ ہوگا اور جو اندھا بن جائیگا، وہ خود اپنے نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

تفقه فی الدین

حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی میں دو چیزیں نایاب ہوتی ہیں، ایک حسن خلق اور دوسری تفقه فی الدین جس شخص

کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ بھی منافق ہے اور جسے دین کی سمجھ نہیں، وہ بھی منافق ہے۔ اعتقادی منافق تو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہی تھے۔ آپ کے زمانہ میں منافق کی پہچان وحی کے ذریعے ہو جاتی تھی مگر اب اعتقادی منافق کا علم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود ظاہر نہ کرے۔

البتہ عملی منافقوں سے دنیا بھری پڑی ہے۔ ہر بد اخلاق اور دین سے بے بہرہ منافق ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَنْ يَسْرِدِ الْمَلَأَ بِهِ خَيْرًا يَعْقِبُهُ فِي الدِّينِ جَسْ شَخْصٍ سَلَّمَ تَعَالَى بِجَلَالِي كَارَاهٍ رَكَبْتُهُ اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ ایسے شخص کو توحید، کفر، شرک، بدعت اور معصیت کی پہچان ہوتی ہے اور وہ دین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے لگتا ہے تو فرمایا جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، یہ وضاحت کرنے کے بعد

فرمایا، اے پیغمبر! آپ ان سے کہ دیں وَمَا آتَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ مجھے اللہ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (المائدة) جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اسے آگے پہنچا دیں۔ میرا کام تو تبلیغ ہے، لوگوں سے زبردستی منوانا نہیں ہے کیونکہ میں تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا۔

فرمایا وَكَذَلِكَ نُنصِّفُ الْآيَاتِ اِسْمِ طَرَحِ بِهْمِ اِسْمِ دَلَائِلِ بَهِرِ بَهِرِ کہ بیان کرتے ہیں۔ کبھی عقلی دلائل دیتے ہیں، کبھی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ کہیں سابقہ اقوام کے حالات بیان کر کے اور کبھی نیک آدمیوں کے واقعات سننا کہ لوگوں کے لیے ترغیب کا انتظام کرتے ہیں اور بری اقوام اور برے لوگوں کے حالات بیان کر کے ترہیب کی صورت پیدا کرتے ہیں۔

غرضیکہ ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہ دلائل اس قدر قوی ہوتے ہیں وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ كَمَا لَوْ ك

یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے پیغمبر! یہ باتیں آپ نے کسی سے پڑھی ہیں۔ یہ اتنی جامع باتیں ہیں کہ کسی سے سیکھے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں درس کا معنی پڑھنا یا سیکھنا ہوتا ہے۔ مگر حضور علیہ السلام تو اٹھی تھے۔ آپ نے کسی سکول، کالج یا یونیورسٹی میں تو تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور ہی آپ کی صداقت کی دلیل تھی۔ ناخواندہ ہونے کے باوجود ایسی ایسی حکمت کی باتیں اللہ کا نبی ہی کہہ سکتا ہے۔ مگر وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کسی دوسرے شخص سے سیکھ کر آتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کہتے تھے کہ آپ تورات، انجیل اور دیگر پرانی کتابوں سے اخذ کر کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سکھاتا تھا۔ بہر حال معترضین کے ایسی باتیں کرنے سے ان پر حجت تمام ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ تم کسی سے سیکھ کر آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو حق کی بات پہنچ گئی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب کل کو یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں اللہ کا سچا پیغام پہنچا ہی نہیں۔

بعض اس لفظ کو دارِ مست بھی پڑھتے ہیں جس کا معنی اسٹاپ جانا یا سٹاپ کر دینا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو پرانی محوشدہ باتیں ہیں۔ ہم ان کو پہلے بھی سنتے آئے ہیں۔ یہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ مفسرین کہہ ام فرماتے ہیں کہ معترضین کا یہ کہنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے احکام ان تک پہنچ گئے اور ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اب وہ انکار نہیں کہہ سکیں گے۔ بہر حال فرمایا کہ ان دلائل کو پھر پھر بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کس سے سیکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے وَلَنْبَيِّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ جو لوگ عقلی اور نقلی دلائل دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں ہم ان کی تقویت ایمان کے لیے ان دلائل کو بار بار بیان کرتے ہیں۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے متبعین کو تسلی دی ہے اور فرمایا ہے اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ایسے نبی علیہ السلام! تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ یہ لوگ تو اعتراض کرتے رہیں گے آپ ان کی پروا کیے بغیر حکم خداوندی کا اتباع کرتے رہیں اور اپنے عقیدے، مشن، اور عمل کو جاری رکھیں۔ اور دیکھیں آپ کی طرف جو وحی نازل کی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا اس کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کی فرمانبرداری کریں۔ اتباع وحی میں سب سے اہم بات یہی ہے، جب کوئی اتباع وحی کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اس کی توحید کا انکار کرتا ہے اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وحدانیت کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو پھر کفر، بدعت اور معاصی آجاتے ہیں اور انسان دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ فرمایا آپ ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اگر پھر بھی یہ شرک پر اصرار کریں وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تو آپ ان سے اعتراض فرمائیں۔ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام دلائل کے ذریعے حق کا راستہ واضح کر دیا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے چاہتے سے مراد یہ ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الخل) اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا مگر یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ وہ کسی کو ہدایت کا راستہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (کہتے ہیں) جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کر لے اس نے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ اب یہ ہر آدمی کی اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ

انسان نفل میں مختار ہے

وہ کونسا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اُس رب العلمین کا قانون تو یہ ہے۔
 "لَا رَاكِبًا فِي الدِّينِ" (ذبقیة) کہ دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہے
 اگر اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی دین کی طرف لے آتا تو یہ جبری ایمان ہوتا
 جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔

پھر اللہ نے وعید بھی سنائی کہ اگر کفر کر دو گے تو آگے تمہارے لیے
 جہنم بھی تیار ہے اور اگر ایمان لاؤ گے تو کامیابی کی بشارت بھی موجود ہے
 "فَاِنْ اَتَيْتُمْ وَ اِيْرَضَتْ لَكُمْ" (النمر) اگر شکر کرو گے تو
 اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گا وَا لَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ" (النمر)
 اور کفر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہرگز راضی نہیں ہوتا۔ البتہ جس طرف کوئی
 جانا چاہیے، وہ اُسکی توفیق سلب نہیں کرتا بلکہ اُس کا فرمان ہے "لَوْ لَدِ
 مَا تَوَلَّوْا" (النساء) جدھر کوئی جانا چاہتا ہے ہم اُس کو اُسی طرف پھیر دیتے
 ہیں۔ تاہم برائی، کفر، شرک کا انجام بُرا ہو گا۔ اُس نے اچھا اور بُرا راستہ واضح کر کے
 تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اور ہر قسم کے وسائل اور دلائل دے کر تمہیں چھوڑ
 دیا ہے کہ جس راستے پر جانا چاہو، چلے جاؤ۔ "وَنَبَلُوْكُمْ بِالْمَشْرِ
 وَالْحَيْثُ فِتْنَةً" ہم تمہیں نیکی اور بدی کے ذریعے آزماتے ہیں (الانبیاء)

نبی کی ذمہ داری

فَرَايَا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْعِلْمُ عَلَيْهِمُ الْيُكُلُ
 ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ لِيُكُلُ
 اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ نہ تو آپ ان کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتے
 ہیں اور نہ ہی آپ پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے
 سورۃ غاشیہ میں ہے "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّطٍ" آپ ان
 پر کوئی داروغہ نہیں ہیں جو پکڑ کر ایمان کی طرف لے آئیں گے۔ مَا اَنْتَ
 عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ" (ق) آپ ان پر زبردستی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ماننا
 یا نہ ماننا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ حضور علیہ السلام

کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی طرف سے بدلہ پر داشتہ نہ ہوں۔ وہ
اپنے بڑے انجام کے خود ذمہ دار ہیں "وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ
الْجَحِيمِ" آپ سے اہل دوزخ کے متعلق کوئی سوال نہیں ہو گا۔ بلکہ ان
سے پوچھا جائے گا "مَا سَأَلَكَ وَوَفِّ سَقَاتٍ" (مذمت) کہ تم جہنم میں
کس وجہ سے پہنچے۔ آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ایمان قبول کرنا یا نہ
کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے جس کے لیے یہ خود جوابدہ ہیں۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
 اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
 عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُوا
 بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ
 أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَنَقَلِبْ أَفْدَانَهُمْ
 وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ
 نَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾

تَحْبِبُكُمْ - اور (اے اہل ایمان!) تم بڑا نہ کہو اُن
 کو جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ پس
 وہ بڑا کہنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کو تجاوز کرتے ہوئے
 نادانی سے۔ اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے ہر امت کے لیے
 ان کا عمل۔ پھر اُن کا اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر
 جانا ہے، پس وہ بتلائے گا اُن کو جو کچھ وہ کیا کرتے
 تھے ﴿۱۰۸﴾ اور قسمیں اٹھائیں اُن لوگوں نے اللہ کے نام
 کی پختہ قسمیں کہ اگر آئیگی اُن کے پاس کوئی نشانی تو

ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے
 بیشک نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور (اے ایمان والو) تم
 کو کیا معلوم کہ جب وہ نشانیاں آجائیں تو یہ لوگ ایمان
 ہی لے آئیں گے (۱۰۹) اور ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو
 اور ان کی آنکھوں کو اس طرح کہ جس طرح وہ نہیں
 لائے اس پر پہلی مرتبہ۔ اور ہم چھوڑتے ہیں ان کو، وہ
 اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں (۱۱۰)

ربط آیات

گذشتہ دروس میں شرک کی تردید اور توحید کے اثبات میں عقلی اور نقلی دلائل پیش
 ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ان دلائل کی وجہ سے انسان میں جو بصیرت پیدا ہوتی ہے وہ
 تمہارے پاس پہنچ چکی ہے جو اُسے دیکھے گا تو اسی کی بہتری ہے اور جو خود آنکھیں بند
 کر کے اندھا بن جائے گا۔ اُس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی ذمہ داری نہیں
 ہے کہ کسی کو بُرائی سے زبردستی منع کرے یا کسی کے دل میں لازماً ایمان ڈال دے
 البتہ تمام حجت تمام انبیاء اور ان کے متبعین کی ذمہ داری میں شامل ہے انہوں
 نے تمام دلائل بیان کر کے ہدایت کا سامان کر دیا ہے انہوں نے ہر چیز کو وضاحت
 کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اب اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ بُرے نتائج کا خود
 ذمہ دار ہے۔ نبی اُس پر وکیل یا دروغہ نہیں کہ اُسے زبردستی منائے، فرمایا، نبی کا
 کام یہ ہے کہ وہ اتباع وحی کر لے جس میں اہم ترین بات اللہ کی وحدانیت ہے
 اس کو لازم بکھڑیں اور مشرکین کو زیادہ خاطر میں نہ لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو جبراً ہدایت
 دیتا، تو وہ دے سکتا تھا مگر یہ اُس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر
 انسان کو قوی ظاہرہ اور باطنہ عطا کیے ہیں عقل و فہم عطا کیا ہے اور پھر اُس کو اختیار دیا
 ہے۔ اب یہ اُس کی مرضی ہے کہ ایمان قبول کرے یا کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے
 وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، اُس کا بھگتان خود کرے گا۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا اور

سمجھا دینا ہے۔ یہ لوگ اگر ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کفر
 شرک اور بد عقیدگی میں مبتلا ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر عاید نہیں ہوتی۔
 فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں بعض اوقات بحث مباحثہ بھی کرنا پڑتا ہے اور
 کفار سے مناظرہ کی نوبت بھی آتی ہے مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ غصے یا ناراضگی
 میں آکر کفار کے معبودوں یا مقتداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، کیوں ایسے کرنے سے
 وہ لوگ ضد اور عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں تمہارے معبودِ برحق کو برا بھلا نہ
 کہنے لگیں۔ فرمایا عین ممکن ہے کہ یہ لوگ جہالت اور نادانی کی وجہ سے واجب التعظیم
 خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے لگیں یا انبیائے کرام اور بزرگانِ دین کی بے ادبی
 کے مرتکب ہوں۔ لہذا آپ ان کے معبودانِ باطلہ کے حق میں بھی بڑے الفاظ
 استعمال نہ کریں۔ دوسرے مقام پر جہاں تبلیغ کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہاں
 بھی یہی نصیحت کی گئی ہے کہ کسی دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے نرمی
 کا طریقہ اختیار کریں۔ اگر آپ سختی کریں گے تو ان میں چڑچڑاہوگی اور وہ
 مزید دور ہو جائیں گے۔ چنانچہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوتا ہے: "ادْعُ إِلَى
 سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"
 آپ حکمت اور دانشمندی کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت
 دیں۔ اور اگر بحث مباحثہ اور مناظرہ بھی کرنا پڑے "وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ" تو بہتر طریقہ اختیار کریں اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں
 ان کے معبودانِ باطلہ کو برا بھلا نہ کہیں کہ اس کا کوئی خراب نتیجہ برآمد نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 اور نہ برا بھلا کہیں ان کو جن کی مشرکین اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں۔ الَّذِينَ
 سے معبودانِ باطلہ مراد ہیں۔ جن کو یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے
 پکارتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کو برا بھلا کہا گیا، تو یہ لوگ چڑچڑاہیں گے اور ضد اور
 عناد کا مظاہرہ کریں گے قَلْبُتُّوا اللَّهَ پس وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔

اخلاقِ تعلیم

برا بھلا کہنے
 کی ممانعت

جو کہ معبود برحق ہے عَدُوًّا وَحَدًّا سے تجاوز کرتے ہوئے بِغَيْرِ عِلْمٍ نَادَانِي اور جہالت کی وجہ سے۔ چنانچہ مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن پاک، جبرائیل علیہ السلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھی ^{بیشمار} طراز کے مرتکب ہوتے تھے۔ اسی لیے حکم ہوا کہ ان کے باطل خداؤں کو بھی بُرا بھلا نہ کہو۔ مکی زندگی کے دوران چونکہ مشرکین کا غلبہ تھا اس لیے وہ ہر جیلے بہانے سے اہل ایمان کو تنگ کرتے تھے۔ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی قرأت کے متعلق بھی فرمایا وَلَا تَجْمَعُوا لَكُمْ وَلَا تَخَافُوا رَبَّكُمْ وَلَا تَحَافُوا يَوْمَ تَخَافُ رَبَّكَ يَوْمَ تَتَمَنَّوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرَ بَعْدَ اِيْمَانِهٖ سَيُجْزَىٰ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاَيْمَانِ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ يَخُوفُوْنَ الْعَذَابَ الَّذِيْنَ وَعَدَّ اللّٰهُ لِمُنَافِقِيْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاَيْمَانِ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ يَخُوفُوْنَ الْعَذَابَ الَّذِيْنَ وَعَدَّ اللّٰهُ لِمُنَافِقِيْنَ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاَيْمَانِ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ يَخُوفُوْنَ الْعَذَابَ الَّذِيْنَ وَعَدَّ اللّٰهُ لِمُنَافِقِيْنَ ۗ

آپ نہ تو اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں کہ مشرکین کی طرف سے شر کا خطرہ ہو اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں، فرمایا ان دونوں حالتوں میں اعتدال کی راہ اختیار کریں۔ غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے معبودانِ باطلہ کو بُرا بھلا کہنے سے منع فرمایا، البتہ کفر و شرک جیسے قبیح جرم کی تردید کا فریضہ انجام دیتے رہنے کی تلقین فرمائی کہ توحید کی دعوت آپ کا فریضہ منصبی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ معبودانِ باطلہ کو بُرا بھلا کہنا نہ تو فرض واجب ہے اور نہ ہی ناجائز، بلکہ مباح ہے۔ اور اگر مباح چیز کو اختیار کرنے میں بڑی قباحت پیدا ہونے کا احتمال ہو تو مباح کا ترک کر دینا بھی روایے مطلب یہ کہ اگر معبودانِ باطلہ کو بُرا بھلا کہنے سے خدا تعالیٰ یا انبیاء کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو پھر اس مباح کو ترک کر دینا چاہیے۔ البتہ فرض اور واجب کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کیا جاسکتا توحید کی اشاعت ہر حالت میں لازم ہے مگر اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کفار اپنے معبودوں کی تحقیر کا پہلو نکال سکتے ہوں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے سبیت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہے مَلْعُوْنَ مَنْ سَبَّ وَآلِدَيْهِ جو شخص اپنے والدین کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے

ترکِ مباح
کی اجازت

صحابہ کرامؓ نے تعجب کیا، حضور! ایسا شخص کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے
 فرمایا، جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا
 اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب تم خود بنے

اور تم ہی اپنے والدین کے خلاف دشنام طرازی کا باعث بنے ہی اپنے
 والدین کو گالی دینا ہے۔ اسی اصول کے تحت اس مقام میں معبودانِ باطلہ کے
 متعلق ایسی ویسی بات کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کے جواب میں مشرکین
 کی طرف سے خدائے لم یزل کی شان میں گستاخی کی جاسکتی ہے۔

سبیت ہی کے ضمن میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کا مسئلہ بھی آتا ہے
 حضور علیہ السلام کے دعوتِ نبوت سے پہلے مشرکین نے بیت اللہ شریف

کی تعمیر ابراہیمی بنیادوں پر کرنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیا تھا جو اب بھی
 حطیم کی صورت میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے فرمایا لولا قومك حدیث عہد بکفی اگر تیری قوم نئی نئی کفر
 سے نہ نکلی ہوتی تو میں ضرور اُسے گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ مگر لوگ

نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان میں بذطنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے
 نیز یہ کہ میرے پاس شرحِ چہ بھی نہیں ہے، لہذا میں نے بیت اللہ شریف

کی تعمیر نو کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ آپ کے زمانہ مبارک کے بعد حضرت
 عبداللہ بن زبیرؓ نے اصل ابراہیمی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی مگر

مردانیوں نے اس کو قبول نہ کیا اور دوبارہ اُسے حضور علیہ السلام کے زمانہ کی
 تعمیر کے مطابق کر دیا۔ خانہ کعبہ کی چھت اور فرش تو تبدیل ہوتا رہا ہے۔

مگر اس کے مسقف رقبہ میں کوئی کھی بیشی نہیں ہوئی اور حطیم والا حصہ
 آج تک بستور کمرے سے باہر ہے۔ بہر حال اس کے بعد علمائے کرام

نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ یہ فتویٰ اس
 لے بخاری ص ۲۱۵ ج ۱ (فیاض)

سبب سے تھا کہ اگر ایک دفعہ اس کی تعمیر نو کی اجازت سے دی گئی تو پھر
 خلاق اور سلاطین اس کو کھیل بنالیں گے اور تعمیر آئے دن تبدیل ہوتی رہے گی
 چنانچہ خانہ کعبہ کی موجودہ تعمیر انہی پتھروں اور اتنی جگہ پر ہوتی رہی ہے۔

اپنے عمل
 کی پسندیدگی

آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عام طبعی رحمان کی طرف اشارہ فرمایا ہے
 کہ ہر شخص، قوم اور فرقہ اپنے اعمال کو ہی بہترین سمجھتا ہے قطع نظر اس کے
 کہ اس میں واقعی کوئی خوبی ہے یا وہ سراسر باطل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ اسی طرح ہم نے

ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے۔ ہر قوم اپنے اعتقادات

اور رسم و رواج کو ہی بہتر سمجھتی ہے۔ مشرکین کے نزدیک شرک بھی ایک

بہت اچھا کام ہے۔ بدعتی بدعت کے کام پر نازاں ہے۔ کافر اپنے معبودان

باطلہ کی پوجا کر کے خوش ہے غرضیکہ ہر امت کا یہ دستور چلا آرہا ہے کہ وہ

اپنے اپنے اعمال کو اچھا خیال کر کے اس پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ پہلے اس سورۃ

میں بھی گزیر چکا ہے "وَزَيْنٌ لَّهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ" ظاہر اسباب کے سلسلے میں شیطان نے ان کے اعمال

کو بڑا مزین کر کے دکھلایا ہے۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، لہو و لعب میں مصروف

ہے، شراب نوشی کرتا، بدعات پر عمل پیرا ہے، قبروں پر گنبد بناتا ہے،

چادر میں چڑھاتا ہے، شیطان کہتا ہے تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، ایسے ہی

کرتے جاؤ۔ ہر فرقہ اپنے قبیح اعمال کو بھی نہایت اچھے اعمال سمجھ کر انجام سے

رہا ہے اور نہیں سمجھتا کہ شیطان نے اس کے اعمال پر ڈاکہ ڈال رکھا ہے

شرک کی جتنی اقسام ہیں، سب نیکی اور کارِ ثواب سمجھ کر انجام دی جاتی ہیں

فرمایا دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے گا۔ "وَلَا يَنَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اٰخْتِلَافِ

مُنَىٰ كُوْنِي صُوْرَتِ نَظَرٍ نِهِيں آتی، یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ سورۃ حج میں

فرمایا اللہ يَجْزِيكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمِمَّا

كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ“ تبارت کے دن اللہ تعالیٰ قطعی فیصلہ کرے گا اُس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینِ حق اور اس کے دلائل کو بالکل واضح کر دیا، جو شخص منصف مزاج ہوگا، وہ ذرا سا بھی غور کرے گا تو حقیقت کو پا لے گا۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے ”قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ نیچی اور بدی میں امتیاز ہو چکا ہے، لہذا کسی کو اشتباہ باقی نہیں رہنا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔

خوب اچھی طرح سن لو، اب کوئی بات مخفی نہیں رہتی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوا یا علی بصیرۃ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي (سورۃ یوسف) میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں۔ اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عقیدہ عمل اور طور طریقہ بالکل برحق ہے۔ ہم اندھیرے میں نہیں بلکہ بصیرت پر ہیں تاہم ہر مذہب اور فرقہ یہی دعوے کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے خواہ وہ کفر و شرک پر ہو یا بدعات کا پیروکار۔ ہر امت کے ذہن میں ان کے اعمال مزین ہوتے ہیں۔

پھر کیا ہوگا، فرمایا ثُمَّ اِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ سب کو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس وہ قبلائے گا وہ باتیں، جو وہ کیا کرتے تھے۔ سب لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا یہ ہیں تمہارے اعمال جنہیں میں نے گن کر رکھا ہوا ہے۔ اب ان کا بھگتان کرو۔ تو جس طرح انسان کی پیدائش اور اس کا اپنا وجود قطعی ہے اسی طرح جزائے عمل بھی لازم ہے۔ اس امتحان سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔

آگے مشرکین کے مطالبے کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی مرضی کی نشانی دیکھنا

چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
اللہ کے نام کی بڑی سچتہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں۔ کہیں جَاءَتْهُمْ
آیۃٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا لَكِن لَّآئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا لَكِن لَّآئِن جَاءَتْهُمْ
ایمان لے آئیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان

کی خواہش کے مطابق

معجزہ پیش کیا جائے۔ کہتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ
پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دکھایا اور صالح علیہ السلام نے پتھر سے
اونٹنی نکالی، اگر اسی طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو، تو ایمان قبول کر لیں گے۔ مومن
لوگ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کا کوئی معجزہ ظاہر فرمائے۔ تو شاید
یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہر روز کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ مشرکین کا
مطالبہ تھا کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے۔ ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ مکے
کی سرزمین کو بھول کر دیا جائے، یہاں پہاڑیں جاری ہوں اور کھیتی باڑی ہونے لگے۔
مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض مطالبات کی منظوری
کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست بھی پیش کی۔ تو مالک الملک
نے جواباً فرمایا کہ آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا، تاہم اگر انہوں
نے پھر بھی انکار کیا تو پھر میں فوری طور پر سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اللہ نے
یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ پسند کریں تو ان کی فرمائش پوری کرنے کی بجائے ان
پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ کبھی نہ کبھی ایمان لے آئیں اس پر حضور علیہ السلام
نے عرض کیا، مولانا کریم! مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان کی منہ مانگی فرمائش پوری کرنے
کی بجائے ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھ۔ سورۃ مائدہ میں بھی اس قسم کا تذکرہ
آپ پڑھ چکے ہیں۔ نزول مائدہ کی فرمائش پر اللہ نے فرمایا کہ میں یہ فرمائش
پوری کرتا ہوں اور اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے فَاِنَّ اَعْدَابَهُ عَذَابًا لَّا

أَعَذِبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ“ تو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسی سزا نہ ملی ہو۔ چنانچہ ماڈرن نازل کرنے کے بعد بھی جن لوگوں نے نافرمانی کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے فوری سزا میں مبتلا کیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور پھر وہ ہلاک کر دیے گئے۔ فرمایا یہ لوگ پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ معجزات پاکہ فوراً ایمان لے آئیں گے۔ فَلْ لَّيْ نَعْمِيرُ! أَلَا تَسْمَعُونَ مَا آتَىٰ عِندَ اللَّهِ بِشِكِّ

نشانی کا ظاہر کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اس نے اس سے پیشتر سینکڑوں معجزات ظاہر کیے ہیں مگر فرمائشیں پوری نہیں کیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہر خواہش مند کی خواہش کے مطابق نشانی ظاہر کرے۔ البتہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب ضرورت ہوتی ہے

کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے مگر وَمَا يُشْعِرُكُمْ تَمَّ حَقِيقَتِ حَالِ سے واقف نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ نشانی دیکھ کر فوراً ایمان قبول کر لیں گے ایسا نہیں ہے، اللہ ان کے باطنی حالات کو خوب جانتا ہے تمہیں کیا معلوم

ہے أَنهَآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ جب وہ نشانیاں آجائیں تو یہ لوگ ایمان ہی لے آئیں گے۔ اگرچہ یہاں پر الفاظ لَا يُؤْمِنُونَ ہے

مگر مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ یہ لازماً ہے اور اس کو لاصلاً کہتے ہیں۔

اس لیے اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ نشانی دیکھ کر وہ ضرور

ایمان لے آئیں گے اس کی مثال اس طرح ہے وَحَرَّأَمْرًا عَلَىٰ قَوْمٍ

أَهْلَكْنَاهَا أَنهَمُ لَا يَرْجِعُونَ“ (انبیاء) جس لہجہ کو ہم نے

ہلاک کیا، حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آئیں۔ یہاں بھی لازماً ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر أَهْلَكْنَاهَا کا لفظ لَعَلَّ کے معنی میں

آیا ہے۔ عربی زبان میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر أَهْلَكْنَاهَا کے یہ معنی لیے جائیں

تو مفہوم ہوگا کہ تم کو کیا معلوم شاید یہ لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں۔ عدی

بن زید مشہور عربی شاعر ہوا ہے۔ نعمان شاہ عراق اس کا بہنوئی تھا۔ کسی وجہ سے

ایمان کی
قبولیت

اُس سے ناراض ہو کہ نہی کو جیل میں ڈال دیا۔ نہ مانہ جاہلیت میں اُس نے کہا تھا۔

اعاذل ما یدریک ان مینت

فی ساعتہ الیوم اوفی ضحی القدی

تمہیں کیا معلوم شاید کہ میری موت آج کے دن — واقع ہو جائے یا گل دوپہر سے پہلے مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی اُنکے شاید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں یہ معانی بھی ہوتے ہیں۔

بہر حال اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دہی گئی ہے۔ تم یہ نہ خیال کرو کہ تشانیاں دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے وَنَقِیْبُ
اَفِیْذِ تَهْمُ وَابْصَارُهُمْ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پلٹیاں دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دل اور آنکھوں کو اس طرح پلٹ دیتا ہے کہ وہ نہ تو صحیح بات سمجھ سکتا ہے اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور اگر دیکھتا بھی ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دل کے پلٹ دینے کے متعلق حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلٰی دِيْنِكَ اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہے کہ برائی کرنے کے بعد مطمئن ہو کہ نہ بھٹ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ دل ہی پلٹ دے "وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْوِلُ بَيْنَ الْاَسْمٰی وَوَقَلْبِهٖ" (انفال) بیشک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ پھر دل نیچی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ دل کو الیسا پلٹ دے کہ وہ نیچی کی طرف آ ہی نہ سکے اور ظاہر ہے کہ جو ہٹ دھرمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اُس کے دل کو پلٹ دیگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچی سے اس طور محروم ہو جاتے ہیں۔ كَمَا كَسَمُ

يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰ حَسْرَةٍ عِيسَا كَمَا وَهَّيَ دَفْعَهُ اِيْمَانٍ نَّهِيں لائے تھے
 جس طرح ابتداء میں انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اب نشانیاں دیکھ کر بھی
 ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب پہلی دفعہ قرآن پیش کیا گیا تھا تو
 فوراً ایمان لے آتے، مگر انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے
 ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا ہے اور اب یہ ہر بار انکار ہی کرتے رہیں
 گے۔ اسی چیز کے متعلق سورۃ بقرہ کی ابتداء میں آچکا ہے خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی
قُلُوْبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پھٹے لگا دیے ہیں سورۃ مطفقین
 میں ہے كَلَّا بَلْ سَكَّتْ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ان کے دلوں
 پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کہیں فرمایا بَلْ صَبَحَ اللّٰهُ عَلٰیهَا بِكُفْرِهِمْ
 (نساء) ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب
 یہ راہِ راست پر نہیں آسکتے۔ ان کا ٹھکانا اب جہنم ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایمان
 نہیں لائے۔ ان سے نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی امید نہ رکھیں۔ وَنَذَرُوْهُمْ
 اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں فِي طَغْيَانِهِمۡ لَعَنُوْا یہ اپنی
 سرکشی میں ہی بھٹکتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے منحرفین کو اسی حالت میں چھوڑ دیا
 ہے یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اے پیغمبر! آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں۔
 ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کریں مگر ان
 کی طرف سے مسلسل انکار سے دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لیگا۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُم
 الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ
 يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
 شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ
 بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غَدُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا
 فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ
 إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
 وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾

ترجیمہ :- اور اگر نازل کریں ہم ان کی طرف فرشتوں
 کو اور کلام کریں ان سے مرنے والے ، اور زندہ کر کے
 دکھائیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے ، نہیں ایمان لائیں
 گے یہ لوگ مگر یہ کہ اللہ چاہے ، لیکن اکثر ان میں سے
 جاہل ہیں ﴿۱۱۱﴾ اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے
 لیے دشمن شیطاں انسانوں اور جنوں میں وہ سمجھتے ہیں
 بعض بعض کو ملمع کی ہوئی بات اور فریب، مینے والی بات
 اور اگر چاہے تیرا پروردگار نہ کہے یہ اس بات کو پس

چھوڑ دیں ان کو اور ان باتوں کو جن کو یہ افتراء کرتے ہیں (۱۱۲) اور تاکہ مائل ہوں اُس کی طرف ان لوگوں کے دل جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر تاکہ اُس کو پسند کریں اور تاکہ وہ کماؤں جو کچھ وہ کمانے والے ہیں (۱۱۳)

رابط آیات

یہ آیات بھی گذشتہ آیات کے ساتھ مربوط ہیں گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین سچتہ قسمیں کھا کہہ کتے ہیں کہ اگر ہماری مرضی کے مطابق کوئی نشانی آجائے تو ہم مان جائیں گے اور تصدیق کر دیں گے پہلے تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ کہ دیں کہ نشانیاں لانا میرے بس کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے پھر اہل ایمان سے خطاب کیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ نشانی آجانے پر یہ ضرور ہی ایمان لے آئیں گے۔ فرمایا جس طرح یہ پہلی دفعہ کلمہ حق سن کر ایمان نہیں لائے، اسی طرح آئندہ بھی ان سے ایمان لانے کی توقع نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹاتا ہے، سرکشی کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے مگر وہ اسی میں بھٹکتے رہتے ہیں ان لوگوں میں شقاوتِ قلبی آچکی ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔

نزول ہلاک کا مطالبہ

مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ سَمَائِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لِقَوْمِهِمْ آيَاتِهِ لَعَلَّ يَتَّقُونَ۔ ہمارے سامنے آسمان سے فرشتے نازل ہوں وہ اپنے ساتھ کتاب لائیں اور تصدیق کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنْتَ نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ ۚ اَكْفَرُ مِنْ اِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ جَمِيعًا ۚ وَاللّٰهُ غَافِلٌ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ۔ اس سورۃ کی ابتدا میں بھی گزر چکا ہے کہ ان کے سامنے فرشتوں کا نزول ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتے اہل شکل میں نازل ہوں تو ان کے لیے قابلِ برداشت نہیں ہوگا، اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس جہان میں انسان کے لیے فرشتوں کا دیکھنا ممکن نہیں،

البتہ اگلے جہان میں پہنچ کر ایسا ہو سکے گا، اللہ نے ہمدردہ ڈال رکھا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان بالغیب رکھنا ہی ضروری ہے۔ اور اگر فرشتے انسانی شکل میں نازل ہوں تو یہ لوگ ان کو فرشتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس کے بجائے ”لَلْبَسَاتِ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ“ یہ اشتباہ میں ہی پڑے رہیں گے، لہذا ان کی فرمائش کے مطابق اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

مردوں سے
ہمکلامی

اللہ نے فرمایا کہ مشرکین، ضد اور عناد میں اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَىٰ اور مرے ان سے ہمکلام ہوں مشرکین کہتے تھے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے ”فَأْتُوا بِآيَاتِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (الدرخان) تو پھر ہمارے آباؤ اجداد کو اٹھا لاؤ، ہم بھی دیکھ لیں کہ ایسا ممکن ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ اگر ان کے مرے زندہ ہو کر ان سے ہم کلام بھی ہو جائیں تو یہ لوگ اتنے عنادی ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا مردوں کے علاوہ وَحَشَىٰ نَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلًا ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھی کر دیں، تو یہ پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ قَبْلًا کا معنی سامنے ہوتا ہے۔ قَبْلًا قبیل کی جمع بھی ہے یعنی فوج در فوج۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مختلف اشیاء کو گروہ در گروہ بھی لا کر کھڑا کر دیں پھر بھی یہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہیں گے۔ اور مَا كَانُوا لِيُقِئُوا اور اللہ کی وحدانیت، آپ کی رسالت اور کتاب الہی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔

فرمایا ایک صورت میں یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اَكْبَرُ اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے۔ وہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، اسی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں مگر یہ بات اسی

حکمت کے خلاف ہے۔ گذشتہ رکوع میں گزر چکا ہے "وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَىٰ كُفًّا" اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے مگر ایسا نہیں ہے۔ ایمان اُس کا مقبول ہے جو خود اپنی مرضی سے قبول کرے۔ اور ساتھ ہی اپنے نبی سے فرمایا۔ آپ ان کی ضد کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں "وَمَا جَعَلْنَاكَ إِلَّا حَفِيفًا" ہم نے آپ کو اُن پر کوئی ننگبان تو نہیں بنایا۔ آپ بالکل فکرمند نہ ہوں۔ اگر ایمان قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود ان سے نیٹ لیں گے۔ یہاں بھی فرمایا، کہ اگر اللہ چاہے تو وہ ایمان قبول کر لیں مگر حقیقت یہ ہے وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ان میں سے اکثر لوگ نادان اور بے سمجھ ہیں۔ حق بات انکی سمجھ میں نہیں آتی اور یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں۔ بہر حال یہاں پر ایمان کے ضمن میں توحید اور رسالت دونوں چیزیں آگئی ہیں۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے گا وہ رسالت کو بھی تسلیم کر لے گا۔ بلکہ توحید کی دعوت اُسے رسول کی معرفت ہی ملیگی۔ لہذا جب تک دونوں چیزیں دل پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ اشارہ موجود ہے۔

اب آگے رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ شاید ہی اللہ کا کوئی نبی ہو گا جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ اس میں حضور علیہ السلام کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ ہر نبی کے ساتھ عناد رکھنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں لہذا آپ کے ساتھ دشمنی کوئی اذیت نہیں ہے۔ نزول وحی کے پہلے دن ہی حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ غار حرا سے لہرتے گاپتے گھر پہنچے اور پھر کچھ دیر بعد آپ کو افاقہ ہوا، تو ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اُس سے گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا، کاش اُس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔

دشمنانِ انبیاء

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں، میں کسی پر زیادتی نہیں کرتا، پھر یہ لوگ مجھے کیوں نکال دیں گے، ورقہ نے کہا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے۔ وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا جس نے بھی ایسی چیز پیش کی جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی افسوس کہ ورقہ کو مہلت نہ ملی اور وہ تین دن بعد فوت ہو گیا۔ حضرت خدیجہؓ نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ورقہ کا کیا حال ہے۔ اگرچہ اُسے کمال ایمان لانے کا موقع تو نہ ملا مگر وہ آپ کی تصدیق تو کر گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ورقہ کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا ہے جس سے میں اُس کے بارے میں اچھی توقع رکھتا ہوں۔ بہر حال ہر نبی کے ساتھ اُس کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہے ہیں اور اسی طرح بنی آخر الزمان کو بڑے ذلیل قسم کے دشمنوں سے واسطہ پڑا۔

الناس اور
عن شیاطین

آگے اللہ نے دشمنوں کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ وہ کون ہیں؟

شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وہ شیاطین ہیں جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ جنات میں سے تو ظاہر ہے کہ ابلیس اور اس کی فریت ہر اہل ایمان کی صریح دشمن ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے

إِنَّكُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

سورۃ کہف میں فرمایا "أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" تم شیطان اور اُس کی ذریت کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اُس کے کہنے پر چلتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اُس نے تمہیں بہرکانے کی قسم کھا رکھی ہے وہ انسان کے آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اُس کے پیچھے لگ جائیں اور وہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے "إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ"

(فاطر) وہ تو اپنی پارٹی بڑھانا چاہتا ہے۔ دعوت دیتا ہے کہ آؤ! میرے

ساتھ لگ جاؤ تاکہ سب کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں۔ غرضیکہ شیطان تو انسان کا ہر صورت میں دشمن ہے۔ البتہ بعض انسانوں میں سے بھی شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ خود بھی شیطانی کام انجام دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ شیطان کا مقصد لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرنا ہوتا ہے۔ جو انسان یہ کام کرتے ہیں۔ بلاشبہ وہ بھی شیطان ہیں جو ہر نبی کے ساتھ بھی دشمنی کرتے رہتے ہیں۔ کسی انسان کی بدبختی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کا دشمن ہو۔ اللہ کے نبی تو وحید اور ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ کی مہر عنایت پر چلتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں مگر شیطان اسی وجہ سے ان کا دشمن ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، سب سے سخت عذاب اس شخص کے لیے ہے۔ جو اللہ کے نبی کو قتل کرے یا اللہ کا نبی اُسے قتل کرے۔ ظاہر ہے کہ نبی کا قاتل نہایت ہی شقی آدمی ہوگا۔ لہذا اس سے بڑا بد بخت کون ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو نبی جیسا سر پا رحمت قتل کرے وہ بھی بڑا ہی بد باطن ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا جاؤ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (البقرہ) تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے، تمہاری اولاد میں سے بھائی بھائی کا دشمن ہوگا۔ باپ اور بیٹے میں دشمنی ہوگی۔ قوم اور برادری ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوگی۔ پارٹیوں اور فرقوں میں دشمنی ہوگی۔ اولاد آدم میں ایک دوسرے کے خلاف عام دشمنی ہوگی مگر سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ عداوت رکھی جائے۔

فرمایا ہر نبی کے دشمن ہونے ہیں اور اسی طرح آپ کے بھی ہیں، یہ انسان اور جن شیطاںین کُفْرًا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (البقرہ) ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یعنی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں

کہ شیطان چونکہ انسانوں اور جنوں دونوں انواع سے ہے اس لیے میں ہمیشہ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ پڑھتا ہوں یا تَعُوذُ کر تا ہوں تو جنات کی نوع کے شیطان تو جگ جاتے ہیں مگر انسانی شیطان ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں اور ہمیشہ آدمی کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسانی شیطان جناتی شیطان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جناتی شیطان تو نظروں سے اوجھل رہتے ہیں مگر انسانی شیطان ظاہر اشیاطانی کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ آدمی کو معاصی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یٰحٰجِیٰ کا لفظی معنی اشارہ کرنا ہے اور اس کا دوسرا معنی تیزی سے بات کرنا بھی آتا ہے۔ چنانچہ وحی الہی میں مخفی اشارہ ہوتا ہے جو اللہ کی جانب سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں پر وحی سے مراد القا کرنا ہے جو ایک دوسرے پر دوسرے وغیرہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بدائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔

فرمایا شیطان ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں زُخْرُفِ الْقَوْلِ
 ملمع کی ہوئی بات۔ زُخْرُفِ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اچھا ہو اور باطن خراب ہو۔ ائمہ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے۔ جسے شیخ ابوطالب مکیؒ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں، علمائے سوڈان کی مثال گندی نالی کی ہے جس میں سب ظاہر تو سیمینٹ لگا ہوتا ہے مگر اس کے اندر گندگی ہوتی ہے۔ تو یہ شیطان بھی انسانوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالتے ہیں جو ظاہر تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے مگر اس کے نتائج ہمیشہ خراب نکلتے ہیں ایک تو ملمع والی بات ڈالتے ہیں اور دوسری غرور دھوکے والی بات کرتے ہیں۔ یہ شیطان انسانوں کے دلوں میں بھی دوسرے ڈالتے ہیں اور خود ایک دوسرے کو برا خیال کرتے ہیں۔ ایسی بنا سنوار کر بات کرتے ہیں جو دین، اخلاق اور حق کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔

ملمع شدہ
 باتیں

اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام کے ساتھ رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ ظاہر تو

بڑی ہمدردی اور خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں مگر درپردہ ان کے عزائم نہایت
مکروہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے رہتے
ہیں۔ روس، امریکہ اور یورپین توہین بظاہر دوستی کا دم بھرتی ہیں اور اہل اور کش
کرتی ہیں مگر ان کا اصل مقصد مسلمانوں کو غلام بنانا اور ان کی تہذیب و تمدن کو
مٹانا ہوتا ہے۔ بڑی بڑی پارٹیوں اور لیڈروں کا بھی یہی حال ہے۔ بڑے بڑے
سینر باغ دکھاتے ہیں، ملمع شدہ بات کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔
مگر مقصد محض حصول اقتدار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ منزل مراد کو پا لیتے ہیں، تو
ان کے تمام وعدے جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتے ہیں، تعلیم کے نام پر، پیری
مریدی کے پرے ہیں اور انعامی کیموں کی آٹھ ہیں لوگوں کے ساتھ ملمع سازی کی
جاتی ہے اور دھوکا دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مصنف بھی ایسا ہی کرتے ہیں
ان کی تصانیف بظاہر بڑی اچھی اور خوش گن ہوتی ہیں مگر اندر زیر بھرا ہوتا ہے
بھولے بھالے لوگ خوبصورت الفاظ کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور
نہیں سمجھتے کہ قرآن صاحب قرآن اور دین کے خلاف کتنی بڑی سازش ہو
رہی ہے۔ پہلے اسی سورۃ میں گنہ چکا ہے۔ ”زَيْنَ لَهِنَّ الشَّيْطَانُ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ شیطان ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا
ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ
ہلاکت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑے اعمال بظاہر بڑے خوبصورت
معلوم ہوتے ہیں۔ یہی ملمع سازی ہے جو شیطان انجام دیتے ہیں۔ اور لوگوں
کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔

اسلامی
قانون عدل

انسانی شیاطین کا ایک کارنامہ آپ نے کل اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ اسلامی
قانون شہادت کے مطابق دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اس
قانون کے خلاف عورتوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ شیطان نے ایسی پی ٹی ٹی
ہے کہ یہ قانون عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے

ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ بطور توجیہ عورتوں کے حقوق کی بہت
 ہوس رہی ہے مگر درپردہ کمیونسٹ عورتیں اسلام کے خلاف بغاوت کر رہی
 ہیں اور عورتوں کو دین سے برگشتہ بنا رہی ہیں۔ شیاطین نے طمع سازی کے
 ذریعے عورتوں کو ورغلا لیا ہے۔ آخر ہماری حکومت ایسی کھلی بغاوت کا کیوں
 نوٹس نہیں لیتی۔ حکومت باطل باتوں کے لیے تو طاقت استعمال کرتی ہے
 مگر حق کے لیے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتی۔ اگر پہلے دن سے اسلام
 کو منتہائے مقصود بنایا ہوتا اور اس کا نفاذ سختی کے ساتھ کرتے تو اس قسم کی
 پیچیدگیاں نہ پیدا ہوتیں۔ اگر مارشل لا کے ضابطے طاقت کے بل پر لا کر کیے جا
 سکتے ہیں تو اسلام کی دفعات کیلئے کیوں حیل و حجت کی جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے
 لیے نیت میں خلوص نہیں ہے اب اگر اسلام کا قانون شہادت منظور نہیں ہے تو کل کو یہ بھی
 مطالبہ پیش ہو سکتا ہے کہ زنا کے مقدمہ میں چار مردوں ہی کی گواہی کیوں ہے، اس حق سے عورتوں
 کو کیوں محروم کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قانون ہے، وہی اس کی
 مصالحت کو جانتا ہے، لہذا خدائی قوانین میں دخل اندازی کر کے اس کے
 غضب کو دعوت دینا ہے۔

ٹے
 جھوٹے

زندگی کے ہر شعبے میں طمع سازی داخل ہو چکی ہے۔ ذرا ان نام نہاد
 لیڈروں کے دعوے دیکھو، کوئی غربت ختم کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو
 کوئی تعلیم کا جھانسنہ دیتا ہے۔ کوئی اسلام کا نام لیتا ہے اور کوئی معیشت
 کی بات کرتا ہے۔ کوئی زمین الاٹ کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور مکان
 بننے کا جھانسنہ دیتا ہے۔ حقیقت میں بات کچھ بھی نہیں سب جھوٹے
 وعدے ہیں جو کہ مندرقتہ مندر تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ یہ سب زُخُوفُ
 الْقَوْلِ غُرُورٌ ہے۔ طمع سازی، دھوکہ اور فریب ہے جو شیاطین انجام
 دے رہے ہیں۔

فَرَمَاوَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ اَلَمْ تَرَ اَنْزَلْنَا الْوَحْيَ عَلٰى قَلْبِكَ

پاتے۔ بمکر اللہ تعالیٰ کسی سے جبراً کوئی کام نہیں کروانا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا
فَذَنُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کے پیغمبر! آپ ان کو ان کی حالت
 پر چھوڑ دیں اور جو کچھ وہ افتراء کرتے ہیں، انہیں کہہ نے دیں۔ وَلِتَصْنَعُوا الْيَدِ
أَفِئْدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف
 مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھنے
 والے ہیں وہ تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ انہیں تو آخرت
 کی فکر ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب دینا ہے۔ البتہ جہنمیں آخرت
 کے محاسبے پر یقین نہیں ہے۔ وہی ایسی طمع شدہ باتوں کی طرف مائل ہوتے
 ہیں۔ وَلِيَسْخَبُوا اور تاکہ وہ ایسے دھوکے فریب کی باتوں کو ہی پسند کرتے
 رہیں۔ انہیں اس طرف لگا ہئے دیں وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ
 اور وہ جو کچھ بُرا جھلا کرتے ہیں، انہیں کمانے دیں۔ قیامت کے دن ان کی ساری
 کمائی سامنے آجائیگی اور انہیں ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام
 کو تسلی دی کہ زیادہ دل برداشتہ نہ ہوں، انہیں ان کے حال پر سہنے دیں۔

أَفَنفِرَ اللَّهُ أَتَبَغَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
 إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ
 يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ
 مِنَ الْمُسْتَرِينَ ۝۱۱۴ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا
 وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝۱۱۵
 وَإِن تَطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ
 إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝۱۱۶ إِن رَّبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ
 عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝۱۱۷

ترجمہ: کیا میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو
 فیصلہ کرنے والا تلاش کروں۔ حالانکہ وہی اللہ ہے جس
 نے آپ کی طرف ایک مفصل کتاب نازل فرمائی اور وہ
 لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ
 یہ اتاری ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے
 ساتھ۔ پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں ۝۱۱۴ اور
 پوری ہو گئی ہے بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف
 کے ساتھ۔ نہیں ہے کوئی تبدیلی کرنے والا اس کے کلمات

کو۔ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے (۱۱۵) اور اگر آپ اطاعت کریں گے اُن لوگوں کی جو اکثر ہیں زمین میں تو بہکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے اور نہیں اتباع کھتے وہ (اکثر لوگ) مگر گمان کی۔ اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑتے (۱۱۶) بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُس شخص کو جو بہک گیا ہے اُس کے راستے سے اور وہ خوب جانتا ہے راہِ راست پر چلنے والوں کو (۱۱۷)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرکین کی تردید کے ساتھ ساتھ رسالت کا ذکر بھی کیا۔ اس کے ساتھ توحید کا ذکر بھی مختلف انداز میں کیا اور انسانی اور جناتی شیطانوں کا بیان بھی فرمایا۔ اور یہ بھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شرکیہ باتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے انبیاء کے متعلق بھی یہودہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سب کی تردید فرمائی اور اب آج کے درس میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ قریش مکہ حضور علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا بھی انکار کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہماری مرضی کی نشانیاں پیش کریں۔ اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ نشانی کا اظہار مشیتِ ایزدی پر موقوف ہے، وہ جب چاہے نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بات پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ان کی ہٹ دھرمی کو خاطر میں نہ لائیں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کی نشانی پا کر یہ لوگ مان جائیں گے مگر تمہیں کیا معلوم، یہ ایسے عنادی لوگ ہیں کہ نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا انہیں ایسے ہی بھٹکنے دیں۔

شانِ نبول

مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کے متعلق ایک اور تجویز پیش کی تھی۔ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں کہ آپ اللہ

کے برحق رسول میں، تو اس کا فیصلہ کسی محترم آدمی سے کروا لیتے ہیں۔ پھر جو وہ فیصلہ کرے ہم دونوں فریق اُسے تسلیم کر لیں۔ اس کام کے لیے وہ ولید ابن مغیرہ کا نام تجویز کرتے تھے جو کہ بڑا تجربہ کار، دولت مند اور دشمن رسول شخص تھا یہ حضرت خالد بن ولید کا باپ تھا۔ بڑا جہاں گشت اور جہاں دیدہ آدمی تھا۔ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات رکھتا تھا۔ لوگ اکثر اپنے معاملات کے فیصلے اُس سے کرتے تھے۔ مشرکین مکہ طائف کے بڑے سردار مسعود کا نام بھی پیش کرتے کہ اُسے حکم تسلیم کر لیں۔ وہ یہ بھی کہتے کہ اگر یہود و نصاریٰ کا کوئی بڑا عالم آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے سے تو ہم پھر بھی مان جائیں گے۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے بھی لکھا ہے۔ کہ مشرکین مکہ تصدیق رسالت کے لیے یہود و نصاریٰ کے علماء کی بات ماننے کے لیے بھی تیار تھے بمقصد یہ کہ وہ لوگ آپ کی رسالت کی تصدیق کسی دوسری شخصیت یا جماعت سے چاہتے تھے اور حضور علیہ السلام کے دعویٰ نبوت اور اللہ کی کتاب کو ماننے کے لیے تیار تھے آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ کہ اے پیغمبر! آپ ان کے سوال کا جواب یہ دیں۔

أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكَمًا كَمَا كَانُوا يَتَّبِعُونَ
 کہ ہم ہنصفت یا بیچ تلاش کر لوں؟ کیا میں اس کے فیصلے کا انتظار کروں
 کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں اور مجھ پر نازل ہونے والی کتاب برحق ہے
 یا نہیں؟ فرمایا میں کسی ایسے حج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری صداقت
 کا گواہ تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ
 مُقَصَّطًا ۚ ؕ ؕ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرف بڑی واضح کتاب
 نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب میں عقائد، احکام، دلائل اور واقعات بڑی تفصیل
 کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور بعض آیات کی تفصیل اللہ کے نبی کی
 زبان سے کر دی گئی ہے۔ تو ایسی عظیم کتاب کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم کو

اللہ
 عظیم
 کی حکمت

بنانا تو ناممکن بات ہے۔ ہر مومن اللہ کی رضا پر راضی ہو گا اور وہ اُسکی نازل کردہ کتاب اور اُس کے پیچھے ہوئے پیغمبر کو اپنا فیصل بناٹے گا۔ جب وہ مالک الملک اَحْکَمُ الْحَاکِمِیْنِ ہے تو پھر دوسرے کون حکم سن سکتا ہے؟ فرمایا تم یہود و نصاریٰ کے علماء کو حکم بنانا چاہتے ہو، ان کی حالت یہ ہے

کتاب الہی کی تصدیق

وَالَّذِیْنَ اٰتٰیْنٰهُمُ الْکِتٰبَ جَن لُّوْکُوْلٍ کُوْرٰہِمُ لِنَ کِتٰبِ رِیِّیْ ہِیْ لَعْنٰی قُرٰنِ پَآکِ سَیْ پِیْ یٰہُوْدِیُوْلٍ کُو تُوْرٰتِ دِیْ اُوْر نِصَآرِیْ کُو اِنجِیْلِ عِطَآکِیْ ۔

یَعْلَمُوْنَ اَنَّہٗ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّکَ بِالْحَقِّ وَہُ خُوْب جَانْتِیْ ہِیْ کَہِ یَہِ قُرٰنِ پَآکِ تِیْرَیْ سَبِ کِی طَرْفِ سَی نَآذِلْ ہُو اَہِیْ ہِیْ کَہِ ٹِھِکِ ٹِھِکِ ۔ وَہِ یَہِ یَہِیْ

جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیچھے نبی ہیں۔ دوسرے پارہ میں موجود ہے لَعْنٰی قُرٰنِ کَمَا یَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَہُمْ وَہِ اللہ کے آخری نبی کو اسی طرح پہنچتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہنچاتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بناء

پر انہیں یقین ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں مگر بغاوت، سرکشی خود غرضی اور چودھر اہٹ کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ اہل کتاب کو یقین ہے کہ قرآن پاک وہی کتاب ہے جس کا وعدہ اللہ نے پہلے نبیوں سے کیا تھا۔ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام

سے فرمایا میں تیرے بھائی بندوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیرے جیسا عظیم رسول اٹھاؤں گا اور اُس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ وہی کلام ہے جو اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ فرمایا فَلَا تَکُوْنَنَّ

مِنَ الْمُتَمَتِّیْنَ پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں، مطلب

یہ کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو کوئی تردد نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ خود ان پر کتاب نازل ہو رہی تھی، تاہم باقی مومنین کو یہ بات سمجھانی گئی ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ، لہذا کسی سرور یا عالم یا

وانشور کو اس معاملہ میں منصف نہیں بنایا جاسکتا۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے۔ کہ اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں تو کہتے رہیں، خود اللہ تعالیٰ تو اس بات کا گواہ ہے کہ یہ کتاب اُس نے نازل کی ہے۔ اس میں مومنین کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے۔

صدق اور عدل

اللہ نے اس کلامِ برحق کے متعلق فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ اور تیرے رب کے کلمات پورے ہو گئے ہیں یعنی تیرے رب کا کلام مکمل ہو گیا ہے صِدْقًا وَعَدْلًا صدق اور عدل کے ساتھ، یعنی سچائی اور انصاف کے ساتھ۔ امام رازی چھٹی صدی کے عظیم مفسرِ قرآن ہوئے ہیں۔ آپ اسلام کے خادم، منطقی اور فلاسفر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ تکمیل کلمہ کے لیے دو لفظ صدق اور عدل آئے ہیں اور ان دونوں کا مصداق الگ الگ ہے۔ قرآن پاک میں صنی اور مستقبل کے متعلق بہت سی خبریں دی گئی ہیں، جہاں تک ان خبروں کا تعلق ہے یہ صدق یعنی سچائی پر مبنی ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں پر صدق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک کا ایک معتد بہ حصہ احکام پر مشتمل ہے اور ہر انسان ان احکام کا مکلف ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ احکام عدل پر مبنی ہیں لہذا ان پر عمل پیرا ہونے میں کسی قہیم کا تہ و نہن نہیں کہنا چاہیے یہ احکام اللہ نے اپنی کمال حکمت کے ساتھ بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ ان میں عدل کا پہلو واضح ہے

ناقابل تحریف
قرآن

پھر فرمایا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے حقائق کو کوئی شخص غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنا ہی دماغ ٹیڑھا ہو تو ہر چیز ٹیڑھی نظر آئے اور اس طرح قرآن پاک میں کجی تلاش کرنا پھرے وگرنہ یہ تو بالکل برحق کلام ہے۔ جس طرح بھینکے آدمی کو ایک کی بجائے دو چیزیں نظر آتی ہیں یا صفروہی آدمی کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے، اسی طرح

اٹھا کر کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود رہے لوگ مہذب نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو شراب اور جوئے پر پابندی عائد کرتی ہے، زانی کے لیے سخت سزا تجویز کرتی ہے۔ کسی کی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتی۔ قوموں کو غلام بنانے کے خلاف ہے، لہذا اسے دنیا سے ناپید ہونا چاہیے، اس کی موجودگی میں امریکہ، یہ طانیہ، فرانس اور جرمنی کی تہذیب پروان نہیں چڑھ سکتی۔ انگریز اپنے مقصد میں تو کامیاب نہیں ہو سکے البتہ ان کی اپنی سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج ایک دو جزیرہ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اس کو نازل کرنے والے نے لے رکھا ہے۔

ہندوستان میں یورپی کا گورنر ولیم میور پادری تھا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ دنیا میں انسانیت کی دشمن دو چیزیں ہیں، ایک محمد کی تلوار اور دوسرا اس کا قرآن۔ اس شخص نے "لائف آف محمد" کے نام سے حضور علیہ السلام کی سوانح عمری بھی لکھی۔ بہر حال اس نے یہ فقرہ کہا تھا جسے سن کر سرسید بھی تڑپ اٹھا اور اُسے انسانیت کا دشمن قرار دیا۔ بہر حال آج بھی یورپی ممالک میں اسلام اور قرآن کے خلاف برابر سازشیں ہو رہی ہیں؛ ان کی مقرر کردہ کمیٹیاں برابر کام کر رہی ہیں۔ اس معاملے میں مشرقی علوم کا ذوق رکھنے والے مغربی دانشور جنہیں مستشرقین کہا جاتا ہے، وہ بھی اسلام کے خلاف بھیر پور کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن پر ریسرچ کر رہا ہے اور کوئی حدیث پر، پھر اپنے زیر اثر لوگوں اور یورپی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے مشرقی طالب علموں کو ریسرچ کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں اور اس طرح اپنے باطل افکار اہل اسلام کے اذہان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں لوگوں کے دلوں سے قرآن کی عظمت کو ختم کیا جاسکے۔

پاکستان میں بھی اس قسم کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ ایوب خان کے

زمانے میں فضل الرحمن نے یہ بیان دیا تھا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ خدا تعالیٰ کا کلام
 ہے، کچھ جبریل علیہ السلام کا اور کچھ حضور علیہ السلام کا۔ اس پر پاکستان میں سخت
 احتجاج ہوا جس کے نتیجے میں فضل الرحمن کو اس کے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ اس
 کا باب دیوبند کا فاضل بڑا جید عالم تھا مگر یہ انگریزی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ پڑہنے
 بھی ہی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ انگریزی حکومت میں سپرنٹنڈنٹ تھا، اس نے بھی
 مغربی افکار کو قرآن پاک کی تعلیم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے عجیب
 بات ہے کہ یہ دشمن قرآن پاک کی ایسی تفسیر بیان کر رہا ہے جسے سلف
 صاحبین بھی نہ سمجھ سکے۔ یہ سب انگریزوں کی سازش کے تحت مستشرقین کے
 کارنامے ہیں۔

مرزائیت کا پورا بھی انگریزوں نے اسی سازش کے تحت لگایا ہمارے
 اس اسلامی ملک پاکستان میں اب بدعات سرکاری طور پر منائی جا رہی ہیں
 یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے حکومت ایسی چیزوں کی
 سرکاری سرپرستی اس لیے کرتی ہے تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ دوام حاصل
 ہو سکے۔ افسوس کی بات ہے کہ بدعات کو تو رواج دیا جا رہا ہے مگر حق بات
 کہنے کی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اس مملکت خدا داد میں خدا کا قانون اور نبی کا
 فرمان ذاتی خواہشات کی وجہ سے پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے گا جو غالیوں
 کی طرف سے دین میں تحریف کو عام لوگوں کے سامنے آشکارا کرتے رہیں
 گے۔ اللہ کے یہ بندے ہر تحریف، بدعت اور نفس پرستی کے خلاف
 آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام کر
 دیا ہے۔ اب کوئی شخص لفظی تحریف تو نہیں کر سکتا۔ تاہم معنوی تحریف
 کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے گا۔ غرضیکہ فرمایا کہ
 خدا تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اس

نے خود لے رکھا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلت وکثرت (MAJORITY/MINORITY)

کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِنْ تَطِيعُ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ
اگر آپ زمین میں موجود اکثریت کا کہنا مانیں گے يُضِلُّوكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ محض اکثریت کی بنیاد پر حق و باطل کی پہچان نہیں کی جاسکتی کیونکہ اکثریت کا حال یہ ہے إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ تو محض گمان کا اتباع کرتے ہیں اٹکل پچھ

باتیں کرتے ہیں۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ گمان دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو حسن ظن یعنی اچھا گمان ہے، اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی بلکہ محض اٹکل دوڑانے والی بات ہوتی ہے۔ البتہ گمان کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے

جس کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے۔ مجتہدین اسی گمان کے تحت مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، ان کا ہر فتویٰ مستند الی دلیل ہوتا ہے۔ وہ ہر حل صحیح دلیل

سے اخذ کر کے بتاتے ہیں۔ اس کے برخلاف کفر، شرک، بدعت وغیرہ اٹکل پچھ باتوں سے رائج کیے جاتے ہیں۔ اسمبلیوں میں قوانین کثرت رائے

سے منظور ہوتے ہیں جو کہ حق کے سراسر خلاف ہے۔ یہ بھی محض گمان ہوتا ہے جسکی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتی۔ جو اکثریت نے کہ دیا، کر لیا، خواہ اس

میں کتنی قباحت ہو وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْزِيهِمْ الحق شیئاً (النجم) اس قسم کا گمان حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔

غور فرمائیں، آج دنیا میں جتنے بھی نظریات سامنے آ رہے ہیں، سب کی بنیاد گمان محض پر ہے۔ کوئی ایمرانیوں کا فلسفہ ہو یا انگریزوں کا، ڈارون

کا نظریہ ہو یا آئن سٹائن کا۔ اشتراکیوں کی بڑ ہو یا سرمایہ پرستوں کی، سب کے سب محض عقل کی تخلیق ہیں۔ اس میں سے کسی کا استناد بھی وحی الہی کی

قلت کثرت
کا مسئلہ

طرف نہیں ہے۔ کارل مارکس نے سرمایہ داری کے خلاف کتاب لکھی تھی کہ مزدوروں کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کی اجرت کا تعین کیسے ہو اور انہیں کون کونسی دیگر سہولتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محض حساب کتاب کی بات ہے مگر لوگ اسے انجیل کی طرح ملتے ہیں۔ یہ سب انسانی دماغ کی اختراع اور گمان ہے۔ مارشل لار کے ضابطے، انگریز کی طرز پر اسمبلیوں کا نظام محض اسکاں بچو بات ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب یا نبی کا فرمان کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا کوئی قانون درست ثابت نہیں ہو سکتا۔

۱۹۲۲ء میں امریکی اسمبلی میں شراب نوشی کے خلاف بل پیش ہوا اس کے خلاف دلائل دیے گئے کہ فضول خرچی ہے اور انسانی ذہن کو ماؤت کرتی ہے چنانچہ بل پاس ہو گیا اور شراب نوشی ممنوع قرار پائی۔ اکثریت نے فیصلہ دے دیا بمشکل چار سال تک اس قانون پر عملدرآمد ہوا اور اس کے بعد لوگوں نے چوری چھپے شراب کی کشید شروع کر دی اور پینے پلانے لگے۔ معاملہ پھر اسمبلی میں پیش ہوا۔ پھر اس کے حق میں دلائل دیے گئے اور اسمبلی نے اس کو دوبارہ جائز قرار دیدیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قانون محض اکثریت کے بل بوتے پر بنا تھا اسے پھر اکثریت نے ہی مسترد کر دیا، حالانکہ شراب کی قباحت نہ پہلے کم تھی نہ بعد میں۔ ۱۹۶۰ء کے بعد برطانوی اسمبلی نے دو باغ مردوں کی باہمی رضامندی سے ہم جنسی کو جرائم کی فہرست سے خارج کر دیا تھا یہ بھی کثرت رائے کا فیصلہ تھا۔ بہر حال کثرت کے فیصلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا جائے۔ اصل بات وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہو اور جس میں تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

آج دنیا کے پانچ ارب نفوس میں دیکھ لیں کہ کثرت کن کو حاصل ہے ہر جگہ کفر و شرک کو اکثریت حاصل ہے۔ ظالم، فاسد اور بد عقیدہ لوگ اکثریت میں ہیں۔ حرام خور اور انسانیت کے دشمن ہر جگہ غالب ہیں، تو کیا

حق و صداقت کا یہی معیار ہے؟ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا۔

” از مغز دو صد خرف جز انسانی نمی آید“ یعنی ایک انسان کے مقابلے میں دوسرے

گدھوں کی فکرت کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا، کثرت و قلت کا یہی مسئلہ ہے

جب تک جاہل اکثریت کو عالم اقلیت پر غلبہ رہے گا، دنیا کا نظام درست

نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گمان کی وان

هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں وہ مگر اٹکل دوڑاتے، یہ سب

اٹکل بچو کام ہوئے ہیں۔ اس میں حقیقت کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے

فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ

بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بہک گیا

ہے۔ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ اور وہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں

کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہذا آپ اپنا کام کرتے جائیں کسی شخص کو حکم نہ بنائیں

اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ قرآن کو اپنا حکم تصور کریں اور اسی کے احکام پر

عمل کرتے رہیں۔ اللہ نے مفضل کتاب نازل کر دی ہے۔ اب کسی پادری

یا سردار کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراض

کا یہ جواب دیا۔

گمراہ اور
ہدایت یافتہ

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝۱۱۸ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ
بِفَيْرٍ عَمٍ ۝۱۱۹ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝۱۱۹
وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۝۱۲۰ إِنْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ
الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۲۰
وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۝۱۲۱ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوحِيَ
أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۝۱۲۱ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ۝۱۲۱

ترجمہ :- پس کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام

ذکر کیا گیا ہے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے

ہو ۝۱۱۸ اور کیا ہے تم کو کہ تم نہیں کھاتے اس

چیز کو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اور تحقیق و

تفصیل سے بیان کیا ہے اس نے تمہارے لیے اُن

چیزوں کو جو اُس نے تم پر حرام قرار دی ہیں مگر جب تم مجبور کہیے جاؤ اس چیز پر۔ اور بیشک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے۔ بیشک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اُن لوگوں کو جو تعدی کرنے والے ہیں (۱۱۹) اور چھوڑ دو کھلے گناہ کو اور چھپے ہوئے گناہ کو۔ بیشک جو لوگ کہتے ہیں گناہ، عنقریب اُن کو بدلہ دیا جائے گا اُس کا جو وہ کہتے ہیں (۱۲۰) اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ اور بیشک یہ فسق ہے اور بیشک شیاطین البتہ ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف (یالے باطل خیالات) تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ۔ اور اگر تم اُن کی بات مانو گے تو بیشک تم بھی البتہ شرک کرنے والے بن جاؤ گے (۱۲۱)

رابط آیات

گذشتہ درس میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو حکم تسلیم کرنے سے منع کیا گیا تھا، نیز نبی علیہ السلام کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر آپ اکثریت کا کہا مانیں گے تو آپ سیدھے راستے سے بہک جائیں گے، کیونکہ لوگوں کی اکثریت محض گمان پر چلتی ہے اور ان کے پاس حق بات نہیں ہوتی۔ اب آج کی آیات میں ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرک لوگ اہل ایمان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ کا مارا ہوا جانور یعنی ذبح شدہ جانور حلال سمجھتے ہیں اور اُس کا گوشت کھا لیتے ہیں، جب کہ خدا کا مارا ہوا یعنی طبعی موت مرا ہوا جانور حرام جانتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کو بعید از قیاس خیال کرتے تھے۔ بعض مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمان جس جانور یا پرندے کو لوبہ لکڑی، پتھر وغیرہ سے مار لیتے ہیں، اُس کو تو کھا لیتے ہیں مگر جس جانور کو خدا تعالیٰ سنہری تلوار سے مارتا ہے اُس کو نہیں کھاتے، بلکہ حرام سمجھتے

ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے باطل خیالات کا رد فرمایا ہے کیونکہ کافر لوگ اس قسم کی باتیں کہہ کے مسلمانوں میں اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو ان کے باطل نظریات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بلکہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بخوشی استعمال کرنا چاہیے اور حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے۔

اللہ کے نام پر ذبح

مشرکین و کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فَكَوُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یعنی ذبح کرتے وقت جس جانور پر بسم اللہ اکبر پڑھا گیا ہے اس کا گوشت کھاؤ جب کہ وہ حلال جانور ہو۔ اِنْ كُنْتُمْ بِالْبَيْتِ مُؤْمِنِينَ اگہ اللہ کی نازل کردہ آیت پر تمہارا ایمان مکمل ہے۔ تو ایسے ذبیحہ کا گوشت کھانے میں جھجک محسوس نہ کرو

پھر اسی بات کو تاکید فرمایا وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اور تمہیں کیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ایسی چیز تو حلال اور طیب ہے۔ اور تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آنی چاہیے۔ کیونکہ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تھما لے سامنے ان چیزوں کی تفصیل بیان ہو چکی ہے جو تم پر حرام ہیں۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء کی تفصیل بیان کر دی ہے لہذا اس کی روشنی میں شرعی طریقہ سے ذبح شدہ حلال جانور کا گوشت بصد شوق کھا سکتے ہو۔

اسی طرح تھما لے لیے حرام چیزوں سے پرہیز بھی لازمی ہے اَلَا مَا اضْطُرُّوا بِالْبَيْتِ سِوَا نَسْوَاتِ اُس کے کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے گئے ہو۔ مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت شراب، خنزیر اور نذر غیر اللہ بھی کھائی جا سکتی ہے

اور ایسی حالت میں استعمال کنندہ پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر وہ مجبوری کی حالت میں کھائے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آجائے گا کیونکہ اس کے لیے جان کی حفاظت لازم تھی۔ مجبوری کی حالت میں حرام چیز کی حرمت اٹھ جاتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ بعض حرام کردہ اشیاء سے جسمانی صحت خراب ہوتی ہے اور بعض اشیاء سے روحانی صحت ضائع ہوتی ہے۔ حرام اشیاء کی حرمت میں یہی حکمت ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں انسان کے لیے مضر ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت انسانی جسم کے لیے مفید ہے ان کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ چنانچہ آگے اسی سورۃ میں ان حلال مویشیوں کی تفصیل آرہی ہے۔ جو گھاس کھاتے ہیں، پالتو ہونے کی وجہ سے لوگوں کے قریب آتے ہیں اور انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ لوگ ان کا دودھ پیتے ہیں، اُن استعمال کرتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہی جانور کھیتی باڑی اور بار بیداری کے کام بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال قرار دیا، البتہ گوشت استعمال کرنے کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ جانور

اختیاری ذبح کا طریقہ

شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ملتِ ابراہیمیہ کا یہ مسلہ اصول ہے کہ حلال جانور کو حلق سے ذبح کیا جائے اور ذبح کے لیے لوبہ، پتھر یا شیشے وغیرہ کا تیز دھارا کہ استعمال کیا جائے ذبح کیلئے گلے کی چار رگیں، مرنی، سانس کی نالی اور دو خون کی رگیں کاٹی جاتی ہیں کم از کم تین رگوں کا ذبح ضروری ہے تاکہ جسم کا سارا خون بہہ جائے۔ گلے کے علاوہ اگر کسی دوسری جگہ سے ذبح کیا جائے۔ تو جانور کا گوشت مکروہ تحریمی ہوگا۔ کیونکہ ایسا ذبح مسلہ اصول کے خلاف ہوگا۔ برطانیہ میں مشینی ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور کے ماتھے میں گولی مار کر اُسے بے حس کر دیا جاتا ہے پھر اُوپر سے مشین چلا کر ذبح کر دیا

جاتا ہے۔ جو کہ درست نہیں ہے۔ بہر حال جب آدمی کو ذبح پر مکمل اختیار ہو تو مذکورہ طریقے سے ذبح کرنا لازمی ہوگا۔

اضطراری
ذبح

ہاں مجبوری کی حالت میں جب کہ آدمی جانور تک پہنچنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو ذبح کے مقررہ طریقے کے خلاف کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً اونٹ بھاگ گیا ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا ہے، کوئی جانور کنویں میں گہ گیا ہے اور مرجانے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کسی چیز سے ران پر بھی زخم لگ گیا تو جانور حلال ہوگا ایسی صورت میں گلا کٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق ترمذی شریفین میں روایت موجود ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس قسم کی اضطراری حالت میں ذبح کا کیا حکم ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولو طعنت فخذها۔ اگر نیزہ یا کسی دوسرے تیز دھار آلہ سے زخم لگا دیا جائے جس سے خون نکل جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ پزندوں کے شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ ان کو بچہ کہہ کر ذبح کرنا مشکل ہوتا ہے لہذا اگر تیر یا نیزہ چلاتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ کبھی شکار کے پیچھے گتا، باز یا شکر وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسا کرتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ مقصد یہ کہ اضطراری حالت میں اگر ذبح کے مسئلہ اصول کو ترک کر دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ تاہم اختیاری حالت میں حلق کاٹنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر درست نہیں ہوگا۔

ذبح کی
دو شرائط

بہر حال شرعی ذبح کے لیے دو شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ ایک ذبح آور دوسرا اللہ کا نام، جب تک یہ دو شرائط پوری نہ ہوں ذبح درست نہیں ہوگا۔ امام ابوحنیفہؒ کا یہی مسلک ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا تو جانور حرام ہوگا۔ البتہ اگر سیم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو معاف ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے جس طرح بھول کر کھالینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس طرح اگر بوقت ذبح اللہ

کا نام لینا مجھول جائے تو جانور کی حلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر دانستہ
اللہ کا نام نہیں لیا تو شرط پوری نہ ہوئی اور جانور حرام ہو گیا۔ اس مسئلہ میں دوسرا پہلو
یہ ہے کہ اگر اللہ کا نام لینے کی بجائے کسی پیر، فقیر، پیغمبر، جن یا فرشتے کا نام
لے لیا تو جانور مردار ہو گیا۔ اہم غزالی اور اہم رازی فرماتے ہیں کہ ذبح میں دم مسفوح
کا نکل جانا بھی ضروری ہے ذبح کہتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ حرام ہے
فرماتے ہیں کہ اگر یہ خون جانور کے جسم میں ہی رہ جائے تو اس کا گوشت مضر ہوتا
ہے کیونکہ اس میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسانی صحت کیلئے مضر ہوتے ہیں
لہذا خون کا نکل جانا ہی صحت کے لیے مفید ہے۔ جب یہ خون جسم سے
نکل جاتا ہے تو گوشت پاک اور قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت
نے مضر صحت اشیاء کو حلال قرار نہیں دیا۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی مؤرخ القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس باب میں
کئی آیات نازل ہوئی ہیں کہ کفار اعتراض کرتے تھے کہ مسلمان اپنے ہاتھ سے
مارے ہوئے جانور کا گوشت کھا جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا مارا ہوا نہیں کھاتے
فرماتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں شیطان لوگوں میں اشتباہ پیدا کرنے کے
لیے سکھاتے ہیں۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حلت و حرمت
میں صرف اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے۔ اس میں محض عقلی ڈھکوسلے کام نہیں
دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ ہر جاندار کو مارنے والا
اللہ ہی ہے مگر جو جانور اس کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس میں بے کرمیت
اور پاکیزگی آجاتی ہے، اس میں طہارت اور پاکیزگی کا قانون بھی کار فرما ہے
اسی طرح جو جانور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح ہوتا ہے، وہ طہارت سے خالی
ہوتا ہے۔

فرمایا حلت و حرمت کا مسئلہ تمہیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا گیا ہے

وَإِنْ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ لَفِي سُلُوبٍ

بیشک بہت سے لوگ محض اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔ مشرکین کا یہ پراپیگنڈا کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور خدا کا مارا ہوا نہیں کھاتے اسی سلسلہ کی کٹھی ہے۔ وہ ایسے اعتراضات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ بیشک تیرا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو اس قسم کی یہودہ باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور گرفت کرے گا۔

آگے اللہ تعالیٰ نے ہر ظاہر اور باطن گناہ کی ممانعت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَذُرُّوا ظَاهِرًا لِّمَا فِيْكُمْ وَبِاطِنًا لِّمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ۔

ظاہری گناہ تو وہ ہے جو سرعام کیا جائے اور باطنی وہ جو چھپ کر پوشیدہ طور پر کیا جائے۔ خدائی قانون اور انسان کے وضع کردہ قانون میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و پوشیدہ برائی سے منع فرماتا ہے جب کہ اس زمانے کا انگریزی قانون ظاہری طور پر ہی کی جانیوالی برائی کو تو قابل مؤاخذہ گردانتا ہے اور پوشیدہ طور پر انجام دینے والے گناہ کا کوئی نوٹس نہیں لیتا۔ چنانچہ جب کوئی پبلک سیکنڈل بن جاتا ہے تو قانون حرکت میں آجاتا ہے اور اگر زنا اور لواطت جیسے قبیح جرائم چوری چھپے باہمی رضامندی سے کیے جائیں تو کوئی عرج نہیں۔ زنا کے متعلق تو اللہ نے فرمایا ہے اِنَّہٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلًا (النساء) یہ تو سخت بے حیائی کا کام ہے مگر انگریزی قانون میں اگر باہمی رضامندی سے کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ گناہ ہر حالت میں گناہ اور قابل تعزیر ہے خواہ وہ ظاہر کیا جائے یا چھپ کر اور باہمی رضامندی سے ایسے قبیح فعل سے اخلاق تباہ ہو جاتا ہے روحانیت بگڑ جاتی ہے اور انسان کا دین ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اسلام نے ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے منع فرمایا ہے۔

ظاہری اور باطنی گناہ

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہ وہ ہے جو اعضاء و جوارح یعنی آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ سے کیا جائے اور باطنی گناہ وہ ہے جس کا تعلق انسان

کے دل کے ساتھ ہو۔ بڑا عقیدہ اور بری نیت دل میں پیدا ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ باطنی گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسد، کینہ، بغض، نفرت وغیرہ

روحانی امراض ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ سے بھی باز آ جاؤ۔ ساتھ یہ بھی بتلا دیا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ

الْاَثْمَ جَوْ لَوْ كَانَتْ هِيَ سَيِّئًا لَوْ كَانُوا يَعْتَرِفُوْنَ انہیں ان کی کمائی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ گناہ کا ارتکاب کبھی کوئی

شخص اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اُسے ضرور اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ آگے پھر مشرکین کے اسی اعتراض کا جواب دو کر انداز میں دیا۔

پہلے فرمایا تھا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اُسے کھاؤ۔ اب ارشاد ہے

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اُس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ جس طرح

اللہ کا نام لینے سے ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے اسی طرح بغیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے۔ ”مَا اُھْلٌ بِهٖ لِقَیْرِ اللّٰهِ“ کی تفسیر مختلف

سورتوں میں بیان ہو چکی ہے، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے تقرب کے لیے اُس کے نام پر نامزد کی جائیگی وہ حرام ہوگی۔ اس میں صرف

جانور ہی نہیں بلکہ دودھ، مٹھائی، فروٹ وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ بہر حال جس ذبیحہ پر عدا اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی حرام ہے اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا

گیا وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ اِیْسَاجَانٌ بُوْجھ کہہ کر ناسحق ہے۔ فسق کا معنی اطاعت سے نکل جانا ہے اور اس میں کفر، شرک، بدعت اور

چھوٹے موٹے سب گناہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَ اِنَّ الشَّیْطٰنِ لَیُوْحٰوِنُ الْاٰوْلِیٰہِمْ شِیْطٰنِ اِیْسِیٰ بَاتِیْنِ اِنے دوستوں کے دلوں میں

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ڈالتے ہیں تاکہ وہ بہک کر مردار کھانے لگیں یا غیر اللہ کی نذر و نیاز لینے لگیں۔ شیطان لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی صحت نہیں ہے، غیر اللہ کا نام لینے سے چیز کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا جو چاہو کرتے جاؤ، حالانکہ اس سے چیزوں میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔

فرمایا شیطان اس لیے وسوسہ اندازی کرتے ہیں رَبُّنَا دَلُّوكُمْ تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے۔ فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَكْرَمْتُمْ ان شیاطین کی بات مان لو گے۔ ان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تو بیشک تم مشرک بن جاؤ گے۔ شرک صرف غیر اللہ کی پرستش کا نام ہی نہیں بلکہ اگر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا حکم بھی اسی طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا حکم مانا جاتا ہے تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ فرمایا خوب سمجھو کہ غیر اللہ کی اطاعت سے تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو گا۔

أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
 نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي
 الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ
 لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَسْمُؤُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
 فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
 وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲۳﴾
 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا كُنْ نُورًا حَتَّى نُؤْتِيَ
 مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ
 يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
 عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿۱۲۴﴾

وقف منزل
وقف لازم

ترجمہ :- بجلا وہ شخص جو مردہ تھا ، پھر ہم نے اس کو
 زندہ کیا (ایمان کی دولت عطا کی) ہم نے اس کو روشنی
 دی ۔ اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں میں تو کیا
 وہ شخص اسکی طرح ہوگا جو اندھیروں میں ہوگا اور نہیں
 وہ نکلنے والا ان اندھیروں سے ۔ اسی طرح مزین کیا گیا ہے
 کافروں کے لیے جو وہ کرتے ہیں ﴿۱۲۲﴾ اور اس طرح ہم
 نے بنا دیے ہیں ہر بستی میں اس کے بڑے مجرم تاکہ وہ

مکاریاں کریں اس میں پتلا اور نہیں وہ مکاری کہتے مگر اپنے نفسوں کے ساتھ ، اور وہ سمجھتے نہیں (۱۲۳) اور جب آجاتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی تو کہتے ہیں کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم یہاں تک کہ ہمیں بھی دی جائے وہ چیز جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے ۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس موقع پر وہ اپنے پیغام کو رکھتا ہے عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے ، ذلت اللہ کے نزدیک اور عذاب شدید اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے (۱۲۴)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید و رسالت کا ذکر فرمایا شیاطین کے اغواء سے خبردار کیا ، قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ کیا ، اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ بیان کیا کہ انسانوں کی اکثریت محض گمان پر چلتی ہے اور اٹکل پچھو باتیں کہتی ہے ۔ اس ضمن میں ایک مثال بھی بیان فرمائی کہ مشرک اہل ایمان پر اعتراض کرتے ہیں کہ مؤخر الذکر اپنے ہاتھ کا مارا جانور تو کھا لیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کا مارا ہوا حرام سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو محض شیطانی خیال اور غلط قسم کا پراپیگنڈہ قرار دیا اور فرمایا کہ جس جانور پر بوقت ذبح اللہ کا نام لے لیا جائے اُس میں برکت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے ، اور جو جانور شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا جائے وہ ان چیزوں سے خالی ہوتا ہے لہذا جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ اہل اسلام کے نزدیک مردار کا حکم رکھتا ہے فرمایا کہ شیاطین اللہ کے حکم کے خلاف اپنے دوستوں کے ذہن میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں ، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو کر جھگڑے پر اُتے آتے ہیں اللہ نے خبردار کیا کہ اگر تم بھی ایسے لوگوں کا اتباع کیا تو مشرکین میں سے ہو جاؤ گے ۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نور اور ظلمت یعنی مردہ اور زندہ کا موازنہ کر کے سمجھایا ہے کہ ہدایت یافتہ اور گمراہ شخص برابر نہیں ہو سکتے پھر اللہ نے مجرب

کی جیلہ ساز یوں اور اُن کے انجام کا حال بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اَوْ مَن
كَانَ مَيِّتًا بھلا وہ شخص جو مُردہ تھا۔ یہاں پر مُردہ کا لفظ بطور استعارہ
استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس سے حقیقی مُردہ مراد نہیں بلکہ ایسا شخص ہے جو کفر،
شُرک اور گمراہی میں مبتلا ہو۔ فرمایا بھلا وہ شخص جو گمراہی کے اندھیروں میں ٹھسک رہا
تھا فَاَحْيَيْنَاهُ پھر ہم نے اُس کو زندہ کیا یعنی گمراہی سے نکلنے اور ایمان قبول
کرنے کی توفیق بخشی۔ ظاہر ہے کہ کفر، شرک کی وجہ سے انسان پر مُردنی چھائی رہتی
ہے جب کہ ایمان قبول کرنے سے روحانی حیات پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کو روح کا نام دیا ہے كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ
اٰمِنَّا (الشوریٰ) ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک روح نازل کی
یعنی قرآن پاک جس طرح انسانی جسم میں روح داخل ہوتی ہے تو انسان کو مادی حیات
نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کے قلب و ذہن میں جب قرآن پاک
داخل ہوتا ہے تو اُسے روحانی حیات میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی مثال
اپنے ذکر سے متعلق بھی دی ہے مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ اللّٰهَ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ
كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (حدیث) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور ذکر نہ
کرنے والے شخص کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا
وہ مردہ جسم کی طرح بالکل نکما اور بے سود ہے۔ ذکرِ الہی سے روحانی زندگی نصیب
ہوتی ہے اور کفر و شرک سے مُردنی چھائی رہتی ہے

فرمایا جو شخص مردہ یعنی گمراہ تھا، اُس کو ہم نے زندہ کر دیا یعنی تُوہ ایمان عطا فرمایا
وَجَعَلْنَا لَهٗ نُورًا ہم نے اُس کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ مفسرین کرام
فرماتے ہیں کہ ایمان، اسلام اور قرآن یُنَارٌ نور ہیں۔ ان کے ذریعے انسان کے
قلب و دماغ میں شعور کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے کفر، شرک
اور دوسرے درجے میں معاصی کے ذریعے قلب و ذہن میں تاریکی آتی ہے اور دل
پر زَنٰجٌ چڑھا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتا، اُس

یُنَارٌ نور

سے صحیح اور غلط کی پہچان اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح سنت ایک روشنی ہے اور بدعت اندھیرا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان راہِ راست سے بھٹک جاتا ہے علم اور جہالت کو بھی نور اور ظلمت سے تشبیہ دی گئی ہے علم منبع نور ہے۔ جبکہ جہالت سرسبز تاریکی۔ علم ہی انسان کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتا ہے۔ قرآن پاک اور ایمان بھی روشنی ہے جن سے مومن کا دل منور ہوتا ہے اور وہ صراطِ مستقیم کو پالیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نور اور ظلمت کو سورۃ بقرہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کارساز اور رفیق ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا تھا۔ اسی طرح قرآن پاک کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا لئلا نخرج الناس مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الْحَقِّ النُّورِ (سورۃ ابراہیم) تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔

تاریخی اور روشنی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الظلم ظلمات یوم القیامۃ ہر ظلم یعنی شرک، کفر، قتل ناحق، حق تلفی، زیادتی قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں نمودار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان کے گناہ اور برائیاں اس کے لیے قبر میں تاریکی کا باعث ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے پل صراط پر بھی سخت اندھیرا ہو گا جب کہ اہل ایمان کے لیے وہاں روشنی ہو گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو پل صراط سے گزرتے وقت ان کا ایمان روشنی عطا کرے گا اور وہ وہاں سے بخیر و خوبی گزر جائیں گے۔ سورۃ تکویم میں موجود ہے۔ "نُورُهُمْ یَسْعٰی بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَبِاِیْمَانِهِمْ" ان کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف ہو گا۔ یہ نور ایمان اور نور ہدایت ہو گا جو ان کی راہنمائی کرے گا۔ مومنین کا نور ایمان عالم بزرخ میں بھی ان کے لیے راحت کا ذریعہ ہو گا۔ جب کہ کافر اور مشرکین اندھیروں میں سرگردان ہوں گے

فرمایا جو آدمی گمراہی میں مبتلا تھا، اس کو ہم نے نور ہدایت عطا فرمایا کیسٹی

بہ فی الناس جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ ایسا

شخص لوگوں کے درمیان رہ کر کفر، شرک اور معاصی سے بچتا ہے بدعت

کے گڑھے میں نہیں گرتا، مزاروں پر سجدہ ریزہ نہیں ہوتا، رسوماتِ باطلہ میں ملوث

نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے۔ اس کے پاس نور ایمان

ہے اور قرآن پاک کا سورج چمک رہا ہے جس کے پاس ایمان کی روشنی نہیں ہے

اس کے پاس روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ اس کے پاس علم ہے اور نہ

کتاب۔ وہ قومی اور خاندانی رسم و رواج میں پس رہا ہے۔ کھیل تماشے میں محو ہے

اور معاصی کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج

منہا تو کہا وہ شخص اسکی طرح ہوگا جو اندھیروں میں ہوگا اور نہیں وہ نکلنے والا اندھیروں

فرمایا کذالک زین للکفرین ما كانوا يعملون اسی طرح

مذنب کیا گیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ہر بڑے سے بڑا کام

کرنے والا بھی اپنے فعل کو اچھا سمجھتا ہے۔ بت پر چڑھا اور چڑھانے والا

ہندو سمجھتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہا ہے۔ اسی طرح قبر پر سجدہ کرنے والا

اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ شیطان نے ان کے بڑے افعال کو الیا

مذنب کر کے دکھایا ہے کہ وہ اسی پر خوش ہیں۔ کھیل تماشہ ہو یا رسوماتِ باطلہ،

ڈھول ڈھمکا ہوا گانا بجانا۔ تذر و نیاز ہو یا چادر پوشی سائے سے کام اچھا سمجھ کر کیے

جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو اچھا نہیں سمجھے گا تو کریگا کیوں؟

یہ سب شیطانی بہکاوا ہے۔ شیطان درغلا تا ہے کہ تمہاری عزت شادی کی

رسوم پر بے دریغ روپیہ خرچ کرنے میں ہے۔ لوگ کہیں گے فلاں تاجر نے

فلاں حاجی نے، فلاں چمپہری نے بڑی دھوم دھام سے ولیمہ کیا ہے، چاہے

غریبوں اور پڑوسیوں کو پوچھا تک نہ ہو۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے بڑی

شہرت حاصل ہوتی ہے۔ فلمی ستارے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ یہ سب

اندھیروں کے کام ہیں۔ جنہیں شیطان مذنب کر کے دکھاتا ہے اور لوگ اسی

میں لگے رہتے ہیں۔

ایمان کی
علامات

اس کے برخلاف حضور علیہ السلام نے ایمان کی علامت یہ بیان فرمائی ہے
 إِذَا سَأَلْتَكَ حَسَنَتَكَ وَسَاءَتَكَ سَيِّئَتِكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ
 جب تمہیں نیکی اچھی لگے اور بُرائی سے نفرت پیدا ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے دل
 میں ایمان کی روشنی موجود ہے۔ اگر کسی کو بُرائی کا کام اچھا معلوم ہوتا ہے تو وہ
 شخص ایمان سے خالی ہے مومن آدمی ہمیشہ ایمان اور نیکی کی بات سے محبت
 کرتا ہے اور بُرائی سے نفرت کرتا ہے۔ اور پھر اگلا قدم یہ ہے کہ مومن بُرائی
 کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر صاحب اختیار ہے تو اس کو طاقت
 سے مٹاتا ہے، اگر مبلغ اور واعظ ہے تو اس کو زبان اور قلم سے روکتا ہے
 اور پھر اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں ہی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر بُرائی
 کے خلاف دل میں بھی نفرت پیدا نہ ہو تو پھر حضور نے فرمایا وَلَيْسَ وَمَرَأَةٌ
 ذَلِكَ حَبَّةٌ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِسْمَانِ تَوَالِّسَانِ مِثْلَ رَأْيِ رَأْيِ كَيْ دَانِي
 کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ وہ سرسبز گمراہی میں چلا جاتا ہے جس طرح ایمان
 نیکی کی باتوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح کافر لوگ شیطان کے بہکائے
 میں آکر کفر، شرک اور سوتا باطلہ کو اچھا سمجھتے ہیں

اکابر مجبرین

فرمایا حق اور باطل ہمیشہ برسرِ پیکار رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مِّمَّنْهَا
 اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم۔ اکابر اکبر کی
 جمع ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهَا تَاكُمُ وَهِيَ اس بستی میں جیلہ ساریاں اور
 مکاریاں کرتے رہیں۔ ایسے مجرمین ہر گاؤں، شہر اور ملک میں پیدا ہوتے رہتے
 ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ لوگ سب سے پہلے ایمان کے خلاف عیاری
 کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں بڑی بڑی مخفی
 تدبیریں کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ کا رسول اپنے مشن میں ناکام ہو جائے اور

ہماری سیادت اور رسم رواج چلتے رہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے کہ انبیاء کی مخالفت اکثر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں ہی نے کی تاکہ ان کی چودھریٹ قائم رہ سکے اللہ کا نبی تو حلال و حرام کی تمیز دکھاتا ہے اور کہتا ہے "كُلُوا مِمَّا خَلَا طَيِّبًا" زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ "كُلُوا مِمَّا خَلَا طَيِّبًا" ما رزقنا کم ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں۔ "وَأَعْمَلُوا صَالِحًا" اور نیک کام انجام دو سائے انبیاء کی یہی تعلیم رہی ہے۔ یہ چیز الجہل، عتبہ اور ولید جیسے اکابر مشرکین کے مزاج کے خلاف تھی لہذا وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کے مشن کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ اور اپنی من مانیوں کو جاری رکھنا چاہتے تھے۔

آج بھی ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی سرمایہ پرست لوگ ہیں۔ حلت و حرمت اور حقوق العباد کے احکامات کا رخنہ داروں، وڈیوں اور سرمایہ داروں کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں لہذا وہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر جب بالآخر لوگ ان کی چکی میں پستے ہیں تو انقلاب آتے ہیں۔ روس میں ایسا ہوا جب عوام سرمایہ داروں کے خلاف ہو گئے تو ۱۹۱۷ء کے انقلاب میں پورے دو کروڑ انسان مارے گئے افسوس کی بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت غریب کی حمایت کی بجائے سرمایہ پرستوں کی پشت پناہی کی جاتی ہے، حتیٰ کہ مذہبی قائدین بھی دو لہتمندوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مفتیان انہی کے حق میں دستوں دیتے ہیں اور اس طرح انہیں مزید ظلم و ستم کرنے اور غریبوں کا خون چوسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مولانا سنجی فرماتے ہیں کہ روس کے اشتراکی پروگرام میں ابتداء مذہب کو نہیں چھوڑا گیا تھا۔ بلکہ محض اقتصادی پروگرام تھا۔ مگر بعد میں انہوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ خدا تعالیٰ کا عقیدہ محض ایک وہم ہے، دین ایک ایفون ہے جسے سرمایہ دار لوگ ایفون کے طور پر استعمال کر کے عوام الناس کو نشتے کی حالت میں رکھتے ہیں اور اپنا کام

چلاتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج روس کے منشور میں دین کا کوئی تصور نہیں اور اس کی حمایت جرم سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شخص یہودیت، عیسائیت، ہندومت یا اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی بھی دین کے خلاف جو چاہے زہر اگلتا ہے۔ وہ جائز ہے۔ بہر حال جب کمزور لوگ سرمایہ داروں کے ہاتھوں بالکل پس گئے تو پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سرمایہ داروں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر تین تین میل تک گھسیٹا اور انہیں کتوں کی طرح ہلاک کیا۔ مشرقی ممالک میں بھی اگر سرمایہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا تو ایسا ہی رد عمل بعید از قیاس خیال نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام ایسے ہی ظالم کو روکنا چاہتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اِحْسَانٌ
 حَرَمَتْ ظُلْمًا عَلٰی نَفْسِیْ مِیْنِیْ نَظَمَ کُو سِیْ اِنِّیْ اِنِّیْ اِنِّیْ
 ہے، اے لوگو! تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ ایمان کے بعد غر بار پوری
 اہم ترین فریضہ ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ "وَ اِذِ الْقُرْبٰنِ
 حَقُّهُ وَالْمَسْکِیْنِ الْقَرٰبِیْنَ اُوْر مَسْکِیْنِیْنَ کَا حَقِّ اُوْر کُوْر مِیْکُوْر لِمَنْ
 یہ حق غصب کر لیتے ہیں جسکی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے اور پھر انقلابات
 آتے ہیں۔ "بِمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ" کے مصداق یہ ان کے
 اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔

فرمایا یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے لوگ بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں کہ کس طرح
 غریبوں کے حق کو دبائے رکھیں وَمَا یَمْکُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ
 اور وہ نہیں ہکا رہی کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کے ساتھ وَمَا یَشْعُرُوْنَ
 اور سمجھتے بھی نہیں۔ ان کی تمام تدبیریں انہی کے خلاف باقی ہیں اور وہ اپنے مذہب
 عزائم میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ابو جہل کی تمام تدابیر اور منصوبے چند ہی سال
 میں ناکام ہو گئے اور بالآخر حق ہی کامیاب ہوا۔ باطل ہمیشہ کے لیے نامزد ہو
 گیا۔ اس کے باوجود اہل باطل ہمیشہ اپنے طریقے کو ہی اچھا سمجھتے ہیں اور آخر کار

اس کا نتیجہ پاتے ہیں۔

فرمایا ایسے لوگ حق کو کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وَإِذَا

جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اور جب ان کے پاس کوئی واضح نشانی آجاتی ہے قَالُوا

لَوْ لَوْعُنَّا تو کہتے ہیں، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حَتَّىٰ نُفِئَ

مَا آؤنَا رُسُلَ اللَّهِ یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے جو اللہ

کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے رسولوں کے پاس وحی آتی

ہے، صحیفے آتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی ایسی چیزیں

ملنی چاہئیں۔ ان کے بغیر ہم ایمان لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ خالد رضا کا

باپ ولید بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ دس بیٹے اور وسیع مال و دولت تھا، سوئی

ہیں بڑا وقار حاصل تھا، کہتا تھا، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، وحی تو مجھ پر آنی

چاہئے تھی، رسالت مجھے ملنی چاہئے تھی، یہ مجھ کو کیسے مل گئی۔ کہتے تھے

لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ

عَظِيمِي (الزخرف) یہ قرآن پاک مکے اور طائف کے بڑے آدمیوں

پر کیوں نہیں آیا۔ نبوت ایک غریب شخص کو کیسے مل گئی، مگر اللہ تعالیٰ

نے اس کا اجمالی جواب دیدیا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے پیغام رسالت کہاں رکھنا ہے۔ وہ خالق،

اور باصلاحیت آدمی کو جانتا ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ رسالت کی تقسیم

نہ مال و دولت پر ہے اور نہ قوم اور برادری پر یہ تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے

جس پر کہے۔ یہ کس تکبر میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر

وحی نازل کی جائے یہ تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر منحصر ہے

فرمایا جو لوگ بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں سَيُصِيبُ الَّذِينَ

أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ مجرم لوگ عنقریب اللہ کے ہاں ذلت پائیں

گے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ تم پر جبرائیل

رسالت کی
تواہش

مجرم کے
لیے سزا

نازل ہوا اور اسی لیے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتے تھے۔ خدا کی تدبیر کا
 مقابلہ کرتے تھے "كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ
 أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا" (توبہ) ان کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی
 زیادہ تھی، لہذا نبوت پر بھی اپنا حق جتاتے تھے، اللہ نے فرمایا ان کے لیے
 ذلت ناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت
 والے دن یجئشی الامت کثرون کما قال ذر یوم القیامۃ
 قیامت والے دن تکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے اٹھائے
 جائیں گے، ان کو غرور کرنے کی وجہ سے ذلیل کیا جائے گا۔ اللہ نے ان کو
 دولت کی نعمت عطا کی مگر انہوں نے اس کا شکر کرنے کی بجائے تکبر کیا۔
 توحید و رسالت کا انکار کیا اور انبیاء کی تعلیم کا مقابلہ کیا۔ دنیا میں اندھیروں میں بھٹکے
 رہے مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں ذلت اٹھانی پڑی
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ سخت عذاب سے بھی دوچار ہوں گے بِمَا
كَانُوا یَمْكُرُونَ اس واسطے کہ حق کے خلاف سازشیں کرتے تھے
 بڑی چالیں چلتے تھے۔ اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے۔ اس کی اشاعت
 میں روڑے اٹھاتے تھے۔ لہذا ان پر ذلت کی مار پڑی اور سخت عذاب کا
 شکار ہوں گے۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا
حَرَجًا كَانَمَا كَانَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ

يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾
وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ط قَدْ فَصَّلْنَا
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَّهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

ترجمہ :- پس وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ

اس کو راہِ راست دکھائے، کھول دیتا ہے اُس کے سینے

کو اسلام کے لیے اور وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے

کہ اُس کو گمراہ کرے، کر دیتا ہے اُس کے سینے کو

تنگ، بہت زیادہ تنگ گویا کہ وہ شخص چڑھتا ہے آسمان

پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہ دیتا ہے گندگی اُن لوگوں پر

جو ایمان نہیں لاتے ﴿۱۲۵﴾ اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا

سیدھا۔ تحقیق ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں آیات

اُن لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ﴿۱۲۶﴾ اِن

لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس

اور وہی ان کا کارساز ہے اسوجہ سے جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں ﴿۱۲۷﴾

کا ارادہ کرتا ہے یُشْرِحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول
 دیتا ہے۔ شرح صدر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر کسی شخص کے دل
 میں اسلام، دین اور ایمان کا فہم پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کو قبول کرے تو
 یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، مگر اس کا انحصار بھی انسان کی طلب پر
 ہی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا كُنْهَدِيْنَهُمْ سُبُلَنَا
 (عجب کھوت) جو لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کے سامنے ہدایت کے
 راستے کھول دیتے ہیں اور جو لوگ اس جذبہ سے خالی ہوتے ہیں انہیں ہدایت
 نصیب نہیں ہوتی اور وہ محروم ہی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ضلالت اور عقل
 کو بروئے کار نہیں لاتے جسکی وجہ سے ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح نہیں
 ہوتا۔ دوسری جگہ یہ بھی موجود ہے۔ "أَيْنَبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ"
 (الضحیٰ) اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی طلب
 کرے گا۔ یقیناً انکے سامنے راستہ واضح کر دیا جائے گا۔ اس کے برخلاف جو شخص مغرور
 ہے، محاسبے کی فکر نہیں رکھتا، اہل ایمان کو کمزور اور حقیر جانتا ہے، دنیا کے
 جاہ و اقتدار کو پستہ کرتا ہے، ایسے لوگ ہدایت کے مستحق نہیں ہوتے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ جس
 شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے اس کی علامات کیا ہیں فرمایا إِلَّا نَابِدُ إِلَى
 دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِسْتِعْكَادُ
 لِّلْمَوْتِ قَبْلَ وَرُودِ الْمَوْتِ يَرْتِنُ نَشَانِيَا بِيَانِ فَرَمَائِيں کہ جس
 شخص کو شرح صدر حاصل ہو جائے وہ آخرت کی طرف رُخ کرتا ہے، ہر وقت
 متفکر رہتا ہے کہ اُسے بارگاہِ رب العزت میں پیش ہونا ہے اور دوسری نشانی
 کہ وہ دھوکے کے گھر یعنی اس دنیا سے حتی الامکان کنارہ کش رہتا ہے۔ دنیا میں
 زیادہ منہمک نہیں ہونا۔ حضور علیہ السلام نے زہد کی بھی ایسی ہی تعریف فرمائی ہے۔
 لَا يَكُونُ مِمَّا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقُ مِمَّا فِي يَدِ اللَّهِ بَعْنِي

شرح صدر
 کی علامات

زہد اس چیز کا نام ہے کہ تمہیں اس چیز پر اعتماد نہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے بلکہ اس چیز پر زیادہ اعتماد ہو۔
جو اللہ کے پاس ہے یقیناً وہی پائدار ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ تو عارضی ہیں۔ ان پر
کیسے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

كل نعیم لاحالة نائل وانت عن مقبلک عنقیب راحل
دنیا کی تمام نعمتیں زائل ہو جائیں گی اور تمہیں عنقریب یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔

دارِ آخرت یعنی اس دنیا کو دارِ الامتحان بھی کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس عارضی قیامگاہ
کو مستقل سمجھ لے اور دارِ الخلود یعنی ہمیشگی کے گھر کو فراموش کر دے تو وہ ناکام ہو
جائیگا۔ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، وہ آخرت کے گھر کی طرف
رجوع رکھتا ہے اور حتی المقدور اس دھوکے والے گھر سے کنارہ کشی اختیار
کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام دعائیں فرمایا کرتے تھے **اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ**
الدُّنْيَا أَكْبَرَ دَعْوَانَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا اللہ! صرف
دنیا کو ہماری منزل مقصود نہ بنا دے اور نہ ہی ہمارے علم کو اس دنیا تک محدود کر
دے بلکہ ہمارا رخ آخرت کی طرف پھیر دے۔ کافر اور مشرک کا منہائے مقصود
صرف دنیا ہوتا ہے جب کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں کا طلب گار ہوتا ہے
چنانچہ یہ دعا خود قرآن پاک نے سکھلائی ہے **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا**
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (البقرہ) اے اللہ! ہمیں دنیا میں
بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ
بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ حسنہ سے مراد محض دنیا کی خوشحالی نہیں کیونکہ یہ
تو کفار و مشرکین اور ملحدوں کو بھی میسر ہے، بلکہ حسنہ سے ایسی حالت مراد ہے
جو اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ بہتر حالت وہی ہے جس میں نجات
حاصل ہو جائے، چنانچہ ایک مومن اسی کا طالب ہوتا ہے۔

معاش
اور معاد

غرضیکہ مومن کے پیش نظر دو مقاصد ہوتے ہیں فریباہم المعاش
وہم السعاد یعنی دنیا میں اچھی گزاراں اور آخرت میں نجات۔ دنیا کی زندگی

میں اچھی معیشت ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص حیاتِ طیبہ کا خواہشمند
 ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک محنت کرنے والا مزدور اور کسان اچھی معیشت
 کا حامل ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس غلام کی حالت
 بہت اچھی ہے۔ جو اپنے مجازی مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور حقیقی مالک کے
 حقوق کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ یعنی اپنے آقا کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا
 نہیں رکھتا اور اللہ مالک الملک کی عبادت میں بھی منہمک رہتا ہے۔ ایسا
 غلام دہرے اجر کا مستحق ہوتا ہے ایک غریب مزدور کی حالت اس امیر کبیر
 کا رخصتے دار سے بدرجہا اچھی ہے۔ جسکی دولت عیاشی، فحاشی اور رسوماتِ باطلہ
 پر خرچ ہوتی ہے۔ مقصد یہ کہ اچھی معیشت محض دنیوی آسودگی کا نام نہیں بلکہ
 اللہ کے ہاں پسندیدہ حالت مراد ہے۔ اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوگی،
 جب انسان اپنے فرائض اور مخلوقِ خدا کے حقوق ادا کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ
 محدث دہلوی کے نزدیک ارتفاقاتِ معاشیہ کو صحیح طور پر انجام دینا ایک
 مومن کے لیے لازمی ہے۔ ایسا شخص جائز وسائل آمدنی اختیار کرتا ہے اور حرام
 راستوں سے بچتا ہے مصارف کے معاملہ میں بھی وہ حدِ اعتدال کو قائم رکھتا ہے،
 نہ کبھو سی کرتا ہے اور نہ اسراف کا مرتکب ہوتا ہے، نہ تو ناجائز ذرائع سے
 مال حاصل کرتا ہے اور نہ ہی محنت، مزدوری، تجارت یا صنعت سے کمایا
 ہوا مال بہت بوجہ آتش بازی اور ویسے کی پرتکت دعوگوں پر اڑاتا ہے وہ نہ
 تو سختہ قبریں بناتا ہے اور نہ ان پر چادریں چڑھاتا ہے، نہ وہ عرس اور قوالی کرتا
 ہے اور نہ ختم دلوں کا ہے۔ یہ سب اصنافِ مال ہے جس سے اللہ کے
 رسول نے منع فرمایا ہے۔ حرام کی کھائی کو ترقی کا نام دینا دھوکے کا سامان ہے۔
رشوت، سود، ہمیہ، کھیل تماشے کی آمدنی ناجائز ذرائع میں سے ہے۔ گانے،
 بجانے، تصویر سازی اور بلیک مارکیٹنگ کی کھائی پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ
 آخرت میں وبال جان بن جائے گی۔ اس کی بجائے ذرائع سے کماؤ اور جائزہ مصارف

پر خرچ کرو کہ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں نجات ہے۔

بہر حال شرح صدر کی دوسری علامت یہ ہے کہ حتی الامکان دنیا سے دل نہ لگایا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے۔ کیونکہ لا رہبانیتہ فی الاسلام اسلام میں ترک دنیا کا کوئی تصور نہیں تاہم دنیا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو عارضی قیام گاہ ہی سمجھنا چاہیے اور توجہ ہمیشہ دار الخلود یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ اور شرح صدر کی تیسری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص موت کے وارد ہونے سے پہلے اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔

اکثروا ذکر اللذات یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس سے دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس کے دل پر زنگ نہیں چڑھے گا۔ اور اگر قرآن پاک کی بجائے ناول ہی پڑھتے رہو گے، گلے سنو گے تو دل پر زنگ چڑھ جائے گا۔ اور وہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں موت بھول جائے گی۔ انگریزی اور یورپی تمدن اسی بیج پر آکر آخرت اور خدا تعالیٰ کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ نہ خدا کا تصور اور نہ آخرت کی فکر۔ ان کے پیش نظر ایک ہی چیز ہے۔

بابہ بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

بہر حال فرمایا کہ شرح صدر کی تیسری علامت یہ ہے کہ انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔

دل کی کشادگی کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی کے متعلق فرمایا ہے

وَمَنْ يُّرِدِ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا مِّنْ عَيْنِي وَرِجًا مِّنْ عَيْنِي

تنگی والا حرج اس درخت کو کہتے ہیں جو بہت سے گھنے درختوں کے

جھنڈ کے اندر واقع ہو اور وہاں تک کوئی چیز آسانی سے نہ پہنچ سکے۔ سینے کی تنگی کا بھی یہی مطلب ہے کہ اس میں کوئی کار خیر، ایمان یا ہدایت داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے كَأَنَّمَا يُصِغَدُ فِي السَّمَاءِ گویا وہ آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے۔ مگر چڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح تنگ دل میں نیکی کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔

دل کا تنگ ہو جانا بلا وجہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ قدرت نے سبب اور مسبب یا علت اور معلول کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے دل کا پیشہ صاف رکھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے سامنے راہِ راست کو واضح کر دیگا اس کے برخلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا، جسے محاسبہ کی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے ہادیوں کو حقیر سمجھتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے اور جاہ پسند ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا صُمُّ الْبُكْمِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (انفال) ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ وہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں اور نہ انہیں راہِ راست سیر آتا ہے۔

فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اسی طرح اللہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، رجس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ گندگی کے علاوہ اس لفظ کا معنی عذاب بھی ہے۔ یہ معنی بھی صادق آتا ہے کہ جس شخص کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رجس شیطان پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان تو بذاتِ خود گندہ ہے، اس کی فکر گندی ہے اور وہ گندگی ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے

حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو۔
 اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ یعنی میں نے اور مادہ شیطانی سے
 خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا کہنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وگرنہ
 حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اعضاء مستورہ کے ساتھ بیت الخلاء میں
 کھلتے رہتے ہیں۔

فَرِيَا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ ہے تیرے رب
 کا سیدھا راستہ جس پر اللہ کا آخری پیغمبر اور اس کے پیروکار چلے گئے ہیں اور
 جس کے اصول و ضوابط اللہ نے اس کتاب قرآن پاک میں نازل فرمائیے
 ہیں۔ پھر کہاں ضرورت تھی، اللہ کے نبی نے ان کی تشریح بھی بیان کر دی
 ہے۔ دو کے مقام پر فرمایا هَذَا صِرَاطٌ عَلٰی مُسْتَقِيمٍ (الحجس)
 یہی میری طرف سیدھا راستہ ہے آگے فرمایا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ
يَذَكَّرُوْنَ ہم نے تفصیل کے ساتھ نشانیاں، معجزات، دلائل، احکام اور
 اصول وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔
 اس کی وحدانیت، قدرت نامہ اور حکمت بالغہ کو واضح کرتی ہیں۔ اور یہ اس
 قوم کے لیے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ جو لوگ نصیحت کی طرف توجہ ہی نہیں
 کرتے ان کے لیے کوئی دلیل اور نشانی مفید نہیں ہو سکتی۔ سورۃ غاشیہ میں ہے
فَذَكِّرْهُ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ آپ لوگوں کو نصیحت کریں کیونکہ آپ کا
 کام نصیحت کرنا ہی ہے۔ سورۃ اعلیٰ میں ہے سَيَذَكِّرُوْنَ يَخْشٰى
 نصیحت وہ آدمی پکڑتا ہے جس کے دل میں خوف ہو، جس کے دل میں آخرت
 اور محاسبے کا خوف جاگزیں ہوگا۔ وہ اللہ کی بیان کردہ نشانیوں سے ضرور
 نصیحت پکڑے گا۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِيْ نَفْسِكَ اپنے دل
 میں رب کا ذکر کرو وَبِالْقُدُوِّ وَالْاَصَالِ یعنی صبح و شام وَلَا تَكُنْ مِنَ
الْعَافِيْنَ اور غافلوں میں نہ ہو جانا۔ سورۃ یوسف میں ہے وَكَآيِنٌ مِّنْ

آیۃٌ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَسْمَوْنَ عَلَیْهَا وَهَمَّ
عَنْهَا مُعْرِضُونَ زہین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں موجود
ہیں۔ جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں مگر ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے بہر حال
فرمایا کہ ہم نے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان
کر دی ہیں۔ صراطِ مستقیم کو واضح کر دیا ہے، اب جو چاہے اس راستے کو اختیار
کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے اور جو چاہے اس سے اعراض کر کے گمراہی
کے اندھیروں میں ٹھسکتا پھرے۔

فرمایا جو لوگ ہماری نشانیوں سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں لہم داراً
عِنْدَ رَبِّہُمْ اُن کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس دارِ سلام
سے مراد جنت ہے۔ جیسے دعا کی جاتی ہے اے مولا کریم! اَدْخِلْنَا فِی
دَارِ السَّلَامِ ہم سب کو سلامتی کے گھر میں داخل فرما۔ جنت سلامتی کا گھر اس
لیے ہے کہ وہاں کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی۔ نہ کوئی بیمار ہوگا اور نہ پریشان ہوگا
ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گے۔ سورۃ زمر میں ہے کہ جب فرشتے
جنتیوں کو گروہ درگروہ جنت کی طرف لے جائیں گے تو ان کے لیے دروازے
کھول دیئے جائیں گے تو ان سے کہا جائیگا سَلِّمُ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ
فَادْخُلُوْہَا خٰلِدِیْنَ (الذمر) تم پر سلامتی ہو۔ تم بہت اچھے ہے اب
اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا۔
سَلَامٌ وَ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِیْمٍ (یسین) مومن بھی ایک
دوسرے کو سلام کریں گے اور فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے۔ اسی
کے متعلق فرمایا کہ صراطِ مستقیم پر چلنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس
سلامتی کا گھر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

فرمایا وَہُوَ وِلٰیہُمْ اور وہی اللہ ان کا کارساز ہے جو لوگ
اللہ کی رضا کے طالب ہیں، جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا ہے، جو صراطِ مستقیم

کے مسافر ہیں اور جو آخرت کے محاسب سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کا کارساز اور نگہبان

ہے۔ اور یہ انعام ان کو اس بدلے میں حاصل ہوگا بِمَانِكَ اَلْوَا يَعْمَلُوْنَ

جو کچھ وہ اس دنیا میں کرتے رہے۔ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں ایمان حاصل

کیا اور نیک کام انجام دیے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی

ہو جائے گا، ان کا کارساز ہوگا اور اس طرح وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔

وَلْيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَسِيماً ۚ يُعْشَرُ الْجِنَّ قَدِ
 اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْإِنْسِ ۚ وَقَالَ أَوْلِيؤُهُمْ مِّنَ
 الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ۗ وَبَلَّغْنَا
 آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثُوكُمْ
 خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
 عَلِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيُّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا
 بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۲۹﴾

۵۵۲۲

ترجمہ :- اور اُس دِن کا خیال کرو جس دِن اکٹھا
 کرے گا اللہ ان سب کو اور فرمائے گا اے جنات کے
 گروہ ! تحقیق تم نے بہت زیادہ کھیلے گمراہ انسان ،
 اور کہیں گے ان کے رفیق انسانوں میں سے ، اے ہمارے
 پروردگار فائدہ اٹھایا ہمارے بعض نے بعض سے اور
 پہنچے ہم اس مدت تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی
 تھی ۔ اللہ فرمائے گا کہ دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے
 وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے مگر جو اللہ چاہے
 بیشک تیرا پروردگار حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا
 ہے ﴿۱۲۸﴾ اور اس طرح ہم بلا دیں گے بعض ظالموں
 کو بعض کے ساتھ اس وجہ سے جو کچھ وہ اعمال کرتے تھے ﴿۱۲۹﴾

ربط آیات

گذشتہ دروس میں یہ بیان آچکا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ راہِ راست کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہی میں رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اس میں ایمان اور اسلام جیسی اعلیٰ چیز داخل نہیں ہو سکتی اور پھر اس شخص کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس کو آسمان پر چڑھنا پڑے۔ جس طرح کوئی شخص اس مادی جسم کے ساتھ آسمان پر نہیں چڑھ سکتا اسی طرح تنگ دل شخص ہدایت کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کفر شرک کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سزا ست ڈال دیتا ہے۔ جو ایمان سے محروم ہوتے ہیں، ضد اور عناد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو کہ بجائے خود ایک گندگی ہے۔ وہ انسان کے دل و دماغ میں ناپاک خیالات ڈالتا ہے جسکی بنیاد پر ایسا شخص صراطِ مستقیم سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اور انسان کے باہمی تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ جب محاسب کا وقت آئیگا تو انسان اقرار کریں گے کہ ہم نے شیطان سے اور شیطان نے ہم سے فائدہ اٹھایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو جہنم کی سزا کا حکم سنائیں گے۔

جنوں اور انسانوں کا محاسبہ

ارشاد ہوتا یَوْمَ یَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا اُس دن کو دھیان میں لاؤ جس دن اللہ رب العزت پروردگار عالم اور معبودِ بحق سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور محاسبے کا عمل شروع کرے گا۔ جنات سے خطاب ہوگا لَیْمَعِشِ الْجِنَّ لے جنات کے گروہ! قَدْ اسْتَكْتَبْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ تَم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگ اپنے پیچھے لگائے یعنی ان کو گمراہ کر دیا۔ وَقَالَ اَوْلِیٰؤُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے یعنی اقرار کریں گے کہ بیشک جنوں نے ہم میں سے کثیر تعداد کو بہکا کر راہِ راست سے گمراہ کر دیا۔ جس طرح یہاں پر جنات سے خطاب ہے اسی طرح سورۃ یس میں انسانوں

سے بھی اللہ نے خطاب فرمایا ہے "اَلَمْ اَعْهَدْ اَلَيْكُمْ يٰبَنِي اٰدَمَ
 اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ" اے بنی آدم! کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا
 کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر کی پرستش شیطان ہی کی پوجا
 ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شیطان ہی کے اغواء، اضلال اور وسوسہ اندازی سے ہوتی
 ہے۔ بہر حال اس آیت میں جنات کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ انسان اور جن دونوں
 مکلف ہیں اور قیامت کے دن محاسبہ کے عمل سے گزریں گے۔ انسانوں
 کی آبادی سے پہلے اس زمین میں جن آباد تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت
 آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے جن یہاں آباد تھے۔ پھر جب انہوں
 نے فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں سے بھگا دیا اور یہ خوفناک
 جنگلوں، پہاڑوں اور جزیروں کی طرف چلے گئے۔ اس طرح زمین ان سے پاک ہو
 گئی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر کے آپ کی نسل کو چلایا۔ مفسرین کرام
 یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں۔ بعض
 کافر، بعض مشرک، بعض منافق اور بعض مومن اور موحد ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں
 میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں اسی طرح جن بھی مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں۔ بہر حال
 جن اور انسان اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ اگلے رکوع میں اسکی مزید تفصیل آئیگی۔

فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے
 فرمائے گا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، تو شیطان کے دوست انسان
 کہیں گے کہ پورے دگار! تیرا فرمان بے حق ہے۔ ہم واقعی شیطان کا اتباع کرتے
 ہیں اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ اور یہ بھی عرض کریں گے رَبَّنَا

اسْتَمْتَعْنَا بِبَعْضِنَا بِبَعْضٍ، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ
 اٹھایا یعنی جنات انسانوں سے مستفید ہوتے ہیں اور انسان جنات سے
 استفادہ کرتے ہیں۔ جنات کا انسان سے فائدہ اٹھانا اس طرح ہے کہ
 جنات نے انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے ان کو گمراہ کیا۔ جیسا کہ

ایک دفعہ
 سے استفادہ

سورۃ جن میں موجود ہے ”فَزَادُوهُمْ رَهَقًا“ جب جنات نے دیکھا، کہ انسان اُن سے ڈرتے ہیں اُن کی نذر نیاز کمہ تے ہیں، اُن کی پناہ میں آتے ہیں تو اُن کے غرور و تکبر اور اکثر میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس طرح انہوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا۔ انسانوں کے مستفید ہونے کی صورت یہ ہے کہ انہیں شیطان کے بتائے ہوئے عقائدِ باطلہ میں لطف و سرور حاصل ہونے لگا۔ طرح طرح کی مشرکانہ رسوم سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اہل بدعت کو بدعات کے کاموں میں لطف آنے لگا اور وہ ان میں مزید مہمک ہو گئے۔ کسی کو قبر پر حاضری سے اطمینانِ قلب حاصل ہو گیا۔ اور کسی کو نذرِ غیر اللہ سے کامیابی ہو گئی۔ کسی نے جھنڈیاں لگا کر اور کسی نے جلوں نکال کر اور کسی نے نعرے بازی کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیا۔ اُدھر شیطان بھی خوش ہو گیا کہ اُس کا حربہ کامیاب رہا ہے اور لوگ گمراہی کی طرف چل نکلے ہیں، اس طرح گویا جنوں اور انسانوں نے ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کیا جس کا ذکر اس آیتِ کریمہ میں ہوا ہے۔

انسانوں کا اعترافِ حقیقت

اللہ کے دربار میں انسان بھی اس حقیقت کا اعتراف کہیں گے کہ وہ قیامت کے منکر تھے، توحید کا انکار اور شرک میں مگن رہے مگر ہمارا خیال غلط نکلا، ہمارا عقیدہ باطل ثابت ہوا وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْت لَنَا اور تو نے ہمارے لیے جو وقت مقرر کر رکھا تھا ہم اُس تک پہنچ گئے اور قیامت آگئی۔ اللہ تعالیٰ ہر انس و جن کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب اُس کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر پوری کائنات کے لیے بحیثیتِ مجموعی بھی ایک وقت معین ہے جب قیامت برپا ہو جائیگی۔ تو انسان کہیں گے مولا کریم! ہم نے اس دن کا انکار کیا، شیطان کا اتباع کرتے رہے، اُس نے ہم سے اپنی باتیں منوائیں، ہم کفر اور شرک میں مبتلا رہے، بدعات کو ہی دین سمجھتے رہے اور اصل دین سے غافل ہو گئے اور آخر کار اُس وقت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا تھا۔

اس اعتراف حقیقت یا اقبالی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا قَالَ الْمَلَأُ
مَشْوَاكُمْ اب جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانا ہے۔ انسان ہو یا جن جس نے بھی غرور و
تکبر کیا، شرک، کفر اور بدعات میں مبتلا رہا، رسومات باطلہ کے پیچھے لگا رہا، اللہ
کی وحدانیت سے انکار کیا، اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ ہو گا۔ اور پھر
یہ بھی کہ جہنم کی سزا عارضی نہیں ہوگی کہ مدت پوری ہونے پر وہاں سے نکال لیے جائیں
گے بلکہ خَلِدِينَ فِيهَا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے إِلَّا مَا شَاءَ
اللَّهُ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ مشیت الہی کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بہ
کی توفیق دے دے، حقیقت اسکی سمجھ میں آجائے تو وہ توجید کا اقرار کر کے دوزخ
سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے قرآن پاک
میں مذکور ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جلیں گے تو پانی طلب کریں گے۔ پھر ان
کو پانی کی طرف لے جایا جائیگا جو کہ کھولتا ہوا ہو گا۔ اگرچہ اس سے دوزخیوں کو
کوئی خاص فائدہ تو نہ ہو گا مگر اتنی دیر تک آگ میں جلنے سے تو افاقہ رہے گا۔
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا اپنی مشیت اور ارادے
سے دے گا، وہ چاہے تو کسی سے سزا موقوف کر دے۔ وہ تو خود مختار ہے، وہ
سزا دینے پر مجبور تو نہیں ہے، لہذا جس کی چاہے سزا معاف بھی کر سکتا ہے
اعمال انسانی کا طبعی تقاضا تو یہی ہے کہ اُسے اعمال کے مطابق سزا یا جزا دی
جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے پابند بھی نہیں، کہ وہ کسی کو ضرور ہی سزا
دے یا کسی کو ضرور ہی معاف کر دے۔ اگرچہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کسی کافر
اور مشرک کو نہیں چھوڑے گا مگر وہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ
نہیں۔ فرمایا إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ تیرا رب حکیم ہے، وہ
ہر کام اپنی حکمت نامہ کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اُس کا سزا اور جزا کا ہر فیصلہ
حکمت پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ وہ علیم بھی ہے اور کوئی چیز اس کے احاطہ علم سے
باہر نہیں۔ اُس کا ہر فیصلہ شک و شبہ سے بالا کامل علم پر ہوتا ہے۔

ایک دوسرے
کی رفاقت

جنوں اور انسانوں کے محاسبے کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے
آخرت میں مختلف لوگوں کی آپس میں رفاقت کا ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں کی سزا کا
بیان ہوا ہے، اُن کے متعلق فرمایا وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ
بَعْضًا اور اسی طرح ہم ملا دیں گے، بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ یعنی دوزخ
میں جانے والے ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے۔ نولی کے معنی قریب
کمرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیرؓ، حضرت قتادہؓ اور
حضرت عمر فاروقؓ اور بعض دیگر مفسرین نے اس آیت میں قریب کا معنی ہی
لیا ہے۔ اور پورا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ اس طرح ہم بعض ظالموں
کو بعض دوسرے ظالموں کے قریب کر دیں گے یعنی اُن کو ایک دوسرے
کی رفاقت حاصل ہوگی۔ سورۃ تکوید میں آخرت میں تمام لوگوں کے متعلق فرمایا
هے "وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ" جب ہر قسم کے لوگوں کو بلا دیا جائے گا
مفسرین اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگوں کے علیحدہ علیحدہ گروہ
بنائے جائیں گے۔ حشر کے میدان میں نیچوں کی قطاریں الگ ہوں گی اور پیروں
کی الگ ہونگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ اعمال اور جرائم کے اعتبار سے بھی الگ الگ
قطاریں ہوں گی، سب سے اچھے اعمال انجام دینے والے اور سو فیصد نیک حاصل کرنے
والے ایک قطار میں ہوں گے اور اس سے کم نوسے نمبر والے اور پھر پچاس نمبر
حاصل کرنے والے علیحدہ علیحدہ قطاروں میں کھڑے ہوں گے۔ جس درجے کی
کسی نے نیکی یا بُرائی کی ہے۔ وہ اسی گروہ میں شامل ہوگا۔ اسی طرح ظالموں کی تہ
بل جائیں گے، شرک کرنے والے مشرکوں کے ساتھ ہوں گے اور توحید پرست
مؤحدین کے گروہ میں شامل ہوں گے، جس طرح دنیا میں

”کنڈ ہم جنس باہم جنس پر واند

کبوتر با کبوتر بانہ با بانہ

کا مقولہ ہے، اس طرح آخرت میں بھی ایک دوسرے کی رفاقت حاصل ہوگی۔

حتیٰ کہ چور چوروں کے ساتھ ہوں گے اور عبادت گزار عبادت گزاروں کے ساتھ۔ جس طرح دنیا میں لوگ اچھی سوسائٹی کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو بہتر سوسائٹی نصیب ہوگی اور جو لوگ اس دنیا میں بُری سوسائٹی میں رہتے تھے، آخرت میں بھی انہیں ویسی ہی رفاقت میسر آئیگی۔ وہ سزا کے دوران بھی ایک دوسرے کے قریب ہی ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اہمیت کہ یہ کہ یہ مفہوم بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

ایک دوسرے پر تسلط

توڑی کا ایک معنی تسلط کر دینا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ولایت یعنی مدد اور نصرت کے بھی آتے ہیں۔ اس سے حکومت اور سلطنت بھی مراد ہوتا ہے اسی لیے متولی وہ ہوتا ہے جو نگرانی اور حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر نوری کا معنی تسلط کر دینا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر تسلط کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو حید کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں ان کی گمراہیوں پر شیطان تسلط ہو جاتا ہے، ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر ان کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے۔ سورۃ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے "وَمَنْ يُعَشِّ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نَقِيضٌ لِّهٖ شَيْطٰنًا فَهُوَ كَذٰبٌ" جو شخص قرآن سے اعراض کرتا ہے اس کی گمراہی پر شیطان تسلط ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ کے دین سے منہ موڑنے والے ظالم ہیں اور ان پر شیطان ظالم کو تسلط کر دیا جاتا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ یہ اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔

اس تسلط سے ایک دوسرا عام فہم معنی بھی لیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ایک ظالم پر دوسرے بڑے ظالم کو تسلط کر دیتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ما تکونون یومئذ علیکم او کذا لک یولیٰ علیکم یعنی اے لوگو! جس

جیسی عیایا ویلے حاکم

طرح کے تم خود ہو گے اسی طرح کے تم پر حاکم مقرر کر دیے جائیں گے۔ اگر تم اچھے
 عادات و خصائل کے مالک ہو، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے
 ہو۔ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو تمہارے حاکم بھی رحم دل اور خد
 کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور اگر تم ظلم و جور کے عادی ہوں گے، کمزوروں
 پر ظلم کرو گے، غریبوں کی حق تلفی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر حاکم بھی ایسے مسلط کر
 دیگا جو تمہیں ظلم کا نشانہ بنائیں گے اور تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔
 ایک دوسری حدیث میں آتا ہے من اعان ظالمین اسلط اللہ علیہ
 ظالمین جو شخص ظالم کی اعانت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک بڑا ظالم مسلط کر دیگا
 جو اسے ذلیل کرے گا۔ دنیا میں جہاں کہیں لوگوں میں ظلم و ستم کا دور دورہ ہو، ان پر
 حاکم بھی ایسے ہی مسلط ہوتے ہیں جو ان کی سرکوبی کرتے رہیں۔ اور یہ سب کچھ ان
 کی اپنی کمائی کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو سلوک وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کرتے
 ہیں۔ وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم عدل و انصاف
 کی بجائے ظلم کو پسند کرتی ہے تو خدا تعالیٰ ان پر کسی ظالم کو ہی مسلط کر دیتا ہے۔
 تو بہر حال اسی طرح ہم بعض کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور انسانوں پر شیطانوں
 کا مسلط ہونا انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں یہ بیان تو
 کفر و شرک اور شیطان کے تسلط کا تھا تاہم اس کا اطلاق ایک انسان کا دوسرے
 انسان پر بھی ہوتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ایک ظالم کو
 دوسرے ظالم کے ذریعے دفع کر دیتا ہے اور پھر یہ بھی بیان ہو گیا کہ جس طرح دنیا
 میں ایک طرح کی سوجھ بوجھ کے آدمی ایک گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی
 طرح آخرت میں ہر شخص اپنے اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق اپنے اپنے
 گروہ میں شامل ہوگا۔

لِسَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِّنْكُمْ
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
 كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾ ذَلِكَ أَنَّ لَكُمْ يَكُنْ رَبُّكَ
 مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ
 دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن
 أَنشَأْ يَدُهْبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
 مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَ كُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ
 آخِرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيٌّ وَمَا أَنْتُمْ
 بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ
 إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
 عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

ترجمہ :- (اللہ فرمایگا) اے جنوں اور انسانوں کی عبادت

کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو

بیان کرتے تھے تم پر میری آئیں اور ڈراتے تھے تم کو اس
 دن کی ملاقات سے ، تو کہیں گے وہ (جواب میں) ہم
 گواہی دیتے ہیں اپنے نفسوں پر (کہ ہم مجرم ہیں) اور دھوکہ
 دیا ان کو دنیا کی زندگی نے اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں
 پر کہ بیشک وہ کفر کرنے والے تھے (۱۳۰) یہ (رسولوں کا بھیننا)
 اس وجہ سے ہے کہ نہیں ہے تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا
 بستیوں کو ظلم کے ساتھ درانجامیکہ وہاں کے رہنے والے لوگ
 غافل ہوں (۱۳۱) ہر ایک کے لیے درجہ ہے اُس سے جو
 اُس نے عمل کیا اور نہیں ہے تیرا رب غافل اُن کاموں
 سے جو یہ کہتے ہیں (۱۳۲) اور تیرا پروردگار بے نیاز اور رحمت
 والا ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارا جانشین
 بنائے تمہارے بعد جس کو چاہے جیسا کہ اُس نے اٹھایا ہے
 تم کو دوسری قوم کی اولاد سے (۱۳۳) بیشک وہ چیز جس کا
 تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز
 کرنے والے نہیں ہو (۱۳۴) اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، اے لوگو
 عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں پس
 عنقریب تم جان لو گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا
 گھر۔ بیشک یہ (یقینی بات ہے) کہ نہیں فلاح پاتے ظلم
 کرنے والے (۱۳۵)

ربط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے مکلف ہونے
 کا ذکر کیا اور قیامت کو جزائے عمل کا حال بیان کیا۔ اور اس سلسلے میں قیامت
 میں پیش آنے والے سوال و جواب کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں ایسے واقعات

سے مشرکوں اور کافروں کی تبنیہ مراد ہے تاکہ اگر وہ بچنا چاہیں تو بچ سکیں۔ گذشتہ آیات میں جنوں سے خطاب تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، تو انسان بھی اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا۔ جنات نے اپنی سیادت قائم رکھی اور اپنی بات انسانوں سے منوائی جب کہ انسان نے باطل عقائد اور باطل اعمال پر خوشی کا اظہار کیا اور انہی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر جب وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانا جہنم میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا۔ اور جو لوگ اس دنیا میں ظلم و تعدی کرتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔

جن وانس
سے مکالمہ

جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِيُعْشِيَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ لِمَنْ جَنُّوا اور انسانوں کے گروہ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے۔ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ الْبَيْتِ جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب جنات اور انسانوں دونوں گروہوں سے ہو گا کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند یعنی مکلف ہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا میرے رسولوں نے تمہیں نہیں بتایا کہ اکیدن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں پہ اعمال کی بازپرسی بھی ہوگی۔ اس کے جواب میں تمام جن اور انسان کہیں گے قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں، کہ اے مولا کریم! بلاشبہ تیرے رسول ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا، تبلیغ کی، مگر ہم ہی قصور وار ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا جسکی وجہ سے آج مجرموں کے کھڑے میں کھڑے ہیں۔

جنات کے
رسول یا منذر

مفسرین کرام اس بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ جنات کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے ہیں یا نہیں۔ انسانوں میں رسولوں کی آمد تو یقینی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں انبیاء اور رسل اللہ نے بھیجے۔ ان پر کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائے، بعض کو مستقل شریعت دی اور بعض کو مستقل کتاب و شریعت عطا نہیں کی۔ البتہ جنات کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہنکھڑ کی ضمیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جنوں میں بھی رسول آتے رہے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات میں رسول نہیں آتے رہے بلکہ صرف منذر آتے رہے ہیں جو ان کو آخرت کے انجام سے ڈراتے تھے اور خبردار کرتے تھے۔ اور یہ انسانی دور سے قبل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے توسط سے جنوں کی طرف اپنے منذر بھیجتا رہا۔ مگر مستقل رسول نہیں بھیجے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ ایک مقام پر نماز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے تو وہاں جنات کا ایک گروہ آیا، انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ "وَلَوْ آتَاكَ الْقَوْمُ هَمًّا مَّنْذِرِينَ" (احقاف) پھر وہ اپنی قوم کی طرف منذر یعنی ڈرانے والے بن کر گئے۔ انہوں نے جو کچھ سنا تھا، اپنی قوم جنات میں اُس کی تبلیغ کی۔

بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنوں میں بھی رسول آتے رہے ہیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (نبی اسرائیل) ہم کسی قوم کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے۔ جب تک ان میں رسول نہ بھیج لیں۔ جنات کے لیے بھی یہی اصول ہے لہذا اگر جنات میں بھی رسول آئے ہوں تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ انسانی دور سے پہلے جنات میں رسولوں کا آنا زیادہ

قرین قیاس ہے اس کے بعد مستقل رسول نہیں آئے۔ اب جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ ان میں بھی کافر، مشرک اور مؤمن ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مختلف فرقے ہیں۔ اسی طرح جنوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔

جنات کے
صحیفے

تفسیر مظہری مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی دس جلدوں میں مشہور تفسیر ہے جو کہ اپنے اپنے پیر و مرشد خواجہ مظہر جانِ جاناں شہیدؒ کے نام پر منسوب کی۔ آپ عالم گیرؒ کے خالہ زاد بھائی اور اپنے زمانے کے بڑے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے تھے، آپ کو شیعوں نے شہید کیا تھا۔ نو حضرت پانی پتیؒ فرماتے ہیں۔ کہ ہندو مت میں نبوت و رسالت کا کوئی تصور نہیں، البتہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو چار آدمیوں کو منتخب کر کے ان کو چار کتابیں عطا کر دیں۔ یہ کتابیں رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے کار آمد رہیں گی۔ ان کتابوں کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں آئیگی، یہ کتابیں ان کے چار مشہور وید ہیں مگر انہی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی کہ یہ کب نازل ہوئیں بعض ان کا نزول ہزاروں سال پہلے بتاتے ہیں اور بعض اس مدت کو لاکھوں سال پر محمول کرتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہؒ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چار کتابیں جنات کے صحیفے ہوں جو انسانی دور سے پہلے جنات کی طرف نازل کیے گئے اور جنات کے ذریعے یہ انسانوں تک بھی پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ بعض انسان جنوں کے ساتھ نسل میں بھی وابستہ ہیں۔ بعض جنیوں کا نکاح انسانوں کے ساتھ ہوا، ان سے اولاد پیدا ہوئی اور اس طرح یہ چار کتابیں جنوں سے انسانوں تک پہنچیں۔ یہ محض خیال ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہر حال ان کتابوں میں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ وہ قابل قبول ہیں، اور جو قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتیں، انہیں شیطانی عمل دخل سمجھا جائے گا۔ تورات و انجیل کے متعلق بھی یہی نظریہ ہے۔ قاضی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی بات ہو تاہم یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

دنیوی زندگی
کا دھوکا

جب لوگ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
وَعَسَيْتُمْ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اَنْ كُوْنُ دُنْيَا كِي زَنْدِ كِي نِي دھوكے ميں ڈال
ديا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، غلط کاروں کے پیچھے
چلتے رہے، سچے لوگوں کی بات کو تسلیم نہ کیا، ایمان سے محروم رہے۔ دنیا کی
ظاہری شان و شوکت میں محو رہے اور اسی کو اول و آخر سمجھ لیا، چنانچہ زندگی کے
اپنی لوازمات نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اکثر لوگ اسی طرح دنیا کے دھوکے
میں آتے رہے ہیں حالانکہ انبیاء علیہم السلام انہیں بار بار تنبیہ کرتے رہے ہیں۔
لَا تَغْرِبَنَّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا (فاطر) دیکھنا تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے
میں نہ ڈال دے۔ بہر حال اللہ رب العزت کے دربار میں لوگ اپنی غلطی کا اعتراف
کریں گے وَشَهِدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اور اپنے خلاف خود گواہی دیں
گے اَنْهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ کہ بیشک وہ کفر کیا کرتے تھے۔ انبیاء
کی تعلیم کا انکار کیا، دنیا کی لذات و شہوات میں مگن رہے اور احکم الحاکمین
کے حکم کی پروا نہ کی۔

حشر کا دن بہت لمبا دن ہوگا اور اس میں مختلف قسم کے مواقع آئیں گے
بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے کہ جب کفار و مشرکین سے باز رہیں ہوگی کہ تم
نے ایسا کام کیوں کیا تو وہ انکار کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ مگر بعض مواقع
پر اپنے جرموں کا صاف طور پر اقرار بھی کریں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ
اگر ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم تیرے فرمانبردار بندے
بن کر رہیں گے اور کوئی غلط کام نہیں کریں گے مگر اللہ فرمائے گا کہ اب کسی
کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے۔
اس میں بھی مجرم لوگ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے کہ بیشک وہ دنیا میں
کفر ہی کرتے رہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ پہلے وہ انسان کی راہنمائی کے لیے پورے

عذاب کے
پہلے تنبیہ

وسائل مہیا کرنا ہے، انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، کتاب اور شریعت نازل فرماتا ہے اور پھر اس پر ایمان لانے اور عمل کر نیچی مہلت دیتا ہے اس کے بعد اگر کوئی قوم اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو پھر وہ ان کو سزا میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذٰلِكَ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفٰسِقِ بِظُلْمٍ وَّ اٰهْلَهَا عٰفِلُوْنَ
 تیرا پورا ورگ کار بستوں کے ہننے والوں کو ظلم کے ساتھ تو ہلاک نہیں کہہ تا جب کہ وہ غافل ہوں بمقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بلا اطلاع اور پہلے سے تنبیہ کے بغیر سزا میں مبتلا نہیں کرتا۔ پہلے وہ تبلیغ و انذار کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، مبلغین خبردار کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔

فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا درجہ ہے۔ عمل جتنا اچھا اور زیادہ ہوگا، اسی کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ جزا ملے گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کے سو درجات ہیں اور ان میں سے ہر درجہ دو سو درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے اس کے برخلاف جس شخص کا جتنا بڑا جرم ہوگا۔ اُس کو اسی کے مطابق کم یا زیادہ سزا دی جائیگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اَسْ كِى کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ وَمَا رَّبُّكَ بِعَٰفِیْ عَمَّا
یَعْمَلُوْنَ اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے خوب واقف ہے اور ان اعمال کے مطابق ہی جزا یا سزا کے درجات مقرر کرے گا۔

فرمایا انبیاء کی بعثت اور کتب کے نزول کا یہ مقصد یہ کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت و ریاضت کا محتاج ہے وَرَبُّكَ الْغَفِيْرُ بلکہ تیرا رب تو

بے نیاز ہے، اُسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی نیچی کمرہا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے پروا ہے۔ وہ تو ذُو الرَّحْمَةِ رَحْمَتِ وَاللَّهِ ہے وہ اپنی رحمت اور مہربانی سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجا ہے اور کتابیں نازل فرماتا ہے تاکہ لوگ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو کر اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیں اور نقصان سے بچ جائیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے وگرنہ وہ کسی کی نیچی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی کی برائی کرنے سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ وہ توبے نیاز ہے۔

فرمایا اِنْ كَيْسًا يَذْهَبُ كُمْ اَلَمْ وَهَ جَابِہٖ تُو تَم كُو لے جَلُے
یعنی تمہیں اس دنیا سے نابود کر دے وَ كَيْتَخَلِفُ مِنْ اَبْعَدِكُمْ مَّا كَيْتَاو
اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے قائم کر دے۔ اور یہ اسی طرح ممکن ہے
كَمَا اَنْشَاكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ جِسْ طَرَحِ تَمِيں
پہلی قوم کی اولاد سے پیدا کیا۔ دیکھو! تمہارے آباؤ اجداد جن کی تم اولاد ہو،
اب اس زمین پر موجود نہیں ہیں۔ اُن کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب تمہارا دور ہے
تمہارے بعد تمہاری اولادوں کا زمانہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس دنیا سے
رخصت ہونے سے ایک ماہ قبل فرمایا تھا کہ آج کے دن روئے زمین پر
جتنے انسان ہیں سو سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، یہ قرن ختم ہو کر دوسرا
قرن آجائے گا۔ فرمایا یاد رکھو! اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ كَلَاتِ جِسْ چيزِ كَاتَمِ س
وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت اور جزائے عمل کا تو وہ آنے والی ہے۔ اگر تم ناقرمانی
اور سرکشی اختیار کرو گے وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ تُو تَم عَابِرِہٖ س كہ سکتے
یعنی خدا تعالیٰ کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا سکتے۔ اور نہ ہی محاسبے کے عمل سے بچ سکتے
ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل بہ حق ہے اور ہو کر رہے گا۔

فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ واضح طور پر فرمادیں یَقُوْمِ اَعْمَلُوْا

محاسبہ
لازمی ہے

اجھا اور
برہان انجام

عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اے میری قوم کے لوگو! جو کچھ تم نے کمرنا ہے اپنی جگہ پر کہتے چلے جاؤ اِحْتِصَانٌ میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی من مانی کارروائی ہی کرنا چاہتے ہو، تو کمرے رہو۔ تم اپنی مرضی اور طریقے کے مطابق چلو اور میں اس راستے پر چل رہا ہوں جس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں۔ مگر فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا۔ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ کہ آخرت کا گھر کس کے حصے میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی اور قلیل ہے مگر آخرت کا گھر دائمی ہے۔ آخرت کی بہتری ہی اصل کامیابی ہے بس موت آنے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام اچھا ہے یا ہمارا انجام۔ اہل ایمان کامیاب ہوں گے یا کفر اور شرک کرنے والے۔

فرمایا اصول کے طور پر یہ بات یاد رکھ لو اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ظلم میں پہلے نمبر پر کفر اور شرک ہے جس نے ان جرائم کا ارتکاب کیا وہ سب بڑا ظالم ہے اس کے بعد بدعات، اعمالِ سیئہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا اٹلاف سب ظلم کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ واضح قانون ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی اصول رہا ہے سورۃ یوسف میں موجود ہے، جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنا چاہا اور دروازے بند کر لیے تو یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں کرتا بہر حال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محاسب کی منزل آنے والی ہے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس قیامت کا تم انکار کرتے ہو اور اُس کے متعلق شبہات کا اظہار کرتے ہو، وہ آکر رہی۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ
 نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا
 لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ
 إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى
 مَشْرِكائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ
 نَزَّلْنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَائِهِمْ لِيُرَوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۷﴾

ترجمہ :- اور ٹھہرایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے اُس
 میں سے جو پیدا کیے ہیں اللہ نے کھیتی اور مویشی ایک حصہ
 پھر انہوں نے کہا یہ اللہ کا حصہ ہے اپنے خیال سے اور
 یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے پس وہ حصہ جو اُن کے
 شریکوں کا ہوتا ہے ، پس وہ نہیں پہنچتا اللہ کی طرف ۔ اور
 جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے پس وہ پہنچتا ہے اُن کے شریکوں
 کی طرف ۔ بہت بُرا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ﴿۱۳۶﴾ اور
 اسی طرح مزین کیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے اُنکی اولادوں کا
 قتل کرنا اُن کے شریکوں نے تاکہ اُن کو ہلاک کر دیں اور
 تاکہ اُن پر التباس ڈال دیں اُن کے دین میں ۔ اور اگر اللہ

چاہتا تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے پس چھوڑ دیں آپ ان کو اور ان باتوں کو جن کو یہ افتراء کہتے ہیں (۱۳۷) گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد اور قیامت کے محاسبے کا ذکر فرمایا تھا اور یہ کہ جنوں اور انسانوں سے باز پڑیں ہوگی اور انہیں جواب دینا پڑے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اچھا انجام ایمان اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے، اور ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔ چونکہ ظلم میں سرفرست کفر اور شرک ہے، اس لیے اللہ نے اس سورۃ مبارک میں کفر و شرک کی خاص طور پر ترمذ فرمائی ہے گذشتہ درس میں اعتقاد ہی شرک کی ترمذ کی گئی تھی اور اب اس درس میں عملی شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت سے شرکیہ اعمال و عقائد وضع کر لیے تھے جن پر وہ عمل پیرا تھے۔ ان میں سے بعض رسومات جاہلیت کی ترمذ کی گئی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اور ٹھہرایا ہے ان مشرکین نے اللہ کے

لیے مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ اس

میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے کھیتی اور مویشیوں میں سے۔ نصیاً ایک حصہ کھیتی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور مویشی بھی اس نے پیدا کیے ہیں۔ تخلیق صرف اللہ جل جلالہ

کا کام ہے۔ اناج، پھل، سبزیوں، ہر قسم کی نباتات پیدا کرنے والی وہی ذات ہے

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی معاش اور ارتفاق کی یہ صورت

عام ہے اور اللہ نے اس کی مثالیں قرآن پاک میں بکثرت بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً "وَ

أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً" اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا (مومنون)

سورۃ عبس میں ہے "أَنَا صَبَبْنَا السَّمَاءَ صَبًّا" ثُمَّ سَقَّيْنَا

الْأَرْضَ سَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا" وَ عِنَبًا

وَ قَضُوبًا" وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا" وَ حَدَائِقَ غُلَبًا"

وَ فَالْهَيْهَةَ" وَ أَبَا" ہم نے کس طرح آسمان سے پانی بہایا پھر زمین کو ہم

نے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، اور انگور اور تہ کاریاں اور زیتون اور
 کھجوریں، گھنے باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا
 کی ہیں۔ اور آگے اسی سورۃ میں انعام یعنی مویشیوں کا ذکر بھی آگیا کہ وہ بھی اللہ نے
 پیدا فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پیدا کردہ ان اشیاء میں سے مشرک لوگ ایک حصہ
 اللہ کے لیے بھڑاتے ہیں یعنی اس کی نیاز کے طور پر الگ کرتے ہیں فَقَالُوا
 اور زبان سے یہ کہتے ہیں هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ یہ حصہ اللہ کے
 لیے ہے۔ یہاں پر لفظ بِزَعْمِهِمْ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اس کا
 معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خیال سے ایسا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے۔ کسی حکم
 خداوندی یا قاعدے قانون کی رو سے نہیں بلکہ محض اپنے پوسٹوں اور کاموں
 کے بنائے ہوئے تخیل کی بنا پر اللہ کا حصہ الگ کرتے ہیں اور اللہ کی نیاز
 اس لیے نکالتے تھے کہ مشرک لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا مانتے تھے۔ تاہم
 وہ مخلوق میں سے بھی بعض کو معبود مانتے تھے کہ یہ خدائے بہ حق کے ماتحت ہوتے
 ہوئے یہ بھی ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور اسی مقام
 پر اکثر مشرک کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جس سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔
 بہر حال اپنی کھیتی اور مویشیوں کی پیداوار میں سے ایک حصہ تو اللہ کی نیاز کا
 نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور دوسرے حصے کے
 متعلق کہتے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا یہ ہمارے شرکیوں یعنی دوسرے
 معبودوں کا حصہ ہے۔ اور ان شرکاء میں کسی کالائ تھا اور کسی کا مناء،
 کسی کا سبل تھا اور کسی کا غزی تھا۔ ہر مشرک اپنے معبودِ باطل کی نیاز کا حصہ
 علیحدہ کرتا تھا۔ غرضیکہ مشرکین اللہ کی نیاز بھی دیتے تھے اور شرکاء کی نیاز بھی۔
 مگر وہ لوگ اللہ کی نیاز کی نسبت غیر اللہ کی نیاز کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔
 اور اس کے لیے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور پھر اس نیاز کی تقسیم اس طرح
 تھی کہ جو حصہ اللہ تعالیٰ کی نیاز کا ہوتا تھا، وہ غریبوں مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم

کر دیتے تھے اور جو حصہ غیر اللہ کا ہوتا تھا وہ ان بتوں اور استخوانوں پر موجود کاہنوں اور پرمہتوں کے سپرد کر دیتے تھے۔

انعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں عام طور پر لوگ پالتے ہیں اور وہ انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ یہ آٹھ جوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حلال فرمائے ہیں۔ یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکری، یہ تمام جانور نر اور مادہ ہر

انسانوں کے
خادم مویشی

دو حلال ہیں۔ بھینس بھی گائے ہی کی ایک قسم ہے تاہم یہ سرطوب جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ عرب چھوٹا خشک خطہ ہے، اس لیے وہاں بھینس نہیں ہوتی

اور باقی جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ مویشی اللہ نے خاص طور پر انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ لوگ ان کا دودھ، گوشت، گھی، کھال اور اون

استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ اس نے انہیں انسان کا میطع بنا دیا ہے۔ بڑے طاقتور ہونے کے باوجود یہ انسان کے اشارے پر چلتے

ہیں اور انہیں ہر قسم کی خدمت مہیا کرتے ہیں۔ ان جانوروں کو خوراک کے طور پر استعمال کرنے کے علاوہ اونٹ سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے

عرب کے خشک اور وسیع ریگستانوں میں اونٹ ہی سواری اور بار برداری کا کام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میدانی علاقوں میں اونٹ اور بھینس سے کھیتی باڑی

کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے اور ہل میں بھی جوتے ہیں۔ غرضیکہ یہ جانور انسان کے قریبی دوست اور اعلیٰ قسم کے

خادم ہیں۔ اللہ نے انہیں انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں انسان کی خدمت کرنا ہے سو

اونٹ کی قطار ہو تو ایک دس سال کا بچہ نکیل پکڑ کر سرب کو اپنے پیچھے چلا لیتا ہے، وگرنہ جنگلی جانور بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ایک ہی وار میں آدمی

کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جب جا کر وہ قابو میں آتے ہیں اور پھر انہیں باندھ کر یا پھرے

میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ مگر یہ انعام ایسے جانور میں جو اللہ نے انسان کی محض خدمت کے لیے مامور کر دیے ہیں۔

شکر کا دے
حصے کی اہمیت

بہر حال مشرکین عرب اپنی پیداوار میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے اور شکر کا حصہ بھی۔ البتہ وہ شکر کا دے کے حصے کو اللہ کے حصے کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ارشاد ہے۔ فَمَا كَانَتْ لَشُرِكَايِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ جَوْحُهُمْ ان کے معبودوں کا ہوتا تھا، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شَيْءٍ كَمَا يَهْتَمُّ اور جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ اگر ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا تو کتنے کوئی بات نہیں۔ اللہ کو کس چیز کی کمی ہے۔ وہ غنی ہے۔ بہ خلاف اس کے معبودانِ باطلہ کے حصے میں سے اگر ایک دانہ بھی دوسری طرف چلا جاتا تو فوراً واپس کمر دیتے۔ اس طرح وہ غیر اللہ کے حصے کو اللہ کے حصے کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے۔ یہاں بھی وہ حماقت کا اظہار کرتے تھے جب وہ اپنے معبودوں کو بے نیاز نہیں سمجھتے تھے، تو پھر ان کے نام کی نیاز کیوں دیتے تھے نیاز تو صرف اس کو منر اور ہے جو بے نیاز ہے۔ ادھر اللہ کو بے نیاز سمجھتے ہیں مگر اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وہ رب العزت جس نے کھیتی اگائی اور مویشی پیدا کیے۔ اس کی نیاز کو کچھ اہمیت نہیں دیتے اور معبودانِ باطلہ جو عاجز اور محتاج ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

آج بھی رسومات کے سچاری پرانے مشرکین کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کی تو چنداں فکر نہیں ہوتی مگر پیران پیر کی گیارہویں کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کہیں وہ نہ رہ جائے۔ ہر سال عرس کے لیے فکر مند ہتے ہیں۔ عید میلاد کے لیے چھنڈیاں اور بلب لگانے کے لیے سارا سال پیسے جمع کرتے ہیں۔ امام جعفر زکوة کے کوئٹے سے خاص شراط کے تحت بھرے جاتے

ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکالنا، چھت کے نیچے ہو اور پھر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کام ختم ہو جانا چاہیے، مزاروں پر چادریں چڑھانے اور عرس منانے کے لیے بڑی تلک و دو ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پروگرام بنتے ہیں، خوب سجاوٹ ہوتی ہے۔ قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ سونے کا دروازہ لگایا جاتا ہے۔ آخر یہ سب کچھ کس حکم خداوندی کے تحت کیا جاتا ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ اب حکومت بھی ایسی بدعات میں شامل ہو گئی ہے عرس کا افتتاح اور رسم چادر لوشی کسی وزیر یا مشیر سے کرائی جاتی ہے قیمتی چادریں زریب قبر کی جاتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ نے ساری عمر اپنے لیے چھوٹی پٹری تک بنانا پسند نہ کیا مگر آج ہماری حکومت دو لاکھ روپے مالیت کی چادر ان کی قبر پر چڑھانے کے لیے سینکڑوں افراد پر مشتمل سرکاری وفد کے ذریعے بھیجتی ہے۔ کیا دین اور اسلام کا یہی کام رہ گیا ہے؟ آخر وہ فرائض واجبات، سنن اور مستحبات کہا گئے جن کو ان بزرگوں نے زندگی بھر سینے سے لگا لگا رکھا۔ آج ہم سب کچھ بھول کر ان کی محبت میں بدعات کو رواج دے رہے ہیں اور پھر ان سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ بہر حال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حصے یعنی اس کے احکام کی تو کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ مگر غیر اللہ کی نیاز کا بڑا اہتمام کرتے تھے وہ بھی خود ساختہ بدعات کے عاشق اور احکام الہی سے روگردان تھے۔

ہمارے ہاں نو تیدگی کی رسومات کا بھی یہی حال ہے شریعت کے احکام کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، بدعات کی بھرمار ہے۔ تیسرا، ساتواں اور چالیسواں بڑے اہتمام سے ادا کیا جاتا ہے۔ برادری اکٹھی ہوتی ہے۔ اور مرنے والے کے مال کو خوب اڑایا جاتا ہے۔ پوچھو تو کہیں گے کہ ایصالِ ثواب ہو رہا ہے اللہ کے بندو! اگر میت کے ساتھ واقعی ہمدردی ہے اور ایصالِ ثواب مطلوب ہے تو وہی طریقہ اختیار کرو جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اس کے لیے کسی

دین اور تاریخ کی قید نہیں۔ حلال مال سے غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ کپڑے پہناؤ، ان کی دوسری حاجت بہاری کرو، تو مرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ محض رسم کی شکل میں صرف شے داروں اور دوستوں کو کھلا دینے سے کتنا ثواب ہوگا؟ ان بدعات کی ترویج اور رسومات باطلہ کو اختیار کرنے سے ثواب کی بجائے گناہ کا زیادہ احتمال ہے۔

بچوں کی
قربانی

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ اپنے مویشیوں کے بچوں میں سے معبودانِ باطلہ کی نیابت نکالتے تھے۔ انہوں نے تعداد مقرر کر رکھی تھی کہ جس مادہ کے اتنے بچے پیدا ہو جائیں گے تو ان میں سے ایک بچہ بتوں کے نام پر قربان کر دیا جائے گا۔ انہیں قربانی کا محتج بھی سمجھتے تھے اور پھر ان سے مدد کے طالب بھی ہوتے تھے، کتنی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اسی غلط تقسیم کارڈ فرمایا ہے۔ مشرکین ایک اور حماقت یہ بھی کرتے تھے کہ معبودانِ باطلہ کے نام پر اچھی چیز وقت کرتے تھے جب کہ خدا تعالیٰ کے نام پر کم تر چیز پر اکتفا کرتے تھے ان کے اس عملی شرک کا بیان آگے بھی اسی سورۃ میں آئے گا۔

فرمایا وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ
شَيْ كَأَوْفَوْا اسی طرح ان کے شرکار نے بہت سے مشرکین کے لیے
ان کی اولادوں کے قتل کو مزمین کر رکھا تھا۔ یہاں پر شرکاء سے مراد وہ پرہیزگار
کاہن اور مولوی ہیں جو انسانی بچوں کی قربانی کو ان کے سامنے بڑا خوبصورت
بنا کر پیش کرتے تھے۔ انہیں بتاتے تھے کہ بتوں کے نام پر بچوں کو قربان
کرنے کا کتنا بڑا فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ جاہل لوگ ان کا کہا مان کر اپنے بچوں
جیسی عزیز متاع کو معبودانِ باطلہ کے نام پر قربان کر دیتے تھے۔ فرمایا ان کے
پرہیزگاروں کا مقصد یہ ہوتا تھا لِيَذُوبُوا مَا كَمَدْتُمْ لَهَا قُلُوبًا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو
ہلاک کر سکیں انہیں پھلنے پھولنے کا موقع نہ مل سکے اور وہ اس طرح ان کے

دستِ ننگ بن کر رہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی **وَلِيْلَيْسُوا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ**
اور تاکہ ان پر ان کے دین کو متبلس نہ دیں، یعنی دین کے معاملات کو اس قدر
غلط ملط کہ دیا جائے کہ انہیں حق و باطل کی پہچان ہی نہ ہو سکے اور وہ لوگ اس
طرح اندھیرے میں بھٹکے رہیں اور ہر معاملہ میں انہی کے محتاج بن کر رہیں۔
قتلِ اولاد کی کئی صورتیں قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ مشرکین عرب اور بعض
دوسری قومیں بھی سچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتی تھیں۔ لڑکی کی پیدائش کو وہ
باعث ننگ تصور کرتے تھے کہ بڑی ہوگی تو اس کا نکاح کرنا پڑے گا، پھر
ہمارا داماد بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ وہ ظالم نہیں سمجھتے تھے۔ کہ آخر وہ بھی تو
کسی ماں ہی کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور کسی کے داماد بنے ہیں۔ اگر بچوں
کو زندہ نہ چھوڑا ہوتا تو خود وہ کیسے پیدا ہوتے اور آئندہ نسل انسانی کیسے بڑھے
گی۔ اس کے علاوہ وہ اقتصادی مسئلہ کا سہارا بھی لیتے تھے۔ کہ سچی جوان ہو جائیگی
تو اس کی شادی کے لیے جہیز کہاں سے لائیں گے۔ اگر خرچ کمہ میں گئے تو
مال میں کمی آجائیگی۔ وہ بچوں کی پیدائش کو اپنے آرام و راحت میں مخل بھی سمجھتے
تھے۔ مطلقاً قتلِ اولاد اسی فلسفے پر مبنی تھا۔ کہ اولاد ہوگی تو ان کی پرورش کا
کیا بندوبست ہوگا۔ ان کے لوازمات زندگی کے حصول کے لیے سخت
محنت کرنی پڑے گی، لہذا ان کا اہتمام میں ہی خاتمہ کر دیا جاتا۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا نسل کشی کا ایک طریقہ بچوں کی قربانی بھی تھا۔ بتوں
کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو ان کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا۔ شیطان نے
یہ سبق پڑھا دیا تھا۔ کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے لختِ جگر کو
قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، لہذا یہ بہت بڑا عمل اور فوز و فلاح کا ذریعہ
سمجھا جاتا تھا۔ اس قسم کا زعم ہندوستان کے ہندوؤں میں بھی پایا جاتا تھا۔ کلکتہ
والی کالی دیوی کے نام پر انسانی بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ ہزاروں لاکھوں
بچے اس بہت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ مثال کے طور پر جس شخص کے دس بچے

پیدا ہو جاتے وہ ایک بچے کو بت کے نام پر قتل کر دیتا یا پانی میں غرق کر دیتا اور
اسے بہت بڑی عبادت سمجھتا۔ اس زمانے میں بھی اس قسم کے اکادکا واقعات
پیش آتے ہیں کہ کسی شخص نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بچے کو قربان کر
دوں اور پھر اس نے ایسا کر دیا۔ فرمایا کہ ان کے نام نہاد متبوع ان کو پٹی پڑھاتے
ہیں کہ ایسا کرنے میں بہت بڑا فائدہ ہے لہذا سادہ لوح لوگ ان کے جھانسنے
میں آکر کہہ گزرتے ہیں۔ یہ نہایت قبیح اور ظالمانہ عقیدہ ہے۔ ایسا کرنے والے
اللہ کے ہاں صریح قتل ناحق کے مجرم ہیں۔ ان کا بچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے
اور وہ اخلاقی طور پر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ نے اس مسئلہ
کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔

رسو ما باطلہ

رسومات باطلہ کی ترویج کے لیے وسیع پیمانے پر ایگنڈا کیا جاتا ہے جھوٹی کہانیاں
سنا کر لوگوں کو شرک، کفر اور بدعات پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ لالچی پیر اور مولوی
لوگوں کو باطل رسومات میں اکھٹے رکھتے ہیں تاکہ صحیح دین ان تک نہ پہنچ سکے
کیونکہ اگر صحیح بات واضح ہو جائیگی تو باطل کے اندھیرے چھٹ جائیں گے
”جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ“ ایک مسلمہ اصول ہے۔ جب حق آجاتا ہے
تو باطل اس کے مقابلے میں قدم نہیں جما سکتا۔ لہذا پیٹ پرست دین کے
ٹھیکیدار لوگوں کو غلط باتیں مزین کر کے دکھاتے ہیں، انہیں اپنے مکرو فریب
کے جال میں پھنسانے رکھتے ہیں۔ اور دین کو خلط ملط کر کے پیش کرتے
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور فرمایا ہے
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اَگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بڑائی اور مکرو فریب کی قوت ہی سلب کر
سکتا ہے مگر یہ بات اس کی حکمت کے خلاف ہے وہ ہر شخص کے سامنے
حق و باطل کے راستے واضح کر کے انہیں ان کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دیتا ہے
اور کسی پر جبر نہیں کرتا کیونکہ اسے جبری ایمان قبول نہیں ہے۔

فرمایا اے پیغمبر! صلی اللہ علیہ وسلم فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آپ
 ان کو کبھی چھوڑ دیں اور جو کچھ یہ افترار کرتے ہیں اس کو کبھی چھوڑ دیں۔ آپ
 ان کی اسلام دشمنی اور بے دینی کی وجہ سے زیادہ فخر مند نہ ہوں۔ یہ جو کچھ غلط
 عقائد رکھتے ہیں اور باطل رسومات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہیں من مانی
 کہہ نہ دیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب ان کا محاسبہ ہوگا اور پھر یہ
 خود اپنے جہنموں کا اقرار کریں گے، اُس وقت ہم خود ان سے نہٹ لیں
 گے، آپ دل برداشتہ نہ ہوں۔

الانعام ۶

آیت ۱۳۸ تا ۱۴۰

ولواننا ۸

درس چہل و یک ۲۱

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حِجْرٌ مَلَأَ
 يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ
 حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَهَا
 اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سَجَزْتُمْ
 بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ
 هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ
 عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ مَيْتَةٍ فَهُمْ
 فِيهِ شُرَكَاءُ سَجَزْتُمْ وَصَفْتُمْ إِنَّهُ
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
 أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا
 رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۴۰﴾

ترجمہ :- اور کہا (مشرکوں نے) یہ مویشی اور کھیتی ممنوع
 ہیں۔ نہیں کھانے گا اس کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں اپنے
 خیال کے مطابق۔ اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتوں پر سواری
 کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن پر
 وہ اللہ کا نام نہیں لگاتے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے

ضرور اُن کو بدلہ دیکھا اللہ اُن باتوں کا جو کچھ وہ جھوٹ
 باندھتے تھے (۱۳۸) اور کہا انہوں نے، جو ان جانوروں کے
 پیٹ میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے
 اور حرام ہے ہماری عورتوں پر۔ اور اگر وہ مردہ ہو پس
 وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ضرور اللہ بدلہ دیکھا
 اُن کو اُن کے اس بیان کا، بیشک وہ حکمت والا اور
 سب کچھ جاننے والا ہے (۱۳۹) تحقیق نقصان میں پڑے
 وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو بیوقوفی سے
 بغیر علم کے۔ اور انہوں نے حرام ٹھہرایا اس چیز کو جو
 اللہ نے اُن کو دی تھی افتراء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
 پر۔ تحقیق گمراہ ہوئے وہ لوگ اور نہیں ہیں وہ ہدایت
 پانے والے (۱۴۰)

ربط آیات

گذشتہ آیات کی طرح یہ آیات بھی شرک ہی سے متعلق ہیں ان آیات میں
 بھی عملی شرک ہی کا بیان ہے۔ مشرکین عرب نے جو رسومات باطلہ ایجاد کر رکھی تھیں
 اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے، وہ لوگ دو طرح کی نذر و نیاز دیتے تھے، ایک
 اللہ کے نام پر اور دوسری معبودان باطلہ کے نام پر اور پھر اللہ کے حصے کی زیادہ
 پرواہ نہیں کرتے تھے مگر غیر اللہ کی نذر کے لیے خاص اہتمام کرتے تھے اور
 اس پر کسی قسم کی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قتل اولاد کا ذکر بھی
 ہو چکا ہے۔ کہ وہ لوگ اولاد کو مختلف جیلوں سے قتل کر دیتے تھے۔ کبھی ننگ و
 ناموس کے نام پر اور کبھی معاشی تنگدستی کے پیش نظر مگر سب سے بڑی قباحت یہ
 تھی کہ وہ بچوں کو معبودان باطلہ کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے اور اُن کی خوشنودی
 کیلئے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام قبیح رسوم کا رد فرمایا ہے

اب آج کی آیات میں بھی عملی شرک کی بعض صورتوں کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنی پیداوار کا کچھ حصہ خاص لوگوں کے لیے رکھ دیتے تھے اور اس میں سے ان کی مرضی کے خلاف کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ بعض جانوروں کی سواری ممنوع قرار دیتے تھے اور بعض جانوروں کا گوشت مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام قرار دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خود ساختہ شریعت کی تردید فرمائی ہے۔

ممنوع مویشی
اور کھیتی

ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا هَذِهِ الْأَعْمَاقُ وَحُرَّتْ حَجَبُهُمْ
اور مشرکوں نے کہا کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کچھ کھیتی ہے جو کہ ممنوع ہے، ہم نے اس کو روک رکھا ہے لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ
اس کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے کہ جسے ہم اپنے خیال کے مطابق چاہیں یہ رسم اتوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کے ایما پر قائم کر رکھی تھی کیونکہ ایسی چیزیں صرف اپنی کے لیے مخصوص ہوتی تھیں۔ عام آدمی، غریب، محتاج یا فقیر اس کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صرف گدی نشینوں کا حق تصور کیا جاتا تھا۔ اس قسم کی رسوم مشرکین عرب کے علاوہ بعض دوسری اقوام میں بھی پائی جاتی تھیں۔ یہاں ہندوؤں میں بھی اس قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں کہ بعض چیزیں صرف برہمن ہی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ان کی دیکھا دیکھی یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آگئی ہیں، چنانچہ دہلی والے حضرت بی بی فاطمہ کی صحنک کے نام سے نیاز دیتے ہیں۔ اس کا ذکر حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بی بی کی صحنک پر یہ پابندی ہے کہ اسے نہ تو مرد کھا سکتے ہیں، نہ لڑکھری اور نہ دو خصمی عورت۔ یہ بالکل ویسی ہی پابندی ہے۔ جیسے مشرکین عرب نے از خود قائم کر رکھی تھی۔ اسی طرح ۲۲ رجب کو امام جعفر صادقؑ کے نام پر پکائے جانے والے گوندوں پر بھی بعض پابندیاں عائد ہیں مثلاً یہ کہ اس کا کھانا سورج نکلنے سے پہلے ضروری ہے

اور یہ چھت کے نیچے ہونا چاہیے، کھلی جگہ پر کھانا درست نہیں ہے۔ اور اس کھانے کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے۔ بلکہ جس کسی کو کھلانا مقصود ہے اُسے گھر بلا کر کھلانا ضروری ہے۔ یہ سب خود ساختہ پابندیاں ہیں اور ان مشرکین کا اتباع ہے جن کا ذکر اس آیتِ کرمیہ میں کیا گیا ہے۔

مشرکین نے جس طرح بعض اشیاء کا کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا اس طرح بعض جانوروں پر سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے وَالْفَحَامُ

سواری کی
مانعت

وَحَرِّمَتْ ظُهُورَهُمْ اور بعض جانوروں کی پشتوں پر سواری حرام قرار دے رکھی تھی۔ وہ بھی نیاز کے جانور ہوتے تھے جن پر سواری نہیں کرتے تھے سو قرآنِ

میں اس کا تفصیل سے ذکر آچکا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ آجِنَّةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بکیرہ،

سائبہ، وصیلہ اور حام مقرر نہیں کیے بلکہ یہ مشرکین کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ بکیرہ اس مادہ جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ نذر کے طور پر وقف کر دیتے تھے اور اس

کو کوئی عام مرد و زن نہیں پی سکتا تھا۔ سائبہ وہ اونٹ یا بیل وغیرہ ہوتا تھا جسے معبودانِ باطلہ کی نذر کے طور پر آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اس جانور پر نہ سواری کرتے

تھے اور نہ کسی دیگر کام میں لاتے تھے۔ یہ اپنی مرضی سے حسبِ خواہش چلتا پھرتا رہتا تھا اور جہاں سے چاہے کھاتا رہتا تھا، کوئی اس کو روکتا تو گناہ تھا کیونکہ وہ

نیاز کا سانڈھ کہلاتا تھا۔ اس قسم کا وہم ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی بھوانی دیوی کے نام بیل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور کوئی شخص اس سے تعرض نہیں کرتا۔

وَصِيْلَةٍ ایسے مادہ جانور کو کہتے تھے جو ایک مقررہ تعداد میں لگاتار مادہ نپکے بنے۔ جب وہ تعداد پوری ہو جاتی تھی تو اُسے نیاز کے طور پر کھلا چھوڑ دیتے

تھے اور اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ حام کا معنی بچانے والا ہوتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اس جانور نے اپنی پشت کو سواری سے بچا لیا ہے

اب کوئی شخص اس پر سواری نہیں کر سکتا۔ مثلاً جس اونٹ کی جھنٹی سے دس بچے

پیدا ہو جائیں، اس کے بعد اس کو سواری کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بعض جانوروں پر سواری حرام قرار دے دی گئی ہے۔

اللہ کی بجائے
غیر اللہ کا نام

فرمایا وَأَنْفَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا بَعْضُ جَانُورٍ
ایسے تھے کہ مشرکین ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ نہ دودھ دوہتے وقت
اللہ کا نام لیتے تھے، نہ سواری کرتے وقت اور نہ ہی ذبح کرتے وقت البتہ
غیر اللہ کا نام ضرور لیتے تھے جیسے لات، منات، عزی وغیرہ یعنی یہ ان کی نذر
نیاز ہے۔ ہندوستان میں بھی اس قسم کا تخیل پایا جاتا ہے جیسے شیخ سدھو کا بگھا
مشہور ہے۔ حضرت سالار مسعود غازی بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جہاد کرتے
ہوئے شہید ہوئے تھے، ان کے مزار پر ان کے نام کی گائے نذر کی جاتی ہے
اسی طرح پیران پیر کی گیارہویں کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ ان کے
نام پر دودھ، کھانا، جانور وغیرہ ان کے تقرب اور خوشنودی کے لیے
دیا جاتا ہے تاکہ کسی ممکنہ نقصان سے بچ جائیں۔ اگر یہ نیاز نہ دی تو کھیتی یا پھول
یا مویشیوں میں نقصان ہو جانے کا خطرہ محسوس کیا جاتا ہے اور یہی شرک ہے، کہ
نفع نقصان کا مالک اللہ کی بجائے ان بزرگوں کو سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر انکی
رضا کے لیے ان کے نام پر نیاز دی جاتی ہے۔

بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جن چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک
ہے ان چیزوں پر اسی کا نام لینے سے بچتے تھے اور غیر اللہ کا نام لیتے تھے۔
اور اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ اس چیز میں اللہ کی رضا کے دعویدار تھے۔ گویا
اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام لینے کا حکم خود خدا تعالیٰ نے دیا ہے اَفْتَرَاءٌ
عَلَيْهِ یہ تو اللہ تعالیٰ پر کہبت بڑا افتراء ہے۔ اس نے تو ایسا حکم نہیں
دیا اور نہ وہ ان باتوں سے راضی ہوتا ہے بلکہ یہ تو صریحاً شرک ہے جس کی عدم
معافی کا اللہ نے واضح اعلان فرما دیا ہے ایسے شرکیہ عقائد کو اللہ کی طرف

منسوب کرنے والا مفسر ہی ہے، اللہ نے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دیگا جو اس پر افتراء باندھتے ہیں۔
اس کے نام پر چھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں۔ یہ تو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب
ہے۔ مذہبی رہنماؤں نے سادہ لوح لوگوں کو اس قسم کے توہمات میں جکڑا ہوا
ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔

کھانے میں مرد
کی تخصیص

آگے اللہ نے مشرکین کا ایک اور خود ساختہ مسئلہ بھی بیان فرمایا وَقَالُوا
وہ کہتے ہیں۔ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّدُّكُنَا یعنی ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے
مردوں کے لیے ہے۔ وَمُحْرَمٌ عَلَيْنَا أَوْ بَنَاتِنَا اور ہماری عورتوں کے
لیے حرام ہے اور وہ خاص جانور وہ ہوتے تھے جنہیں بکیرہ، سائبہ، وصیلہ اور
حام وغیرہ کی صورت میں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ ان سے پیدا ہونے والے بچوں
کا گوشت صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتوں کے لیے ممنوع تھا۔ ہاں البتہ
اتنی رعایت دے رکھی تھی وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ أُمَّةٌ مَّرْدَةٌ بچہ پیدا
ہوتا فَهِيَ فِيهِ شَيْءٌ كَأَنَّكَ تَأْتِيهِمْ فِيهِمْ سَبَّ
شریک ہوتے۔ یہ بھی ایسی ہی پابندی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہ
تھی اور نہ اس میں اس کی رضا شامل تھی، بلکہ یہ محض مشرکین کی خود ساختہ شریعت
کا حصہ تھا۔ اکثر رسومات باطلہ اور بدعات اسی قبیل سے ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا

سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ ہم انہیں اس بیان کا ضرور بدلہ دیں
گے۔ انہوں نے از خود نئی شریعت وضع کی ہے۔ غلط رسوم کو رواج دیا ہے

اور اللہ پر چھوٹ باندھا، انہیں اُسکی لائے ماننا چاہی۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ
اللہ کا نبی اور مومن "عَلَىٰ بَصِيرَةٍ" بصیرت پہنچیں، مگر انہوں نے
اپنی طرف سے بغیر ماخذ اور سند کے اختراعات ایجاد کر لی ہیں۔ انہیں
اس دیدہ دلیری کا نذرہ چھنا پڑے گا۔ اسی سورۃ میں آگے بھی آ رہا ہے "هَلْ

عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ كُنَا كَمَا تَهْلِكُ مِنْهُ مَنَاسِكُ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ
علم ہے جسکی بنا پر شریعت نکالتے ہو۔ علم کا قطعی ذریعہ تو وحی الہی ہے
جو انبیاء کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے۔
یا تم نے کسی صاحب عقل آدمی سے کوئی چیز حاصل کی ہو۔ حقیقت یہ ہے
کہ ایسی اختراعات کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی۔ نہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتی
ہیں اور نہ یہ ائمہ مجتہدین کی کسی دلیل پر مبنی ہوتی ہیں۔ فقہ کے ماخذ تو چار ہی ہیں
قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس جب پہلے تین ماخذ سے کوئی مسئلہ حل نہیں
ہوتا تو پھر اہل علم قیاس کے ذریعے اس کا حل بتاتے ہیں اور ساتھ وہ آیت یا حدیث
رسول بھی بتاتے ہیں جس سے وہ دلیل بکھرتے ہیں۔ مگر تمہاری وسومات اور بدعات
تو بلا دلیل اور خود ساختہ ہیں۔ یہ محض آباؤ اجداد کی اندھی تقلید کے سوا کچھ نہیں۔ تم کہتے
ہو **وَجَدْنَا عَلَيْنَا آيَاتِهِمْ** اپنے آباؤ اجداد کو ایسا ہی پایا، مگر اللہ تعالیٰ
نے بھی جواب دیا **أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ**
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اگر ان کے آباؤ اجداد بے عقل اور راہ ہدایت
سے محروم ہوں۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ محض آباؤ اجداد
کے افعال کو دلیل بکھڑا جائے۔ **فَرَىٰ بِالنُّورِ** اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے اس بیان
کی وجہ سے ضرور سزا دے گا۔ **إِنَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** وہ حکیم ہے۔ حکمت
کے ساتھ مہلت دیتا ہے اور جلدی گرفت نہیں کرتا۔ وہ علیم بھی ہے۔ اس کو
علم ہے کہ کون شخص کیا کرتا ہے۔ وہ ہر باطل رسوم کے سچاری اور غیر اللہ کی
نذر و نیاز کے حامی کو جانتا ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔

قتل اولاد
کا نقصان

قتل اولاد کا ذکر گذشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ کہ مشرکین کے مذہبی پروہت
اُسے مزین کر کے دکھاتے تھے جسکی وجہ سے وہ اولاد کو معبودان باطلہ کے نام
پر قربان کر دیتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے **قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ**
قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ نقصان میں پڑے وہ

لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بیوقوفی سے اور بغیر علم کے: ننگ و ناموس کی خاطر بچپوں کا زندہ درگور کرنا یا معاہدہ بنیاد پر بچوں کا مطلقاً قتل یا ان کو معبودانِ باطلہ کے نام پر بھینٹ چڑھا دینا انتہا درجے کی بیوقوفی اور علم سے بے بہرگی کا نتیجہ تھا۔ اس کا نقصان بالکل واضح ہے۔ اولاد سے محرومی ظاہری دنیا میں عظیم نقصان ہے اور دوسرے نقصان یہ ہے کہ ایک غلط کام اچھا اور سچی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش کیوں ہوگا؟ وہ تو سخت ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ خسائے میں پڑ گئے۔ ایک اور نقصان یہ بھی ہے وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اُسے اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا ہے۔ اللہ کی عطا کی ہوئی روزی سے محروم رہنا بھی کتنی بڑی بد نصیبی اور کتنا بڑا نقصان ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ گھائے میں پڑ گئے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ سے اولاد بھی مراد لی جاسکتی ہے۔ یعنی جو اولاد اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دیتا ہے یا دینا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ پر حرام قرار دے لیتے ہیں اور اولاد کی پیدائش میں رکاوٹ بنتے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی برتھ کنٹرول کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے عطا ہونے والی اولاد کو لینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی سکیم کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ملائعہ اعلیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پیدائش روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کبھی عورت کو مانع حمل گولیاں کھلا کر اور کبھی بچہ دانی کا آپریشن کر کے حمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ عمل ایک طرف اس آیت کریمہ کی زد میں آتا ہے اور دوسری طرف بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا جو ازمہ پیش کیا جاتا ہے کہ کثیر آبادی کی خوراک کی ضروریات پوری نہیں کی جاسکتیں، حالانکہ رزق کے تمام ذرائع اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں

بہتر مثال
بہتر کلمہ
تقسیم رزق
اور سکیم

سے کھے ہیں۔ ان پر کسی کو تصرف کا اختیار نہیں دیا۔ سورۃ الذریت میں ارشاد ہے
 ”إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ“ مضبوط طاقت کا مالک وہی
 رزاق ہے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اس کے لیے ہوئے رزق کو صحیح طریقے
 سے خرچ کرو۔ ادھر ایک طرف تو بہتھ کنٹرول کی ترغیب دی جاتی ہے اور دوسری
 طرف دن میں چھ چھ مرتبہ جانوروں کی طرح بے تحاشا کھایا جاتا ہے۔ تم اللہ کی
 گدی پر بیٹھ کر رزاقیت کے مالک بنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہماری جاری کردہ
 سیکموں کے ذریعے رزق حاصل ہو گا۔ یہ تو حماقت ہے تمہارے پاس جو کچھ
 ہے اُسے منصفانہ طریقے سے تقسیم تو کرو اور پھر دیکھو کہ وسائل رزق کس طرح
 مہیا ہوتے ہیں۔ اچھی تعلیم اور اچھی ملازمتیں بڑے لوگوں کے لیے مخصوص کر
 دی جائیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سے غریب طلباء کو محروم کر دیا جائے۔ باصلاحیت
 بچوں کے دخلے پر قدغن لگا دی جائے تو روزگار کا بہاؤ نیچے کی طرف کیسے
 آسکتا ہے۔ یہ اسی امتیازانہ سلوک کا نتیجہ ہے کہ امیروں کے بدکار بچے ڈگریاں
 حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور غریب آدمی کو مزدوری تک
 نہیں ملتی۔ یہ سب غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو واضح طور پر فرما دیا
 ہے ”وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا“ کتنے جانور
 ہیں جو اپنا رزق اپنی پشت پر اٹھانے نہیں پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے۔
 ”اللَّهُ يَرْزُقُهَا“ (عنکبوت) ان کو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 عطا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ چرند، پرند، درند، کیرے، کورٹے کہاں سے روزی
 حاصل کرتے ہیں، اللہ نے سب کے لیے انتظام کر رکھا ہے اور تمہاری
 روزی کے اسباب بھی وہی پیدا فرماتا ہے۔

جہاں تک قتلِ اولاد کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے
 ”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ“ (الانعام)
 اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے ”فَنَحْنُ

تَزُوقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الانعام) رزق ان کو بھی لازم ہے جیسے ہیں اور تمہیں بھی
 لہذا اس بنا پر اولاد کو قتل کرنا یا اولاد کی پیدائش میں رکاوٹ ڈالنا اللہ تعالیٰ کے
 تصرف میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ اللہ جل جلالہ اپنی حکمت کے مطابق
 ہر ذی جان کو رزق پہنچاتا ہے کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے
 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ (الشوریٰ)
 اگر سب کا رزق اللہ تعالیٰ کثا دہ کر دیتا تو یہ سب دنیا میں فتنہ و فساد کا بازار گرم
 کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو رزق میں وسعت دیتا ہے اور
 کسی کا روک لیتا ہے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم رہ سکے۔

فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز کو اپنے آپ پر حرام قرار دے
 لیا إِفْتَرَاءٌ عَلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ پر افسار کرتے ہوئے۔ بچوں کی
 بھینٹ کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی پر محمول کرنے سے جو کہ اللہ پر تھوڑا سا باندھنے
 کے مترادف ہے۔ فرمایا قَدْ ضَلُّوا یہ گمراہ ہو گئے وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ اور یہ ہرگز ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں آگے
 چل کر ان کو ان کی کارکردگی کا ضرور بدلہ مل جائیگا۔

کھاؤ اُس چیز میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اور نہ پیروی کرو، شیطان کے قدموں کی، بیشک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے (۱۴۲)

ربط آیات

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے اُس مشرکانہ رسم کا رد فرمایا جسکی رو سے مشرک لوگ اپنے جانوروں اور کھیتی کی پیداوار میں سے غیر اللہ کی نیانہ نکالتے تھے اس کے ساتھ ساتھ قتلِ اولاد کی قباحت کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا مشرکانہ افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اللہ پر افتراء باندھنا ہے۔ بعض لوگ اللہ کے پیدا کردہ جانوروں کو خود اپنے آپ پر حرام ٹھہرا لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کے مترادف ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اناج، پھل اور جانوروں جیسی نعمت کو کھانے کی ترغیب دی ہے۔ البتہ فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اور ساتھ ساتھ شیطان کی پیروی سے بھی منع فرمایا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَدَاكِي ذَاتِ وَهٍ رَحِيمٍ، کریم اور مہربان ہے انشاکا جس نے پیدا کیے ہیں جنبتِ باغات۔ اور باغات کی آگے دو قسمیں بیان فرمائیں مَعْرُوشَاتٍ جن کو چھپروں پر چڑھایا جاتا ہے۔ وَعَبْرٌ مَعْرُوشَاتٍ اور جن کو چھپروں پر نہیں چڑھایا جاتا۔ بعض پھل تو بڑے بڑے درختوں پر لگتے ہیں البتہ بعض پھل اور سبزیاں بیلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیلوں میں سے کچھ ایسی ہیں جنہیں معروشَات کہتے ہیں یعنی انہیں زمین سے اُپر اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے۔ ایسی بیلوں کی ٹٹیاں بنا کر ان پر چڑھا دی جاتی ہیں یا دیواروں کے ساتھ لٹکا دی جاتی ہیں یا پھر درختوں پر چڑھا دی جاتی ہیں۔ مثلاً انگور کی بیل کو لازماً اُپر اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے ورنہ وہ بیل پھل نہیں دیتی۔ سبزیوں میں تواری کی بیل ہے۔ جڑی بوٹیوں میں گلہبے۔ غیر معروشَات

باغات کی پیداوار

بیلوں میں ہمارے ہاں خربوزہ اور تربوز کی بیجوں میں یا ٹنڈا اور کدو کی بیجیں ہیں جو زمین پر پڑے پڑے عمدہ پھل سے جاتی ہیں۔ ان کو اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بہر حال یہاں معروف شات اور غیر معروف شات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ انہیں پیدا کیا ہے۔

اس کے علاوہ فرمایا وَالْتَمَلُ اللَّهُ کھجور کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے گچھے بڑے بڑے درختوں پر لگتے ہیں اور پکنے پر آتا رہے جاتے ہیں۔ انسانی استعمال کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ اسے تفریح طبع کے لیے بطور پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بعض ریگستانی علاقوں میں اسے غذا کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کی بیشمار قسمیں ہیں جو چھوٹے یا بڑے درختوں پر پیدا ہوتی ہیں، صحیحین اور دیگر کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا درخت مومن آدمی کی مانند ہے جس طرح ایک مومن آدمی نور ایمان اور نور توحید سے لبریز رہتا ہے۔ اس کے اخلاق و اعمال بہترین ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ تروتازہ رہتا ہے اسی طرح کھجور کا درخت بھی نہایت مفید ہے اس میں نہایت ہی کارآمد پھل آتا ہے جو ظاہری اور باطنی حسن سے مالا مال ہوتا ہے اور درخت بارہ مہینے ہر بھر رہتا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت درخت ہے۔ فرمایا وَالزَّرْعُ اللہ نے مختلف قسم کی کھیتیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جن کے ذریعے مختلف الانواع غلہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کی خوراک کا کام دیتا ہے اناج کی ہر قسم کا اپنا رنگ، ذائقہ اور غذا بیست ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی غذا کے لیے کئی قسم کا غلہ پیدا کیا تاکہ ایک ہی چیز کو ہمیشہ استعمال کر کے تنگ نہ آجائے بلکہ سب خواہش کبھی گندم، کبھی مکئی، کبھی باجرہ، کبھی چاول اور دوسری اجناس استعمال کر سکے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے کھیتیاں پیدا فرمائیں مُخْتَلِفًا اکلے، جن کے پھل مختلف اقسام کے ہیں۔ اس کے علاوہ وَالنَّيُّونَ اللہ نے زیتون پیدا کیا۔ یہ بھی بڑا مفید

کی ناشکرہ ہی اور شرک ہوگا

بانغات اور پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے

اور ایک چیز سے منع فرمایا ہے۔ کرنے والی بات یہ ہے وَأَتُوا حَقَّ يَوْمِ

حَصَادِهِ فصل یا پھل کٹنے کے دن اُس کا حق ادا کرو۔ اس حق کی تشریح میں

مفسرین کرام کے دو مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ یعنی بعض مفسرین اس

حق سے صرف صدقہ خیرات مراد لیتے ہیں جب کہ بعض دوسرے اسے زکوٰۃ

اور عشر پر محمول کرتے ہیں۔ جو حضرات اسے صرف صدقہ پر محمول کرتے ہیں اُن

کی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ و عشر کی تفصیلات مدنی زندگی میں نازل ہوئیں جب کہ

یہ سورۃ مکی ہے، لہذا اس حق سے زکوٰۃ و عشر مراد نہیں لیا جاسکتا۔ صدقہ و

خیرات کرنے کا حکم بھی قرآن پاک میں مذکور ہے فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ

مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَسْكِينِ وَمِزْمَارٌ یعنی تمہارے اموال میں

مسائل اور محتاجوں کا حق ہے۔ یہ حق کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت

یا نفل۔ بہر حال اللہ نے اہل ثروت کے مال میں غریبوں اور محتاجوں کا

حق رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب کھیتی یا پھل پک جائیں تو اس کا حق

ادا کرو۔ یعنی جب فصل کاٹی جائے یا پھل درختوں سے اُتار جائے تو اسے

گھر لاتے وقت مسکینوں، یتیموں اور یتیموں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرو۔

امام ابن کثیر اور امام ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مکی زندگی میں ہی

فرض ہو گئی تھی، تاہم اس کی مقدار مدینے میں جا کر مقرر ہوئی لہذا مکی دور

میں بھی بطور زکوٰۃ کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑتا تھا اس کی دلیل سورۃ منزل کی آیت كُنْتُمْ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جس میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ

کا بھی حکم ہے جب کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی

تھی۔ چنانچہ بعض مفسرین اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ وَأَتُوا حَقَّ

سے مراد زمین کی پیداوار سے عشر کی ادائیگی ہے۔ جس کی تشریح سورۃ میں

پیداوار کا
حق

مدینہ منورہ میں مکمل ہوئی اور جس کے مطابق سونے چاندی میں سے چالیسواں حصہ
 زکوٰۃ مقرر ہوئی۔ مویشیوں میں سے پانچ اونٹوں کے بدلے ایک بکری۔ ہر تیس
 گائے بھینس میں سے ایک اور چالیس بھینس بکریوں میں سے ایک بکری یا بھینس
 زکوٰۃ مقرر ہوئی۔ زمین کی پیداوار پر عشر اور نصف عشر کا اطلاق ہوا۔ چنانچہ جس
 زمین کی آبپاشی محنت کے ذریعے یعنی نہر، کنویں یا پانی باہر سے لا کر کی جاتی ہے اُس زمین کی پیداوار
 میں بیسواں حصہ اور جو زمین بارانی ہے اسی پیداوار میں سے دسواں حصہ (عشر) بطور زکوٰۃ مقرر ہوا
 البتہ زمینی پیداوار کے نصاب کے متعلق ائمہ کرام میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام فقہاء کرام
 پیداوار کا نصاب پانچ وسق کے برابر قرار دیتے ہیں یعنی اس سے کم پیداوار پر
 عشر عام نہیں ہوتا، البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زمینی پیداوار کا کوئی نصاب
 مقرر نہیں لہذا زمینی پیداوار کی ہر قلیل یا کثیر مقدار پر عشر واجب الادا ہوتا ہے
 جو کہ دسواں یا بیسواں حصہ ہے۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا فتویٰ
 غریب و مساکین کے حق میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں غریب پدموری کا زیادہ
 خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ فتوے سورۃ بقرہ میں موجود احکام اللہ کے ساتھ زیادہ
 مطابقت رکھتا ہے جن میں فرمایا گیا ہے کہ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْفِقُوا مِنْ طِبَّاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ" اے اہل ایمان! اپنی پاکیزہ کمائی میں سے بھی
 اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس چیز میں سے بھی جو ہم نے تمہارے
 لیے زمین سے پیدا کی ہے، بغرضیکہ زمین کی پیداوار سے انفاق فی سبیل اللہ
 کے لیے کوئی تحدید (LIMIT) نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کہ یہ میں بھی
 حکم ہے کہ فصل کٹنے وقت یا پھل اترنے وقت اس کا حق ادا کرو۔

دوسری چیز جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ ہے وَلَا تَسْرِقُوا
 یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ مال کو بلا ضرورت یا ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو۔
 اگر کوئی کام مقررے خرچہ سے پورا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے زیادہ خرچ نہ

کرو، یہی اسراف ہے۔ سورۃ اسراف میں موجود ہے كُلُوا وَاشْكُرُوا
وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ یہ ہو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ کیونکہ إِنَّكَ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر ناجائز
 کام مثلاً عیاشی فحاشی اور رسوم باطلہ پر خرچ کرنا اسراف و تبذیر میں آئے گا۔
 روپیہ پیسہ ہو یا اناج اور پھل، ضرورت سے زائد استعمال کرنا فضول خرچی
 کے زمرہ میں آئے گا۔ اسراف و تبذیر ہماری سوسائٹی کا روگ بن چکا ہے
 کھانے کے علاوہ مکان کی شان و شوکت اور اس میں سامان بھرنے کی دوڑ
 شادی اور عجمی کی رسومات اور چھوٹی آن کی آڑ میں کس قدر فضول خرچی کی جاتی
 ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ السُّبْدَرِينَ كَالنَّارِ
الْحَامِيَةِ (بنی اسرائیل) یعنی فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ لوگ انسانی
 بھلائی کے کام کرنے کی بجائے فضولیات میں مال اڑاتے ہیں اور اس طرح
 شیطان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسکی عطا کردہ نعمتیں
 کھاؤ یہ ہو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ جب کھیتی پک جائے اور درختوں کا پھل اتار
 لو تو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حق ادا کرو۔

جانوروں
 کے فوائد

کھیتی اور پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کے
 فوائد بھی ذکر کیے ہیں فرمایا وَمِنْ
الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ جانوروں میں
 سے بعض ایسے ہیں جو بار برداری کا کام کرتے ہیں۔ ان میں اونٹ، بیل، بکری،
 گدھے وغیرہ ہیں جو انسان کے لیے بڑے مفید کام انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ
 نے انہیں انسان کا خادم بنا دیا ہے۔ فرمایا لِيُحْمَلَ
عِلْمًا جانوروں کے
 علاوہ وَقَرَشًا بعض جانور ایسے ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں یعنی
 پست قدر ہیں۔ ان میں بھیٹر بکریاں اور دیگر چھوٹے جانور ہیں، یہ بھی انسان
 کے لیے بڑے مفید ہیں۔ انم البکرہ حصص فرماتے ہیں کہ ان کو قرشا
 اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے چمڑے اور بالوں سے مصلیٰ وغیرہ بنا کر زمین

پسچھایا جاتا ہے۔ بالوں سے کٹرا بنا کر کھیل کے طور پر لیا جاتا ہے اور پہننے کے کام بھی آتا ہے۔ کھال کو رنگ کر نئے کے بعد فرش پر پسچھایا جاتا ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ جانور بوقت ذبح زمین پر لٹائیے جاتے ہیں، لہذا فرشتا کی یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ہر روز لاکھوں، کروڑوں بھیسٹ بھیریاں ذبح کر دی جاتی ہیں جو کہ انسان کے لیے نہایت مقوی غذا کا کام دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔

فرمایا کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَتّٰی تَرٰوْا تَمٰیٰزَ اللّٰہِ
 نے دیا ہے۔ اُسے کھاؤ۔ یہ رزق خواہ کھیتی کی شکل میں ہو یا پھلوں کی صورت میں یا جانوروں کی شکل میں اُسے استعمال کرو۔ کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ البتہ ان کے کھانے میں اور دیگر ضروریات میں فضول خرچی نہ کرو۔

فرمایا ان النعمات کے جائز استعمال پر کوئی پابندی نہیں، البتہ
 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ شَيْطٰنِ كَيْفَ نَقَشَ قَدَمِہٖ
 چلو۔ امام شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں شیطان کے نقش قدم پر چلنا خدا تعالیٰ کے قانون کی پابندی کو چھوڑ دینا ہے۔ جو شخص قانون خداوندی پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، رسم و رواج کے پیچھے چلتا ہے وہ حقیقت میں شیطان کا اتباع کرتا ہے ترقی کی منازل تک پہنچنے کے لیے قانون کی پابندی لازمی ہے۔ جو شخص اس کی پروا نہیں کرتا وہ حظیرۃ القدس اور جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اس ضمن میں علت و حرمت کے قانون کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ نے فرمایا حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حرام کے قریب نہ جاؤ۔ حرام خوردی شیطانی کام ہے۔ وہ تمہیں ہر وقت بہکاتا رہتا ہے اور ناجائز امور کی تم غیب دیتا ہے۔ یاد رکھو!
 اس کی بات نہ ماننا کیونکہ اِنَّہٗ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ وہ تمہارا کھلا

شیطان کے
 نقش قدم پر

دشمن ہے، وہ تمہیں غلط مشورہ ہی دینگا اور تمہاری عاقبت کو خراب
 کر دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ انسان کو عجز و غرہ کی حالت تک پہنکانے کی کوشش
 کرنا ہے۔ وہ تمہیں ایمان سے دور کر کے عدالت و گمراہی کے گڑھے
 میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہو کیونکہ وہ تمہارا صریح
 دشمن ہے۔ تمہیں ورغلائے کے لیے اس نے قسم اٹھا رکھی ہے۔
 لہذا یہ تمہارا کام ہے کہ اس سے بچ نکلو۔

ثَمَنِيَّةَ ۚ اَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّانِّ اِثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ السَّعْرِ
 اِثْنَيْنِ ۚ قُلْ ۙ اَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ ۙ اِمَّا الْاُنثَيَيْنِ ۙ اَمَّا
 اِسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنثَيَيْنِ ۚ نَبِيُّوْنِي
 يَعْلَمُ ۙ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۴۳﴾ وَمِنَ الْاِبِلِ
 اِثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ اِثْنَيْنِ ۚ قُلْ ۙ اَلذَّكَرَيْنِ
 حَرَّمَ ۙ اِمَّا الْاُنثَيَيْنِ ۙ اَمَّا اِسْتَمَلْتُ عَلَيْهِ اَرْحَامُ
 الْاُنثَيَيْنِ ۚ اَوْ كُنْتُمْ شٰهِدًا ۙ اِذْ وَاٰصَكُمْ
 اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرٰى عَلٰى
 اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِفَيْرٍ عَلِيمٍ ۚ اِنَّ
 اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

ترجمہ :- آٹھ جوڑے (اللہ نے تمہارے فائدے

کے لیے پیدا کیے ہیں) بھٹیروں میں سے دو (نر اور مادہ)

اور بکریوں میں سے دو (نر اور مادہ)۔ اے پیغمبر! آپ

کہہ دیجئے (ان لوگوں سے) کیا اللہ نے دونوں حرام قرار دیے

ہیں یا دونوں نر و مادہ یا جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے؟ مجھے

علم کے ساتھ بتلاؤ اگر تم سچے ہو ﴿۱۴۳﴾ اور اس نے

پیدا کیا) اونٹوں میں سے دو (نر اور مادہ) اور گائے (بھینس)

میں سے دو (نزاور مادہ) آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے دونوں نہ حرام قرار دیے ہیں یا دونوں مادہ یا جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے؟ یا تم حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، پس کون زیادہ ظالم ہو گا اس سے جس نے افتراء باندھا اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کہے لوگوں کو بغیر علم کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں۔ (۱۴۴)

ربط آیات

گذشتہ دروس میں مختلف اقسام شرک کی تردید بیان ہو چکی ہے بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی نذر و نیاز بھی نکالتے تھے۔ بعض نے ایسی رسومات باطلہ ایجاد کر رکھی تھیں جن کی رُو سے وہ بعض حلال اور طیب چیزوں کو از خود اپنے اُپر پر حرام قرار دے دیتے تھے، اللہ نے ان کا بھی رد فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کے سلسلے میں پھلوں اور کھیتی کا تذکرہ فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو استعمال کرو اور میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کھیتی اور پھل پک جائے تو اس میں سے اس کا حق ادا کرو یعنی غرباء اور مساکین کو بھی کچھ دے دیا کرو۔ اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مسرفین کو ہرگز پسند نہیں فرماتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی بعض اقسام کا ذکر کیا ان میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگ کر چلتے ہیں یعنی یا تو ان کی پشتیں ہر وقت زمین کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ یا وہ زمین کے قریب پست قدم ہوتے ہیں اس لیے ان کو فرشا کہا گیا ہے۔ اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی کھالوں کو فرش پر بچھایا جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یعنی غیر اللہ کی نیاز نہ دو اور نہ انہیں معبودانِ باطلہ کے نام سے منسوب کرو۔

آٹھ حلال مویشی

جن آٹھ مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان آیات میں ان کی

وصیلہ اور حرام کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور انہیں اپنے آپ پر حرام قرار دے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین کا ایک اور باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان مادہ جانوروں کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ یہ سب کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے ایسے تمام غلط عقائد کی تردید فرمائی اور واضح طور پر بتلادیا کہ بھیسڑ اور بکری کا ہرنہ اور مادہ بلا تخصیص سب کے لیے حلال ہے۔ انہیں کسی خود ساختہ شریعت کے تحت حرام نہیں قرار دیا جاسکتا۔ زمانہ جاہلیت میں بعض جانوروں کو سانڈھ کے طور پر کھلا چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کر لیا جاتا تھا۔ بعض کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو ان تمام عقائد باطلہ کا اللہ نے رد فرما دیا ہے۔ بعض ان نر جانوروں کی سواری اور گوشت خود پر حرام کر لیتے تھے جن کی حضیٰ سے مقررہ تعداد میں بچے پیدا ہو جاتے تھے مگر اللہ نے فرمایا، ان کی کچھ حقیقت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ان پر سواری بھی کر سکتے ہو اور ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہو ان کے بال بھی استعمال میں لائے جاسکتے ہیں اور دباغت کے بعد کھال بھی کام میں لائی جاسکتی ہے۔

شانِ نزول

قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر منطہری میں رقمطراز ہیں کہ مشرکین میں سے ایک شخص مالک ابن عوف غبشی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملاقاتی ہوا اور عرض کیا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی طرف سے مروجہ غیر اللہ کی نیانہ کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے حرام قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ ہمارے آباؤ و اجداد سے چلا آرہا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جوابی سوال کیا کہ تم جانوروں کو از خود اپنے آپ پر حرام قرار دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ فلاں کی نذر ہے، تو بتلاؤ کہ یہ حرمت نر کی وجہ سے ہے یا مادہ کی وجہ سے۔ اگر نر ہونے کی بنا پر انہیں حرام قرار دیتے ہو تو سائے کے

سائے نہ حرام ہونے چاہئیں۔ پھر تم نے بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیسے
 بتالیا۔ اور اگر ان کی حرمت مادہ ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر سائے مادہ
 جانور حرام ہونے چاہئیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر تم نے یہ حرمت
 رحم یعنی بچہ دانی کی وجہ سے عائد کی ہے تو پھر نہ اور مادہ سب کے سب حرام
 ہیں آخر تم نے حلت و حرمت کا کون سا اصول اپنایا ہے اور اس کے لیے
 تمہارے پاس کیا دلیل ہے۔ اس شخص سے کوئی جواب نہ بن آیا تو کہنے
 لگا حضور! میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اب آپ بولیں
 ہم سنتے ہیں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے
 مالک بن عوف کے ساتھ تکلم کو ان آیات کی صورت میں نازل فرما دیا۔
 حضرت مولانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی معرکہ الآرا کتاب
 حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ دراصل کسی چیز پر حلت و حرمت کا حکم لگانا
 اللہ تعالیٰ کا منصب ہے اور اس معاملہ میں اس کا کوئی شریک نہیں تجلیل و تحکیم
 کائنات میں تکوین نافذ کا نام ہے کہ فلاں کام کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو جو بارہ
 ہو گے، اور فلاں کام نہ کرو، اگر کرو گے تو مجرم ٹھہرو گے۔ شاہ صاحب
 فرماتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور فرض، واجب، سنت
 اور مستحب وغیرہ تمام امور کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم سے دیا ہے۔
 جب کسی آیت کہ یہ یا حدیث نبوی میں حلت و حرمت کی نسبت نبی کی طرف
 کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز قطعی طور پر حلال یا حرام ہے
 اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور نبی نے اس کو امت تک پہنچایا ہے
 بعض معاملات میں مجتہدین بھی حلت و حرمت کا حکم لگاتے ہیں مگر اس کا
 مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا رہے ہیں بلکہ
 وہ تو صرف اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی فلاں آیت
 یا حضور علیہ السلام کی فلاں حدیث سے حلت و حرمت کا اظہار ہوتا ہے۔

حلت و حرمت
 کا اختیار

اسی طرح نبی بھی اپنی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں لگاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال اور حرام کردہ اشیا کی وضاحت کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا شخص اپنی طرف سے حلت و حرمت کا حکم لگانے کا تو وہ مشرک بن جائے گا کیونکہ اس نے خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے۔ غرضیکہ مشرکین کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تمہاری طرف سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام قرار دے لینا شرک ہے۔ یہود و نصاریٰ کے احبار اور رہبان اپنی طرف سے جو حلت اور حرمت کا فتویٰ دیتے تھے، ان کا یہ فعل خدائی معاملات میں مداخلت کے مترادف تھا اور شرک تھا۔ حلت و حرمت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔

بہر حال بھٹیروں اور بکریوں کی حلت کا قانون بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے دریافت کریں اَلَّذٰكِرٰتِیْنَ حَرٰمٌ اَمْ اَلْاُنثٰیٰتِیْنَ کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں نر بکرا اور چھترا حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ (بکری اور بھٹیر) اَمْ اَشْمَلْتُ عَلَیْهِ اَرْحَامٌ اَلْاُنثٰیٰتِیْنَ یا جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے یعنی پیٹ میں نر یا مادہ جو کچھ بھی ہے، وہ حرام ہے۔ اس کی وضاحت کہو۔

فَرٰی اَنْبِیُّوْنِیْ بِعِلْمِیْ مجھے علم کے ساتھ بلا دینی کوئی علمی دلیل پیش کرو اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ اگر تم حلت و حرمت کے دعوے میں سچے ہو بتاؤ کہ تم نے از خود بعض جانوروں کو اپنے اوپر کیسے حرام قرار دے لیا ہے۔ آٹھ میں سے دو چھوٹے جانوروں (بھٹیر بکری) کے تذکرہ کے بعد اللہ نے باقی دو بڑے جانوروں کا ذکر بھی اسی طرح کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مویشیوں کو بھی تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ وہ ہیں وَمِنَ الْاَبِلِ الْاُنثٰیٰتِیْنَ اونٹوں میں سے بھی دو ہیں یعنی اونٹ اور اونٹنی وَمِنَ الْبَقَرِ الْاُنثٰیٰتِیْنَ

حلت و حرمت
کی دلیل

اور گائے بھینس میں سے بھی دو یعنی بیل اور گائے یا بھینسا اور بھینس یہاں پر بقرہ گائے اور بھینس دونوں پر مجمول کیا گیا ہے کیونکہ دونوں دراصل ایک ہی نسل سے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ گائے ہر قسم کی آب و ہوا میں پیدائش پا سکتی ہے جب کہ بھینس کے لیے گرم مرطوب آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے بھینس صرف میدانی گرم مرطوب علاقوں میں پائی جاتی ہے جب کہ گائے کی نسل دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے۔ بہر حال گائے اور بھینس کے لیے قربانی میں بھی ایک ہی حکم ہے اور اس کا دودھ، گھی، گوشت اور چمڑا بھی یکساں طور پر قابل استعمال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا

قُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے دریافت کریں اَلذَّكَرَيْنِ حَرَامٌ
اَلْاُنثٰیٰکَیْنِ کیا اللہ نے اس نسل یعنی اونٹ اور گائے بھینس کے

دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ امَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ اَرْحَامٌ
اَلْاُنثٰیٰکَیْنِ یا وہ چیز جس پر مادہ کا رحم مشتمل ہے۔ یعنی مادہ کے پیٹ

میں جو بھی نر یا مادہ ہے، وہ حرام ہے۔ آخر تمہارے پاس حلت و حرمت کی کیا دلیل ہے۔ اگر مادہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہر بچہ حرام ہے تو پھر یہ تخصیص کیوں کہتے ہو کہ اگر زندہ پیدا ہوا تو مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہوگا اور مردہ پیدا ہوا تو سب کے لیے حلال ہوگا۔

فرمایا اگر تمہارے پاس حلت و حرمت کی کوئی عقلی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کے لیے نقلی دلیل لاؤ۔ نقلی دلیل کا ماخذ وحی الہی ہوتا ہے جو نبی کی وساطت سے حاصل ہوتا ہے مگر نبوت پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، جیسا کہ گذشتہ آیات میں گمراہ چکا ہے کہ مشرکین نبوت کا سکر سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے کسی انسان کو نبی نہیں بنایا۔ اب اگر یہ دلیل بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو کس طرح ثابت کر گے کہ حلت و حرمت کا تمہارا قانون برحق ہے۔ دلیل کے بغیر تو یہی

سمجھا جائے گا کہ تمہارے حلت و حرمت کے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ محض آباؤ اجداد کی رسومات پر مبنی ہے۔ البتہ ایک تیسری صورت یہ رہ جاتی ہے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا کیا تم خود وہاں موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب اس بات کا دعویٰ بھی کون کر سکتا ہے کہ اُس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارے تمام دعوے بلا دلیل ہیں، لہذا ناقابل قبول ہیں۔

افتراء علی اللہ

آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹ کی ایک دفعہ پھر تہ دید فرمائی ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانڈھتا ہے یعنی اُس کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے اللہ نے تو ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا جس پر یہ مشرکین عمل پیرا ہیں۔ ایسے رسم و رواج کو اللہ کی طرف منسوب کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے اور اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمارے ان بچہ، سائیکہ، وصیلہ اور حام سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر شکر کیہ افعال کی خوشنودی کا الزام بھی لگاتے تھے، العیاذ باللہ۔ فرمایا یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اُس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ لہذا اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کا شکر یہ ادا کرو۔ فرمایا، اللہ پر اس قسم کا بہتان لگانا اس وجہ سے ہے لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا جاسکے۔ نہ عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے تو پھر اسے گمراہی کے سوا کیا نام دیا جاسکتا ہے؟ فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ بہتان طرازی کرنے والے ظالموں کو سمجھی ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہدایت اس وقت نصیب ہوگی جب ظلم کو ترک کر کے ہدایت کا طالب ہوگا وگرنہ اللہ تعالیٰ

کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرے مقام پر آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت
 نہیں دیتا۔ ایسے لوگ کفر کی حالت میں ہی مریں گے اور ہمیشہ کے لیے
 نامراد ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے "نُورِ لَّهُ مَا تَوَلَّى" حدیث
 کوئی جانا چاہتا ہے ہم اُدھر ہی توفیق دے دیتے ہیں۔ کسی کو ایمان قبول
 کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ ایمان تو اس کو نصیب ہوتا ہے جس میں
 اس کے لیے تڑپ موجود ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا اخیر جہنم ہے
 وہ بچ نہیں سکتا۔

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ
 طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
 مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
 أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
 بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱۲۵)

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے نہیں پاتا میں
 اس چیز میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف کسی چیز کو حرام،
 کھانے والے پر جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا
 بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو پس بیشک وہ
 ناپاک ہے۔ یا وہ ناجائز اور گناہ ہو جس پر پکارا گیا ہو
 اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ پس جو شخص مجبور ہو گیا اس حال
 میں کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے
 والا۔ پس بیشک تیرا پروردگار بخشنش کرنے والا اور مہربان

ہے (۱۲۵)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کا ذکر فرمایا تھا جن کو مشرکین
 نے اپنے اعتقادِ فاسد کے ساتھ مشرکانہ طریقے سے از خود حرام قرار دے رکھا
 تھا۔ اللہ نے ان باطل عقائد کی تردید فرمائی اور پھر مومنینوں میں سے آٹھ قسم کے
 مومنینوں کی حلت کا ذکر کیا۔ اور فرمایا اگر تم ان میں سے بعض کو حرام سمجھتے ہو تو اس

کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش کر دو۔ اور اگر اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ اور بغیر علم اور تحقیق کے لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ ایسا کہ نابرا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت نہیں کرتا اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی محرمات کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے کھانے میں جو ختمہ ایساں پائی جاتی ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔

چار بنیادی
عزم چیزیں

آج کے درس میں جن محرمات کا ذکر ہے وہ چار بنیادی چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ انہی چار چیزوں کا بیان سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۱ میں إِنَّ الْفَاظَ فِي أَجْزَائِهِ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحُمَّ الْخَنْزِيرِيَّ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِفَيْرِ اللَّهِ بیشک اللہ تعالیٰ نے تم پر عزم قرار دیا ہے۔ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر یہی مضمون سورۃ مادہ کے پہلے رکوع میں بھی بیان ہوا ہے۔ طرزِ بیان ذرا مختلف ہے حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحُمَّ الْخَنْزِيرِيَّ وَمَا أَهْلَ لِفَيْرِ اللَّهِ اسی طرح اب اس آیت میں بھی انہی چار چیزوں کی حرمت کا تذکرہ ہے البتہ یہاں طرزِ بیان بالکل مختلف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ

لَا أَحَدٌ مِنْكُمْ يَتَّبِعْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فِسْقًا أَجْلٌ لِفَيْرِ اللَّهِ بہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے خطاب ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے۔ میں

اس میں ان چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو حرام نہیں پاتا یعنی مردار، بہتا

ہوا خون، خنزیر کا گوشت کہ یہ ناپاک ہے اور گناہ کی یہ بات ہے کہ اللہ کے
سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔

اشکال حصر اور
اس کا جواب

اس آیت کریمہ میں محرمات کے ضمن میں حصر کا تاثر پایا جاتا ہے یعنی صرف
یہی چار چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی حرام نہیں ہے کیونکہ
طرز بیان اس طرح کا ہے کہ ان کے علاوہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔
مفسرین کریم فرماتے ہیں کہ حصر کا یہی تاثر اشکال کا باعث بن رہا ہے کیونکہ
سورۃ مائدہ میں ان چاروں کی حرمت کے ساتھ بعض دوسری چیزوں کا
بھی ذکر ہے "وَالسَّخِیْقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیْقَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ" یعنی مذکورہ چار چیزوں کے
علاوہ یہ جانور بھی حرام ہیں جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، جو چوٹ لگنے سے ہلاک
ہو گیا ہو۔ اور جو اونچی جگہ سے گر کر ہلاک ہو گیا ہو اور جس کو دوسرے جانور نے
سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، البتہ جسے
ذبح کر لیا گیا ہو (وہ حلال ہے) ان کے علاوہ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی
استحان پر ذبح کیا جائے۔ اور جوٹے کے تیروں کے ساتھ تقسیم کرنا بھی
حرام ہے۔

اس اشکال کے جواب میں مفسرین کریم نے کسی تو جہات پیش کی ہیں
شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے صرف ایک جملے میں اس اشکال کو حل کرنے
کی کوشش کی ہے "یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے، ان میں یہی حرام
ہیں۔ مطلب یہ کہ عام طور پر انسانی خوراک بننے والی چیزوں میں صرف یہی
حرام اشیاء ہیں۔ ان کے علاوہ جو درندے وغیرہ ہیں، وہ تو ایسے ہی لوگ
نہیں کھاتے، اس لیے ان کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ بعض جانور قطعاً حرام
نہیں بلکہ کہ اہمیت کی فہرست میں آتے ہیں اور بعض کو فقہائے کریم نے جائز

بھی قرار دیا ہے اس لیے ہر مکہ وہ چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ قطعی طور پر
 حرام نہیں ہیں۔ بعض جانوروں کے معاملہ میں فقہائے کرام میں قطعی اختلاف
 پایا جاتا ہے۔ جیسے امام شافعی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کو جائزہ قرار دیتے ہیں جب کہ امام ابو حنیفہ
 سے حرام کہتے ہیں۔ امام لیث ^{رحمۃ اللہ علیہ} بلی کو حلال قرار دیتے ہیں اور بعض گھریلو گدھوں
 کو مکہ وہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ گدھے مذکورہ قطعی چار حرام اشیاء کے برابر حرام نہیں
 بلکہ حرمت میں ان کا درجہ کم تر ہے۔ مقصد یہ کہ عام طور پر کھائی جانے والی اشیاء
 میں سے قطعی حرام چار ہیں اور باقی مکہ وہاں تک کے درجے میں آتی ہیں۔
 امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر "القان" میں امام شافعی ^{رحمۃ اللہ علیہ} کا
 یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں پہلے چار چیزوں کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے اس
 سے مراد قانون حرمت کو انہی چار چیزوں تک محدود کرنا مقصود نہیں بلکہ ان
 چار چیزوں کا تذکرہ کلمے کے مشرکین کے عقائد باطلہ کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ
 ان چیزوں کو حلال قرار دیتے تھے۔ مثلاً مردار کی حلت کے متعلق گذشتہ درس
 میں بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ بکیر، ماسائے وغیرہ کے لطن
 سے اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو مردوں اور عورتوں سب کے لیے حلال سمجھا جاتا تھا۔
 اسی طرح نصاریٰ اور مشرکین خنزیر کو حلال سمجھتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے
 تھے۔ پھر نذر لغیر اللہ کا عام رواج تھا۔ یہ نہ صرف جائز تھی بلکہ کارِ ثواب سمجھی
 جاتی تھی۔ غرضیکہ ان چیزوں کی حرمت کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے
 غلط عقائد کا رد فرمایا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سورۃ بقرہ میں جہاں ان
 محرمات کا ذکر کیا ہے وہاں بھی "انہما حرم" سے شروع کیا ہے، اور
 اس میں بھی کسی حد تک حصر کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہذا اس آیت کرمیہ میں
 واضح حصر کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔

بہر حال فرمایا ہے پیغمبر! آپ اعلان فرمادیں کہ کھانے کے معاملے
 میں تو ان چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ ان میں پہلی چیز

مَيْتَةً یعنی مٹا رہے۔ مردار وہ جانور ہے جو حلال ہو مگر بغیر ذبح کیے خود بخود مر جائے، یا اگر ذبح بھی کیا جائے تو خلاف شریعت طریقہ سے مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے یا کھڑی پتھر وغیرہ مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے یا دیدہ دانستہ ذبح کرتے وقت اسپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اگر کسی زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ بھی مردار ہی کی تعریف میں آئے گا۔ کسی جانور کو اگر کوئی دوسرا جانور سینگ مار کر ہلاک کر دے یا کوئی ذرہ بھڑکھائے اور وہ مر جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا۔ حضرت مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایسے تمام جانور مردار تصور ہوں گے۔ البتہ دو جانور بمطابق حدیث اس حرمت سے مستثنیٰ ہیں اور بغیر ذبح کیے ان کا کھانا درست ہے۔ فرمایا اُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ السَّمَكُ وَالْجُرَادُ یعنی ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں ایک مچھلی اور دوسرا کڑھنڈی۔ ان دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانا حلال ہے۔

محرّمات اربعہ میں سے دوسری چیز دَمًا مَسْفُوحًا یعنی بہتا ہوا خون ہے ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے جو خون بہتا ہے وہ قطعی حرام ہے البتہ ذبح کے بعد جو محقوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ قرہ جاتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے اگر گوشت کو دھوئے بغیر کھھی پکا کر کھا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، تاہم لطافت کا تقاضا ہے کہ گوشت کو دھو کر اور صاف کر کے پکایا جائے۔ ظاہر ہے کہ جانور کی رگ کلٹنے سے یہی مقصود ہے کہ اس کا تمام خون بہ جائے جو کہ حرام ہے۔ البتہ ایک چیز کی گنجائش ہے۔ جس جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو مثلاً کوئی پرندہ ہے یا تیز بھاگنے والا جانور ہے تو اسے اللہ کا نام لے کر زخمی کر دینا ہی کافی ہے۔ ایسے جانور کو تیز چلاتے وقت یا نیزہ بجالا وغیرہ مارتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے تو جانور حلال ہو جائے گا۔ مقصد یہ کہ اگر اللہ کا نام لے کر تیز دھاڑنے سے حملہ کیا جائے تو جانور حلال ہوگا ورنہ نہیں۔ اگر لکڑی، غیل یا بندوق

کا نشانہ لگایا جائے تو بغیر ذبح کیے جانور حلال نہیں ہوگا۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح کو بھی قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ البتہ خون کی دو قسمیں حدیث شریف کے مطابق حلال ہیں حضور نے فرمایا أُحِلَّتْ لَنَا دَمَانِ الْكَبِدِ وَالطَّحَالِ ہمارے لیے دو خون حلال ہیں ایک جگر اور دوسری تلی۔ یہ دونوں اعضا منجند خون ہیں اور حلال جانور کے حلال ہیں۔

حرام خون کی مذکورہ توضیح کے پیش نظر فقہائے کرام میں مسئلہ انتقال خون (Blood Transfusion) میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اُسے قطعاً حرام اور بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ تاہم صحیح صورت حال یہ ہے کہ انتقال خون صرف اضطرار کی حالت میں جائز ہے۔ اور عام حالات میں درست نہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر معمولی معمولی امراض میں بھی خون لگا دیتے ہیں جو یقیناً درست نہیں۔ البتہ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو اور خون پینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو وہاں اگر حسب ضرورت ایک آدھ بوتل لگا دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی لیے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی مولانا محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ خون کا انتقال صرف متدین اور ہر ڈاکٹر (Specialist) کے مشورہ سے ہی دینا چاہیے اور وہ بھی کم از کم مطلوبہ مقدار میں، ورنہ آدمی گناہگار ہوگا۔

مسئلہ
انتقال خون

محرمات اربعہ میں سے تیسری حرام چیز لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت ہے۔ خنزیر نجس العین جانور ہے۔ حضرت ام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بنی مبعوث فرمائے ہیں سب کی شرائع میں خنزیر حرام رہا ہے۔ عیسائیوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جنہوں نے اسے بھیڑ بکری کی طرح کھانا شروع کر دیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ

لحم الخنزیر

نزول ہوگا تو آپ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ عیسائیوں کی تذلیل ہو اور ان کی غلط کارروائی کا پمدہ چاک ہو۔ انگریز عیسائی اور سکھ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں وہ نوری طور پر سجاست کا شکار ہوتے ہیں۔ خنزیر گندگی خورد ہے لہذا اس کو کھانے کے بھی گندی ذمہ داری کے حامل ہیں۔ خنزیر بڑا بے غیرت جانور ہے لہذا اس کو کھانے کے بھی انتہائی

بے غیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ناپاک جانور ہے جس نے فَاَنذَرْتُ رَجُلًا اَوْ فِئْتًا فرمایا ہے۔ جس طرح پانچانہ، پٹیشانہ وغیرہ کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہو سکتے اس طرح یہ جانور بھی جس العین ہے اور اس کا کوئی حصہ یعنی گوشت پوست، ہڈی، چمڑا وغیرہ سب ناپاک ہیں۔ حتیٰ کہ باقی حرام جانوروں کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے مگر خنزیر کی کھال دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی۔

نذر غیر اللہ

محرمات میں چوتھا نمبر اٰھل لَغَیْرِ اللّٰہِ بِلہ کا ہے۔ یعنی وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فِئْتًا سے تعبیر کیا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے اگر کوئی چیز کسی بت، جن، فرشتے، بنی یا بزرگ کے تقرب یا خوشنودی کے لیے بطور نیاز دی جائے جیسے شیخ مدھو کا بھرا، شیخ کبیر کی گائے، زین خاں کامر غا شیخ علی ہجویری کا دنبہ یا پیران پیر کی گیارھویں تو یہی نذر غیر اللہ ہے۔ اس سے اگر یہ مقصود ہو کہ فلاں ہستی خوش ہو کہ کسی مصیبت سے بچائے گی یا کوئی بگڑا ہوا کام بن جائے گا تو ایسی چیز بہر حال حرام ہو جاتی ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ بھی پڑھ لی جائے، تب بھی جانور حرام ہی ہے گا۔ کیونکہ وہ غیر اللہ سے منسوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسے عقیدے سے تائب ہو کہ ذبح کرتا ہے تو پھر جانور حلال ہوگا۔ نذر غیر اللہ تمام انبیاء اور ملت حنیفیہ کے اہلوں کے نزدیک حرام ہے۔ وہ جانتے

ہیں کہ ایسی چیز میں معنوی نجاست پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہوتی بلکہ اس کی نجاست مردار کی نجاست سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مردار میں تو صرف یہ خرابی ہے کہ اسکی جان اللہ کے نام پر نہیں نکلی مگر جو جانور غیر اللہ کے نام پر نذر کیا گیا ہے اس پر تو غیر کا نام آگیا ہے جو عین شرک ہے۔ جس طرح کوئی گنا یا خنزیر یا بکرا کہہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جاتا، اسی طرح نذر غیر اللہ کا جانور بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوتا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہ کی دعوت پر اسکی تعظیم کی نیت سے جانور ذبح کیا جائے یا اینٹوں کا بھٹہ پکانے کے لیے کوئی جانور اس کی بھینٹ کیا جائے تو وہ جانور مردار کی طرح حرام ہوگا۔ اور ایسا کہنے والا آدمی مشرک ٹھہریگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لَعْنَ اللّٰهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ جو غیر اللہ کی تعظیم خوشنودی یا تقرب کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جانور غیر اللہ کی طرف نسبت کی بنا پر ہی حرام ہو گیا ہے اور اب تکیر اسے حلال نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے نام پر، اسکی رضا اور تقرب کے لیے ذبح کرے اور پھر اس کا ثواب کسی فوت شدہ عزیز پر یا بزرگ کو ایصالِ ثواب کرے تو جائز ہے۔

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ آپ نے پچاس سال تک مدرسے میں تعلیم دی۔ آپ عظیم المرتبت علما میں سے تھے۔ انگریزوں کے سخت مخالف تھے۔ انگریزوں نے آپ کو بغاوت کے الزام میں سزائے موت دینے کا ارادہ کیا مگر اللہ نے بچالیا اور آپ کو جزیرہ مالٹا میں ساڑھے چار سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ قرآن پاک کا یہ ترجمہ اور سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء کا

شیخ الہند
مولانا محمود حسن

حاشیہ آپ نے اسی جیل میں قلمبند کیا تھا۔ مالٹا سے واپس آئے تو جلد ہی ہی
 فوت ہو گئے۔ آپ کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا
 احمد علی لاہوری، مولانا انور شاہ صاحب کشمیری، مفتی کفایت اللہ، مولانا
 عبدالعزیز گوہر النوالوی، مولانا عبد اللہ سندھی، مولوی محمد صادق کھٹڑے والے
 مفتی عبدالرحیم پور پٹنوی جیسے اکابر علماء شامل ہیں۔ تاریخ بین حضرات جانتے
 ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ اسلامی سلطنتوں کو
 درہم برہم کیا، مسلمانوں کے مذہب، اخلاق اور تہذیب کو بگاڑ کر رکھ دیا۔
 گذشتہ چار صدیوں سے دنیا میں انگریز ہی کا عروج رہا ہے۔ روس بھی
 اصل میں انگریز ہی تھے جو بعد میں اشتراکی بن گئے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی
 وغیرہ کے لوگ انگریزی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اسلام
 کے بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ حضرت شیخ السنہ نے ان سے حتی المقدور
 ٹکھالی۔ بہر حال ان آیات کی تشریح میں جو کچھ عرض کیا ہے یہ حضرت شیخ الہند
 ہی کے الفاظ ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں۔

اضطرار
 حالت
 میں اباحت

آیت کے آخر میں ارشاد ہے فَمَنْ اضْطُرَّ لَیْسَ جَوْرًا مجبور
 ہو گیا۔ غَیْرَ بَاغٍ نہ وہ نافرمانی کرنے والا ہے وَلَا عَادٍ اور نہ تعدی کرنے
 والا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تو بیشک تیرا پروردگار بخشنے
 کرنے والا اور مہربان ہے مجبوری سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس
 فی الوقت کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں اور نہ ہی اسے کسی حلال چیز تک
 دسترس حاصل ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ مذکورہ حرام اشیاء میں سے
 کوئی چیز کھا کر جان بچائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس پر کوئی مواخذہ
 نہیں ہوگا۔ مگر یہ ضروری ہے کہ مجبوری کی حالت ہو نہ کہ جان بوجہ کمرہ بلاعد
 حرام خوردی کمرہ کے بغاوت کا مرتکب ہو۔ غَیْرَ بَاغٍ کا یہی مطلب ہے
 کہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں مجبور ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ

وَلَا عَادٍ زِيَادَتِي بَعْدِي نَهْ كَرِهِي لِعِيتِي عَرَفْنَا أَنَّمَا كَلَّمْنَا مِنْ جَانٍ نَزَّاجٍ سَكَنِي هُوَ
 اس سے زیادہ کالاریج نہ کرے۔ اگر پاؤ بھر چیز کھانے سے جان بچا سکتا ہے
 تو پھر اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی کھانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ان موثر لفظ
 کے ساتھ سخت اضطرابی حالت میں کوئی حرام چیز بھی استعمال کرے گا۔
 تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادے گا۔ بلکہ فقہائے کرام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجبوری
 کی حالت میں اگر حرام چیز میسر ہے مگر کوئی شخص نہ کھا کر اپنی جان ضائع کر
 لیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مانوڑ ہوگا۔ جب ایسی حالت میں اللہ نے
 حرام چیز کو مباح قرار دیا ہے تو پھر اس نے کیوں نہ استعمال کی۔ البتہ کسی
 شخص پر اگر ایسی مجبوری کی حالت آجائے کہ اسے جان سے مار دینے کی ڈھکی
 سے کر کفر کا کلمہ کہنے پر آمادہ کیا جائے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، کہ
 کلمہ کفر نہ کہے چاہے جان چلی جائے۔ البتہ جان بچانے کے لیے حرام کا
 کھا لینا بہتر ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کی جان ضائع ہو۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَ
 مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
 شَحْوِمَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا
 أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ
 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۱۳۶﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ
 ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ
 الْقَوْمِ الْمَاجِرِينَ ﴿۱۳۷﴾

ترجمہ :- اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرام کہ
 دیا ہم نے ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں
 سے حرام قرار دیں ہم نے ان پر ان کی چربی مگر وہ جو
 لگی ہو ان کی پشتوں کے ساتھ یا آنتوں کے ساتھ یا جو
 ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے سزا دی ان کو انکی
 سرکشی کی وجہ سے۔ اور بیشک ہم سچ کہتے ہیں ﴿۱۳۶﴾ پس اگر
 جھٹلائیں آپ کو اے پیغمبر! تو آپ کہہ دیجئے تمہارا پروردگار
 بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا

عذاب ان لوگوں سے جو مجرم ہیں ﴿۱۳۷﴾

غیر اللہ کی نیاز اور فعلی شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے گذشتہ درس ربط آیات

میں چار بنیادی حرام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ یہ چار چیزیں ہر دور میں انسانوں کے لیے

حرام رہی ہیں اور وہ ہیں مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر نامزد کی جانے والی چیز جس سے اس کا تقرب اور خوشنودی مطلوب ہو۔ جو لوگ ایسی چیزوں کو استعمال کریں گے وہ جسمانی یا روحانی خرابیوں میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ مردار کھانے سے انسان کی جسمانی نشوونما خراب ہوتی ہے۔ بہتا ہوا خون زہریلے مادوں سے مرکب ہوتا ہے اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح خنزیر ایک نجس العین جانور ہے، نجاست خور اور بے غیرت ہے لہذا اس کو کھانے والے بھی اپنی صفات سے متصف ہوں گے۔ اس کے علاوہ خنزیر ایک ملعون جانور ہے۔ بعض قوموں کو سزا کے طور پر ان کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حدیث میں چوہوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ بعض قوموں کو چوہوں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اگرچہ مسخ شدہ شکل والی قوم کو زندہ نہیں رکھا گیا، تاہم مغضوب علیہ قوم اور جن جانوروں کی شکلوں میں وہ تبدیل ہوئی، لعنت سے خالی نہیں۔ اس لحاظ سے خنزیر ایک ملعون جانور ہے اور اُسے کھانے والا لعنت میں اس کا حصہ دار بنے گا۔

غیر اللہ کے نام پر دی گئی نیاز میں بھی معنوی طور پر نجاست پیدا ہو جاتی ہے اور جیسا کہ آپ کل سن چکے ہیں، یہ نجاست خنزیر اور مردار سے بھی زیادہ ہوتی ہے، لہذا ایسی چیزوں کے استعمال سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے مجبوری کی حالت میں جان بچانے کی خاطر ان چیزوں کے استعمال کو مباح قرار دیا ہے بشرطیکہ واقعی حالت مجبوری ہو اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ ہو۔

بعض چیزیں دائمی طور پر حرام نہیں ہوتیں بلکہ انہیں خاص وجہ سے بعض اقسام پر وقتی طور پر حرام کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی حرمت کا ذکر کیا ہے۔ یہ تذکرہ بعض دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو

کے لیے
دیوبند
قیامت

یہودی ہوئے۔ یعنی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اہمتی اور ان کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ ابتدائی دور میں صحیح ایمان رکھنے والے تھے مگر بعد میں یہودی اور عیسائی دونوں گروہ اپنے اپنے مشن سے ہٹ گئے انہوں نے اللہ کی کتابوں میں جا بجا تحریف کی اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے احکام کو تبدیل کیا اور انہوں نے دین کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ پھر یہودی مغضوب ہوئے اور عیسائی گمراہ ٹھہرے۔

بہر حال فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے ان پر حَمَانَا كُلُّ ذِي ظْفَرٍ ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دے دیا۔ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کے پاؤں پنچے کی شکل میں ہوں اور درمیان سے پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ ان میں اونٹ شتر مرغ، بلیغ اور مرغابی وغیرہ شامل ہیں۔ اگرچہ یہ جانور بنیادی طور پر حلال ہیں مگر جیسا کہ آگے آرہا ہے اللہ نے یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ جانور وحشی طور پر حرام قرار دے دیا۔ اور اس طرح سزا کے طور پر یہودیوں کو ایک نعمت سے محروم کر دیا۔

چربی کی
مانعت

فرمایا ناخن والے جانوروں کے علاوہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ گائے بیل اور بھینس بکریوں میں سے حَمَانَا عَلَيْهِمْ شِمُوهُمَا ہم نے ان پر ان جانوروں کی چربی حرام کر دی۔ یعنی یہودی لوگ گائے اور بھینس بکریوں کا گوشت تو استعمال کر سکتے تھے مگر چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔

اَلَّذِي مَآحَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ مَا سَوَّاهُ اس چربی کے جو ان جانوروں کی پشتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو اَوِ الْحَوَايَا یا جو آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو اَوِ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ اللہ نے اس تین قسم کی چربی کے علاوہ باقی ساری چربی یہودیوں کے لیے ممنوع قرار دے دی۔ وہ نہ اسے کھا سکتے تھے اور نہ کسی دیگر کام میں استعمال کر سکتے تھے۔ یہودیوں کے لیے یہ بڑا سخت حکم تھا، ایک حلال جانور کا گوشت

تو کھا سکتے تھے مگر چربی نہیں کھا سکتے تھے جسے گوشت سے علیحدہ کرنے کے لیے انہیں بڑی مشقت اٹھانا پڑتی تھی۔ کیونکہ وہ حرام تھی۔

اس قسم کے سخت اور دشوار حکم کی مثال سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے جب ایک شخص قتل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کمرے کے اس کا ایک ٹکڑا اس مردہ پر مارو تو وہ زندہ ہو کر تمہیں قاتل کا پتہ دے دے گا۔ یہودیوں نے حکم کی تعمیل کی بجائے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس کا رنگ کیسا ہو۔ عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت پابندیاں عائد کیں کہ انہیں بڑی مہنگی گائے حاصل کمرے کے ذبح کرنا پڑی اور تب جا کر ان پر حقیقتِ حال منکشف ہوئی۔ یہ ان کی حکم عدولی، نافرمانی اور شرارت کی وجہ سے تھا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جانور اور بعض کی چربی ان پر انہی اپنی کارستانیوں کی بنا پر حرام فرمائی۔

فرمایا ذَلِكْ جَزَيْنَهُمْ بِبِقِيهِمْ يَهُودِيُوں كُو يِه مَن رَاهِم نِي
 ان کی بغاوت کی وجہ سے دی۔ ان سے بعض حلال جانوروں کی حلت موقوف
 کر دی تاکہ انہیں تکلیف ہو اور اگر وہ اس سزا میں پورا نہ آتے ہیں اور حرام کردہ اشیاء
 کو بھی استعمال کریں تو ان پر مزید وبال لایا جاسکے۔ انسانوں پر ظلم و زیادتی،
 انسانی حقوق کی تعلق، شرارت اور خدا تعالیٰ کے سامنے عدمِ اخبات کی وجہ سے
 ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس قسم کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں
 آتا ہے، حَضْرَةَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نِي فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ كَيْ حُرْمٍ مِّنَ
 الْمَرْزُقِ بِالذَّنْبِ الْاِنْسَانُوں كُو يِه گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا
 جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے
 خود اس پر، جانوروں اور کھیتوں پر بڑے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔
 اسی لیے جب کوئی شہری آدمی مر جاتا ہے تو اس علاقے کے جانور اور درخت
 خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ اس موزی سے جان چھوٹی۔ وہ جانتے ہیں کہ

سزا بوجہ
 بغاوت

اس بدکار آدمی کی وجہ سے وہ بھی پریشانی میں مبتلا تھے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، کبھی فوری گرفت کر لیتا ہے اور کبھی مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے "أَمْ لِي لَهْمٌ" میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں "إِنْ كَيْدِي مَتَّيْنٌ" تیسری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بعض آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بالکل سزا نہیں دیتا۔ اس میں بھی اس کی خاص مصلحت ہوتی ہے جو نہی ان موت کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ بعض کو انہی کو تاہیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی سزا سے دیتا ہے، یہ سب اس کی حکمت پر موقوف ہے۔

حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ انسان بڑا مجرم ہے، جس نے کرم کی اور سوال کیا تو اس کے سوال کی وجہ سے ایک حلال چیز مسلمانوں پر حرام ہو گئی۔ اگر وہ سوال نہ کرتا تو حرمت نہ آتی، اس نے خواہ مخواہ مخلوق خدا کو ایک نعمت سے محروم کر دیا۔ قرآن میں اکثر مقامات پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں اور نافرمانوں کو چھوڑتا نہیں۔ دنیا پر جو پریشانیاں، تکالیف، حوادث، بیماریاں اور نوازات آتے ہیں، یہ اکثر انسانوں کے ہاتھ کی کھائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا "مَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" ان تکالیف میں تمہارے ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے جسکی وجہ سے گرفت آتی ہے۔ "وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ" اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے۔ فوری طور پر پکڑ نہیں ہوتی مگر آگے میدان حشر میں ذرے ذرے کا حساب ہو گا اور اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہو گا۔ بہر حال فرمایا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بعض پابندیاں عائد کر دیں "وَلَنَا لَصَدِ قُونٌ" اور ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔ ہمارا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے چند لوگ بغاوت کے مرتکب ہوئے تو ساری قوم ایک حلال چیز سے محروم ہو گئی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرارت ایک آدمی یا

گمراہ کہہ تا ہے مگر ساری قوم محکوم ہو جاتی ہے۔ ایک محدود طبقے کی شرارت کی وجہ سے ۱۹۷۱ء میں پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا اور مسلمانوں کی اکثریت تباہ ہو کر رہ گئی۔ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک تھے، اب ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کی مدد کو نہیں آسکتا۔ بڑی طاقتوں کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے مسلمان ممالک کو وہ خاص طور پر تقسیم در تقسیم کے اصول کے تحت کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی سیادت قائم ہے۔ اس وقت دنیا میں چچاں مسلمان ممالک ہیں مگر سب جدا جدا ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اگر کہیں ملتے بھی ہیں تو منافقت کے ساتھ۔ سپر پاورز ہرگز نہیں چاہتیں کہ مسلمان اکٹھے ہو کر ان کے لیے خطرہ بن جائیں۔ ان کے سامنے ایسی تجاویز پیش کرتے ہیں جسکی وجہ سے یہ قانون کی پابندی نہ کر سکیں اور ہمیشہ دستِ نگر رہیں۔ تعلیم کا میدان ہو یا ثقافت کا، کھیل تماشہ ہو یا تہذیب و تمدن کی بات، ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان نہ تو اکٹھے ہو سکیں اور نہ اپنے دین پر عمل کر سکیں ان کا اسی میں فائدہ ہے۔ اور مسلمان اسی طرح ان کے سوالی اور علام بن کر رہ سکتے ہیں۔ چند آدمیوں یا خاندانوں کی خوشحالی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب کہ پوری قوم ذلیل و رسوا ہو رہی ہو۔ آج مسلمان بحیثیت قوم اختیار کے نزدیک ایک گمراہی ہوئی قوم ہیں۔ خدا کے باغیوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے احکام کے ساتھ بغاوت کا نتیجہ ہے جس کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑ رہا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے سو سال تک منظم حکومت کی۔ جب انگریزوں کا رخ اس طرف ہوا تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چار بڑے مسلمان حکمرانوں کو خطوط لکھ کر آنے والے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔ آپ نے بڑے دکھ کے ساتھ لکھا تھا کہ خدا را آپس میں مت لڑو بلکہ

یہی تعلیم دی "اِنَّهُ مَنْ كُفِّرْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجِدَ السَّارُّ" (المائدہ) جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانا دوزخ میں ہو گا۔ ذات و صفات میں شرک تو شرکِ جلی کہلاتا ہے اور ریاکاری شرکِ خفی ہے۔ اگرچہ یہ شرک کفر کی حد تک تو نہیں پہنچتا مگر ریاکاری سے انسان کے اعمال ضرور ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔

والدین سے
بدسلوکی

اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کے متعلق فرمایا "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اللہ نے بدسلوکی کو حرام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد رب سے اہم چیز والدین کے حقوق ہیں جن کی قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا" تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کسی انسان کے قریب ترین محسن ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی بے لوث پرورش کرتے ہیں، لہذا ان پر احسان کرنا لازم اور حقوق یعنی ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ماں باپ کو نہ زبان سے تکلیف پہنچانی چاہیے اور نہ کسی عمل سے، یہ قطعی حرام ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص بد بخت اور شقی ہے جس نے والدین میں سے ایک یا دونوں کو پایا مگر ان کی خدمت کر کے جنت کا ٹکٹ حاصل نہ کیا۔ فرمایا والدین جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا اور افضل دروازہ ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر کے یہ دروازہ اپنے لیے کھول لو یا ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے اپنے لیے بند کر لو۔ بہر حال فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا ضروری ہے اور ان کو تکلیف دینا حرام ہے

محدثین اور فقہانے کرام فرماتے کہ ماں اور باپ دونوں حسن سلوک کے مستحق ہیں، البتہ ادب باپ کا زیادہ ہے اور خدمت ماں کی کیونکہ ماں باپ کی نسبت کمتر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں، تب بھی ان کا احترام واجب ہے۔ البتہ اللہ کا حق ان پر مقدم ہے۔ اگر والدین شرک پر آمادہ کریں یا خلافت شرع کسی بات کا حکم دیں تو ان کی اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، بایں ہمہ انسان کے لیے حکم یہ ہے "وَصَاحِبُهُمَا فِي اللَّهِ نِيًّا مَعْرُوفًا" یعنی دنیا میں ان کے ساتھ بہر حال حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت مولانا عبد اللہ سندھیؒ کا خاندان سکھ مذہب رکھتا تھا، آپ کے والد نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، آپ کی والدہ آخر دم تک سکھ مذہب پر قائم رہی مگر آپ نے اس کی خدمت میں کبھی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرتی بھری مجلس میں جوتے تک مارتی مگر آپ نے کبھی اُفت تک نہ کی ہندو مت میں برہمن کو بیل کی خیرات (دان) کو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کی ماں نے فرمائش کی کہ دان لینے کے لیے اسے بیل مہیا کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے بیل خرید کر دیا اور ماں خوش ہو گئی۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے "وَإِخْفُضْ لَهُمْ مَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا" اگر والدین مومن ہیں تو ان کے ادب و احترام کے علاوہ ان کے لیے دعا کو بھی اپنا وظیفہ بنا لو کہ اے مولا کہم عیم ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ والدین کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں اور ایسا ثواب کریں۔ بہر حال ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے

تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ

اِمْلَاقٍ اور میت قتل کر کے اپنی اولادوں کو ناداری کی وجہ سے دوسرے
مقام پر آتا ہے "لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ"
یعنی مفلسی کے آئندہ خطر سے پیش نظر اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا
مقصود یہ ہے کہ اگر تم فی الوقت مفلس و نادار ہو، تو محض اس لیے اولاد
کو قتل نہ کرو کہ تمہارے پاس اُسے کھلانے پلانے کے لیے کچھ نہیں۔ یا اگر
اس وقت تو تنگ دستی نہیں مگر خدشہ ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو ان کی ضرورت
زندگی مہیا کرنا دشوار ہو جائیگا، فرمایا اس پیشگی خطرے کی وجہ سے بھی اپنی اولاد
کی جان کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کو حرام قرار دیا ہے۔

تاریخ عالم سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ادوار میں قتل اولاد کی تین مختلف
صورتیں دنیا میں رائج رہی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ مفلسی کے ڈر سے
اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ ان کے پاس اولاد کی پرورش کا سامان نہیں ہوتا
تھا۔ قتل کی دوسری شکل دُختر گسٹی کا رواج تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ لڑکی کی
پیدائش کو منحوس تصور کرتے تھے لہذا لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دھڑکھڑ
کہہ دیا جاتا تھا۔ اور اس کی تیسری شکل یہ تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو بتوں یا دیوی دیوتاؤں
کی بھینٹ چڑھاتے تھے اور ان کے نام پر قتل کر دیتے تھے۔ بڑے بڑے ہندوستان
میں لوگ بچوں کو کالی دیوی کی بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ اسے بلیدان کا نام بھی دیا
گیا ہے۔ بہر حال قتل انسانی کے یہ تینوں طریقے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں۔

فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو کیونکہ حقیقت یہ ہے غن
نَزَّفَتْكُمْ وَايَاهُمْ کہ تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں اور جن کو تم قتل کرتے
ہو ان کے رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ روزی کے تمام اسباب ہمارے قبضہ قدرت
میں ہیں اور ہم ہی انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ نے دو گے مقام پر فرمایا اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِّينِ (الذاریات) رزق اور صاحب قوت
تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں بھی آتا ہے

کہ روزی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی سے طلب کرو کہ وہ تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دے۔ یہ تیسرا محرم ہے کہ اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔

چوتھی حرام چیز کے متعلق فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ بے حیائی کی بات کے قریب بھی نہ جاؤ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ ہر دو قسم کی فحاشی کے قریب تک نہ جاؤ چہ جائیکہ اس کا ارتکاب کرو۔ بے حیائی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ بعض چیزیں ذہنی اور عقلی طور پر انسان میں بُرے اخلاق پیدا کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں چوری کو بے حیائی سے تعبیر کیا گیا ہے جب کہ قرآن پاک میں نخل کو بے حیائی کہا گیا ہے۔ زنا اور لواطت بلاشبہ بہت بڑی بے حیائی ہے بعض چیزیں لوگوں کو عریانی کی طرف مائل کرتی ہیں جس سے دین اور اخلاق خراب ہوتا ہے اسی لیے فرمایا کہ بیحیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔

۴۔ بے حیائی کی باتیں

سورۃ نور اور سورۃ احزاب میں موجود ہے کہ عورتوں کی زیب و زینت اور نیم بے ہنگی اور پھر سردوں سے غلط ملط سحت فحاشی کی بات ہے۔ اسی طرح تصویریں، مجسمے اور لغو گلانے بے حیائی پر آمادہ کرتے ہیں اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جدید تہذیب کی ساری رونق بے حیائی پر قائم ہے عورتوں کا ننگے سر اور ننگے بازو سر عام پھرنا۔ اخبارات میں نیم بے ہنگی عورتوں کی تشہیر ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر غیر اخلاقی گانے اور مناظر انسانیت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ اخلاق بگڑ رہا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے قلم انداز طی کو ترقی دینے کے منصوبے بنتے ہیں۔ کھیل تماشے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کھیل کی میس اور ناچ گلانے والے ٹائفے بیرونی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں جس پر کمر و روپے کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جاتی ہے اسلام تو ایسی چیزیں کو

مٹانے کے لیے آیا تھا مگر ہماری حکومتیں اپنی چیزوں کی سرپرستی کر رہی ہیں۔
 دین تو کہتا ہے الحیاء من الایمان حیادری ایمان کا جزو ہے
 نیز لا ایمان لمن لا حیاء جس میں حیاء نہیں اس میں ایمان نہیں،
 مگر آج حیادری کا جوازہ نکل رہا ہے اور بے حیائی بلا روک ٹوک معاشرے
 میں ناسور کی طرح پھیل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بیحیائی کے قریب بھی نہ
 جاؤ۔ یہ قطعی حرام ہے۔

۵۔ قتل ناحق

پانچویں حرام چیز قتل ناحق ہے۔ ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
 الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس
 کو ناحق قتل مت کرو (قتال و جہاد کے علاوہ) قتل حق کی تین صورتیں معلوم ہیں۔
 ان کے علاوہ باقی تمام قتل ناحق کی فہرست میں آتے ہیں پہلا قتل حق ہے النفس
 بالنفس یعنی جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کیا
 ہے تو قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کرنا حق ہے اور اس کی اجازت ہے
 دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آزاد مسلمان زنا کا ارتکاب کرے تو
 اسے سنگسار کر کے قتل کرنا بھی بہ حق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی عامل
 مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر دہریہ بن جائے یا کوئی دوسرا دین اختیار کرے
 تو ایسا مرتد شخص بھی واجب القتل ہے۔ فرمایا ان تین صورتوں کے علاوہ کسی
 شخص کا قتل قتل ناحق ہے اور حرام ہے۔ جب باغیوں نے حضرت عثمانؓ
 کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے چھت پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، لوگو! تم مجھے قتل
 کیوں کرنا چاہتے ہو حالانکہ میں نے آج تک کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، زنا کا ارتکاب
 تو مجھ سے اسلامی دور سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں بھی نہیں ہوا اور جب
 سے میں نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی ہے، میں مرتد نہیں
 ہوا۔ پھر تم کس جرم میں میرے قتل کے درپے ہو۔ مگر باغیوں نے آپ کی
 کوئی بات نہ سنی اور فتنے کی ایسی بنیاد ڈال دی جو قیامت تک چلتی رہے گی۔

قتل کی وبا دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں عام ہے قدیم تہذیب والے ہوں یا جدید
 والے، قتل روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت میں آتا ہے
 کہ پوری دنیا کا تباہ ہو جانا اتنا اہم نہیں جتنا ایک مسلمان کا قتل ہو جانا۔ مگر یہاں تو
 معمولی معمولی وجوہات کی بنا پر ہر روز قتل ہوتے ہیں۔ ذاتی رنجشوں کے علاوہ سیاسی
 قتل بھی عام ہونے لگے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ میں امن و امان ناپید ہو
 چکا ہے۔ انسانی جانوں کی حفاظت کا واحد ذریعہ قانونِ قصاص اور دیت ہے
 مگر اس کو پسند نہیں کیا جاتا تو پھر دنیا میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔

فرمایا یہ پانچ باتیں ایسی ہیں ذَلِكُمْ وَصَّكُمُ بِهِ جن کے
 متعلق اللہ نے تمہیں تاکید کی حکم دیا ہے کہ ان سے بچو۔ یہ حقیقی محرمات ہیں۔
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اگر مان جاؤ گے تو دنیا اور آخرت
 میں امن نصیب ہوگا، ورنہ یہاں بھی بے سکونی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
 أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْفِتُمْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
 وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ
 وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
 وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۳﴾

تذکرہ :- اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس
 طریقے سے جو بہتر ہے یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنی قوت
 تک - اور پورا کرو ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ - ہم
 نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق
 اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو اگرچہ قرابتدار ہی کیوں
 نہ ہوں - اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ
 نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ﴿۱۵۲﴾ اور بیشک
 یہ (قرآن کریم کا بیان کردہ راستہ) میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کا اتباع کرو
 اور نہ پیروی کرو مختلف راستوں کی، پس وہ تم کو جدا کر دینگے
 اس کے راستے سے - اس بات کا اللہ نے تمہیں تاکید حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ ﴿۱۵۳﴾

پہلے اللہ نے مشرکین کے خود ساختہ محرمات کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے بعض حلال جانوروں کا ذکر کیا ہے اور ان چار بنیادی محرمات کا ذکر کیا جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض دیگر حرام چیزوں کا ذکر کیا جیسے اشراک باللہ، والدین سے بدسلوکی، بیچاری اور قتل اولاد اور قتل ناحق اب نزیہ درس آیات میں بعض دیگر چیزوں کی حرمت کا بیان آرہا ہے۔ ان میں سے پانچ محرمات کا ذکر گذشتہ درس میں آچکا ہے اور باقی پانچ چیزوں کا ذکر آج کی دو آیات میں آرہا ہے۔ ان ممنوعہ امور کا ارتکاب وبال اور گناہ کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ نے محرمات کے سلسلہ میں چھٹی چیز یہ فرمائی ہے وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ مگر اس طریقہ سے جو بہتر ہو۔ یتیم اور کمزور طبقات کے حقوق کے متعلق اللہ نے بڑے تاکید کی حکم صادر فرمائے ہیں جب کوئی چھوٹا بچہ باپ کے سہارے سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی جائداد کے انتظام و انصرام کے لیے عام طور پر اس کے اقرباء میں سے اس کا کوئی متولی بنتا ہے جو بچے کے سن بلوغت تک پہنچنے تک مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مگر تجربہ یہی ہے کہ زیر حفاظت مال کو خود متولیوں نے ہی کھانے کی کوشش کی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں مختلف مقامات پر ضروری احکام نازل فرمائے ہیں چنانچہ سورۃ نساء کی ابتداء میں بھی یہی مسائل بیان ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ کہ ان کے مالوں کو مرمت کھاؤ۔ آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوها أَسْوَافًا وَّيَدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا یتیموں کے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ اس نیرت سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے تصرف ختم ہو جائے گا اور ان کا مال ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ سورۃ بقرہ میں بھی یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم

۱۔ یتیم کا
مال کھانا

دیا گیا ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یتیموں کے متولی کھانے میں یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے کیونکہ ان کا علیحدہ کھانا تیار کرنے میں خرچہ زیادہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق بڑے سخت احکام نازل فرمائے تو صحابہ کرامؓ نے ان کا کھانا پینا بھی علیحدہ کر دیا، اس خوف سے کہ کہیں ان کا کوئی لقمہ ہماری طرف نہ آجائے۔ مگر اس طرح یتیموں کا مال زیادہ خرچ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی اور فرمایا "وَ اَنْ تَخَاطَبُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ" یعنی اگر تم انہیں کھانے وغیرہ میں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دیدی۔ اور فرمایا "وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدِيْنَ الْمَصْلِحِ" اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون مصلح ہے۔ تم نیک نیتی سے یتیموں کے مال کی حفاظت کرو اور اُسے ناجائز طریقے سے مضمم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے اور وہ تمہارے ساتھ تمہاری نیت کے مطابق ہی سلوک کرے گا۔

بہر حال یتیم کا سرپرست نج یا قاضی ہو یا اقربا میں سے داؤ یا کوئی دوسرا رشتہ دار، سب کے لیے حکم ہی ہے کہ یتیم کے مال کا انتظام اس طریقے سے کریں جو بہتر ہو۔ اور جس میں مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافے کی صورت بھی ہو۔ مثال کے طور پر اگر یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر تجارت وغیرہ کرنے میں بہتر نتائج کی توقع ہو تو پھر نیک نیتی کے ساتھ ایسا کر لینا جائز ہے اس آیت کہ میرے میں اصل حکم یہ ہے کہ بری نیت سے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰی ظٰلِمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا" (النساء) جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ لہذا یتیم کے مال کے قریب تک

نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔

سن بلوغت

فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بہتر طریقے سے اور وہ بھی اس وقت تک حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ کہ وہ یتیم اپنی قوت یعنی جوانی تک پہنچ جائے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ لفظ أَشُدَّهُ مفرد ہے یا جمع۔ بعض فرماتے ہیں کہ أَشُدُّ شَرَّتِ کی جمع ہے اور بعض دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ أَشُدُّ شُدُّ کی جمع ہے اور مطلب دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ اس کی قوتیں مکمل ہونے تک یتیم کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے بعد اسے یتیم کو لوٹا دو۔ قوتوں کے اجتماع سے فقہائے کرام یہ بھی مراد دیتے ہیں کہ یتیم کا محض بالغ ہونا کافی نہیں بلکہ اسے سوچ بوجھ کا حامل ہونا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بعض فقہاء اس کے لیے اٹھارہ سے تیس سال تک کی عمر کا تعین کرتے ہیں کہ اس دوران یتیم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خود تصرف میں لاسکے، لہذا اسے اس کا مال واپس کر دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم احمق نہ ہو تو پچیس سال کی عمر کو پہنچنے پر اس کا مال اسے واپس کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ اپنے نفع نقصان کو نہیں پہچانتا تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہوگی، نہ کہ اس کے سرپرست پر۔ بعض فقہائے کرام اس سے صرف بلوغت مراد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب یتیم اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال نہیں روکنا چاہیے بلکہ فوراً واپس کر دینا چاہیے اور بعض کے نزدیک ۳۳ سال کی عمر تک بھی مال کو روک رکھنے کا عندیہ ملتا ہے بہر حال چھٹا حکم یہ ہے کہ سن بلوغت کے پہنچنے تک یتیم کے مال کی احسن طریقے سے نگہ رانی کرو۔ اور اسے نقصان پہنچانے کی غرض سے اس کے قریب بھی نہ جاؤ

اللہ نے ساتواں حکم یہ دیا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ مِآپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو یعنی اللہ نے ماپ تول

۷۔ ماپ تول
میں کٹھی

میں کھنی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ماپ تول میں کھنی کے جرم میں سابقہ بعض قومیں بھی ملوث رہی ہیں چنانچہ ایچہ اور مدین والوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے ایسے لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں یعنی جب خود کوئی جنس دوسرے سے خریدتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں اور جب وہی چیز آگے فروخت کرنا ہوتی ہے تو ماپ تول میں کھنی کرتے ہیں سورۃ مطفقین میں موجود ہے کہ ماپ تول میں کھنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں "يَسْتَوْفُونَ" تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ماپ کر یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں "يُخْسِرُونَ" تو کھنی کرتے ہیں۔ ایسا کرنا سخت گناہ اور حرام ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے تاجروں سے خطاب فرمایا لِيَمْعَشِيَ الْجَارِ النَّاسَ وَ لِيَتَمَّ امْرِيْنَ فَهَلَكَتْ فِيْهِ اُمَّمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ يَعْنِي اے تاجروں کے گروہ! تم دو چیزوں (ماپ اور تول) کے والی بنائے گئے ہو یہ تمہارا دور ہے مگر یاد رکھو! ماپ تول میں خرابی کی وجہ سے پہلی کسی امتیں تباہ ہو گئیں، لہذا تم اس معاملہ میں خرابی نہ کرنا کہ ماپ تول میں کھنی کرنا قطعاً حرام ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی چیز تول کر دو وزن وار حیح تول میں بڑھا کر دو۔ اسی طرح پیمائش میں بھی کھنی کی بجائے کچھ زیادہ ہی مے دیا کرو۔ تاکہ تمہاری طرف کسی کا حق نہ رہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات بھی فرمادی کہ انسان کو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اگر انسان کی نیک نیتی اور پوری کوشش کے باوجود کوئی کھنی پیشی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کریں گے۔ بعض اوقات ایک چیز پوری پوری تول کر دی جاتی ہے۔ مگر وہی چیز جب دوبارہ تولی جاتی ہے تو اس میں کھنی واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسی باتیں غیر اختیاری ہوتی

ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اس کا ارشاد ہے "لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت
 سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے لہذا انسان کو اس معاملے میں خلوص نیت
 کے ساتھ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے اس کے باوجود اگر کوئی غامی رہ
 جائے تو عند اللہ ماخوذ نہیں ہوگا۔ تو ساتویں حکم میں اللہ تعالیٰ نے ماپ تول
 میں کھمی کو حرام قرار دیا ہے۔

ادائیگی فرض
 میں کوتاہی

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں
 کہ ماپ تول میں کھمی پر وعید کا اطلاق ہر شخص کے اپنے فرائض منصبی پر بھی ہوتا ہے
 جس طرح ماپ تول میں کھمی کہنا حرام ہے اسی طرح کسی شخص کی طرف سے ادائیگی فرض
 میں کوتاہی بھی حرام ہے۔ اگر کوئی مزدور مقررہ وقت تک کام نہیں کرتا، کوئی
 ملازم پورا دن اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھتا، کوئی افسر بیج یا سپاہی اپنی ڈیوٹی کا پابند
 نہیں ہے تو وہ بھی اسی حکم کے تحت آتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی ڈیوٹی
 کی طرف ہمہ وقت توجہ نہیں دی اور اس میں کھمی کا مرتکب ہوا ہے، تو وہ
 بھی یہاں پر موجود وعید کا نشانہ بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ برائی اتنی عام
 ہو چکی ہے کہ اسے برائی تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ دفتروں اور کارخانوں کا حال دیکھ
 لیں۔ کہیں بھی آپ کو پوری حاضری نہیں ملے گی بلکہ اکثریت اس جرم میں
 ملوث ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی حال خال خال بندہ ہی ایسا ہوتا ہوگا جو اپنی ڈیوٹی
 پر پورا اترتا ہو۔ ورنہ معاملہ بہت ہی خراب ہے۔ موطا امام مالک میں روایت
 موجود ہے لَنْ يَكُلَّ شَيْءٌ وَفَاءً وَتَطِيفٌ یعنی ہر چیز میں وفا
 (پورا ہونا) اور کھمی ہوتی ہے۔ جو شخص نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، نماز کے
 ارکان میں تعدیل کا خیال نہیں رکھتا وہ نماز میں کھمی کرنے کا مرتکب ہوتا ہے
 اور یہی حرام ہے۔ غرضیکہ جس طرح ماپ تول میں پورا پورا لینا دینا ضروری ہے
 اسی طرح اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی بھی لازمی ہے، ان میں کسی قسم کی تقریط

نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کہنا عہد اللہ حرام شمار ہوگا۔

۸۔ نا انصافی
کی ممانعت

آگے فرمایا فَلَا ذَا قَلْبٍ فَاَعْدِلُوا جب بات کرو تو انصاف
کے ساتھ کرو وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبٰى اگرچہ تمہارا قریب دار ہی کیوں نہ ہو یہاں
پر قول سے مراد فیصلہ بھی ہو سکتا ہے اور شہادت بھی، اور مطلب یہ ہے
کہ اگر تم کسی معاملے میں حکم مقرر کیے گئے ہو تو تمہارا فیصلہ حق و انصاف پر مبنی
ہونا چاہیے اور نا انصافی کی بات نہیں ہونی چاہیے خواہ فریق مقدمہ تمہارا رشتہ دار
ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں جس چیز کو حرام کیا گیا ہے وہ نا انصافی ہے کوئی عام بات
ہو یا فیصلہ ہو، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگر کسی معاملہ میں آپنی
شہادت درکار ہو تو پھر بھی واقعات کے مطابق یا اپنے علم کی روش سے صحیح
صحیح گواہی دو۔ اسمیں بھی کوتاہی حرام ہے اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو
غلط بیانی، کذب، واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کرنا جس سے کسی کا نقصان
مطلوب ہو یا کسی کو نفع پہنچانا مقصود ہو، اس حکم کے تحت حرام ہے اللہ
کا حکم ہے وَاقْتِمْوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ہمیشہ حق کی گواہی دو اور بات
کو تو انصاف سے کرو۔ اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔

۹۔ عہد الہی کی
خلاف ورزی

نواں حکم یہ ہے وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو
اس عہد سے مراد عہد الست بھی ہو سکتا ہے، وہی عہد جو اللہ تعالیٰ نے انسان
کی پیدائش سے پہلے تمام انسانی رگوں کو جمع کر کے لیا تھا اَلَسْتَبِیِّنْكُمْ
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے بیک زبان اقرار کیا تھا قَالُوا بَلٰی
مولا کہہ ہم! کیوں نہیں۔ بیشک تو ہی ہمارا پروردگار ہے اس عہد کی یاد دہانی
اللہ کے نبی اور اس کی کتابیں کرتی رہی ہیں اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہو۔ مفسر قرآن امام ابو جبر حباص فرماتے
ہیں کہ اس حکم میں تمام اوامر و نواہی آتے ہیں اور تمام فرائض و واجبات کو
پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بندہ از خود بھی بعض چیزوں کو

اپنے اوپر لازم قرار سے لیتا ہے۔ مثلاً جب وہ کوئی جائزہ منت یا نذر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے ”يُوفُونَ بِالنَّذْرِ“ (سورۃ دہر) وہ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ بہر حال عہد، عہد السنت ہو یا اوامر و نواہی یا نذر کا، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے۔ یہاں تک نذر حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَمُ وَصَّكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں تاکید حکم دیتا ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت پکڑو۔

۱. مختلف
راستے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو

قرآن پاک بیان کرتا ہے اور جس کے بعض اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں

اور یہی راستہ میری رضا اور خوشنودی کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔

فَاتَّبِعُوهُ لہذا اسی کا اتباع کرو۔ اور دوسراں اصول یہ ہے۔ وَلَا

تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور مختلف راستوں پر مت چلو۔ وجہ یہ ہے کہ

فَفَرَّقَ بَيْنَكُمْ عن سبیلہ کہ یہ مختلف راستے تمہیں اللہ کے

راستے سے جدا کر دیں گے۔ ان راستوں سے گمراہی کے وہ تمام راستے

مراد ہیں جن سے عقیدے اور عمل میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تمام گمراہ فرقے،

رافضی، خارجی، معتزلہ، جبریہ، قدریہ اور منکرین حدیث عقیدے میں خرابی کی

پیداوار ہیں۔ اور عمل میں خرابی سے مراد یہ ہے کہ انسان بدعات پر عمل کرنے

لگے۔ جب صراط مستقیم کی وضاحت خدا تعالیٰ کے کلام اور نبی کے فرمان سے

ہو چکی تو اب اس کے خلاف چلنے والے بدعات پر عمل پیرا ہیں جس

سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ گمراہی عقیدے میں ہو یا عمل میں۔ یہ بہر حال

ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دسویں نمبر پر صراط مستقیم سے آخرت

کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

بنیادی اور
فرعی اختلاف

بعض حضرات فقہائے کرام کے باہمی اختلاف کو سبیل میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ائمہ کرام حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کا اختلاف بھی اس آیت کی زد میں آتا ہے۔ یہ بات درست نہیں بلکہ تمام ائمہ کرام كُلُّهُمْ عَلَيَّ الْهُدَىٰ ہدایت پر ہیں۔ ان کے درمیان اختلاف نہ تو عقیدے کا اختلاف ہے اور نہ عمل کا۔ یہ ایسا اختلاف ہے جسے خود حضور علیہ السلام نے برداشت کیا ہے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے۔ آپ نے بنو قریظہ کے ساتھ جہاد کے لیے جو لشکر روانہ فرمایا تو اُسے ہدایت کی لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے مگر قریظہ میں جا کر۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ چار میل کی مسافت تھی، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں صحابہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض کا خیال تھا کہ وقت ہو گیا ہے راستے میں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا مقصد یہ تھا کہ کوئی شخص پیچھے نہ رہے، فوراً چلے جاؤ۔ اور قریظہ میں جا کر نماز ادا کرو۔ چنانچہ انہوں نے راستے میں ہی نماز پڑھ لی۔ بعض دو گروہ صحابہ نے ظاہر الفاظ پر محمول کرتے ہوئے راستے میں نماز ادا نہ کی بلکہ قریظہ پہنچ کر اس فرض سے سبکدوش ہوئے۔ جب معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے کسی گروہ کا برا نہیں منایا بلکہ فرمایا كُلُّكُمْ عَلَيَّ الْحَقُّ یعنی دونوں گروہ حق پر ہیں جنہوں نے نماز راستے میں پڑھی وہ بھی حق پر ہیں اور جنہوں نے قریظہ پہنچ کر ادا کی ان کا موقف بھی درست ہے۔ بہر حال ائمہ دین کا اختلاف بھی اسی نوعیت کا ہے اور کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظواہر وغیرہ سب حق پر ہیں بعض اُسے بڑھا چڑھا کر فرقہ بندی پر محمول کرتے ہیں جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ سب کا بنیادی عقیدہ صحیح ہے، البتہ بعض اوقات سنت

کی تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے بعض ائمہ ایک چیز کو ضروری قرار دیتے ہیں اور بعض غیر ضروری سمجھتے ہیں بعض کسی عمل کو مستحب خیال کرتے ہیں اور بعض اسے مکروہ سمجھتے ہیں یا یہ فروعی اختلافات ہیں اور کسی کے متعلق بگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جو شخص کفر، شرک یا بدعات میں ملوث ہو گیا وہ بلاشبہ گمراہ ہو گیا۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اور گمراہی کے راستوں سے بچ جاؤ۔ اگر گمراہی کے راستے پر چلو گے تو منزل مقصود کو نہیں پاسکو گے ذَلِكُمْ وَصَّيْنَا بِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ یہ حکم تمہیں تاکید کی طور پر دیا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اس راستے پر چل کہ

ضلالیت سے بچ جاؤ۔ تمہاری خود ساختہ محرمات درست نہیں ہیں بلکہ اصل محرمات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ۔

بے بیان فرمایا ہے ان کی تشریح کر دی گئی ہے اور حلت و حرمت کا اصول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی چیزیں جن کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اور اللہ کا نبی اسی تشریح کرتا ہے۔ اس پر عمل کرو گے تو ناکامی سے بچ جاؤ گے۔

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى
 الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
 لِّعَالَمِهِمْ بِبِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ ۱۵۲ ۝ وَهَذَا كِتَابٌ
 أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ۝ ۱۵۳ ۝ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ
 عَلَيْنَا طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ
 دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ۝ ۱۵۴ ۝ أَوْ تَقُولُوا لَوْ
 أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَكُنَّا
 أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُمْ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۝ فَتَنْ
 أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ
 اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَخِرَ مِنَ الَّذِينَ
 يَصْدِفُونَ ۝ ۱۵۵ ۝

ترجمہ :- (آپ ہماری طرف سے کہہ دیجئے) پھر ہم نے

دی موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب، پورا کرنے کے لیے نعت

کو اُس شخص پر جس نے اچھا کام کیا۔ اور تفصیل ہر چیز کے

لیے اور ہدایت اور رحمت، تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات

کے ساتھ ایمان لائیں (۱۵۲) اور یہ کتاب (قرآن کریم) اس کو ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے، اس کا اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۱۵۵) اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بیشک اتاری گئی ہیں کتابیں دو گروہوں پر ہم سے پہلے اور بیشک تھے ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر (۱۵۶) یا تم یہ کہو کہ اگر اتاری جاتی ہمارے اوپر وہ کتاب تو ہم ہوتے زیادہ ہدایت والے ان لوگوں سے پس تحقیق آگئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیل تمہارے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت۔ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو اور اعراض کرتا ہے ان سے۔ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے سخت عذاب اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے تھے (۱۵۷)

پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرکیہ افعال کا رد فرمایا اور پھر غیر اللہ کی نیازات کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد ان باتوں کا ذکر ہوا جن کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اللہ نے ان کے متعلق سخت تاکید ہی حکم دیا اور اس کو صراط مستقیم قرار دیا۔ نیز غلط راستوں پر چلنے سے منع فرمایا، کیونکہ غلط راستے اللہ کے راستے سے جدا کرنے کا سبب بنتے ہیں اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تورات کا ذکر فرمایا ہے اور نزول قرآن کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے ان دونوں کتابوں کو ہدایت اور رحمت سے تعبیر کیا ہے اور قرآن پاک کا اتباع کہہ سبکی تلقین کی ہے۔ پھر قرآن پاک کے نزول کی دو وجوہات بیان کر کے مشرکین کو ان کی طرف متوجہ کیا ہے، نیز اس کلام پاک سے روگردانی

ربط آیات

کی خدمت بیان کی ہے اور ایسا کرنے والوں کو سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔

بیان میں
تقدیم و تاخیر

ارشاد ہوتا ہے **ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ** پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب عطا کی۔ آیت کی ابتدا میں لفظ **ثُمَّ** کچھ اشکال پیدا کرتا ہے عربی زبان میں یہ لفظ عطف اور تاخیر کے لیے آتا ہے یعنی اس سے پہلے کوئی دوسرا کام انجام دیا جا چکا ہے اور بعد کے کام کے لیے **ثُمَّ** سے ابتداء ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک پہلے نازل ہوا اور پھر اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی؟ مگر ایسا نہیں ہے پہلے تورات عطا کی گئی اور اس کے بعد قرآن نازل ہوا۔ لہذا یہاں پر لفظ **ثُمَّ** سے ترتیب میں تاخیر مراد نہیں بلکہ صرف بیان میں تاخیر مراد ہے۔ کہ پہلے کچھ اور بیان کیا جا چکا ہے اور اس کے بعد تورات کی بات کی جا رہی ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا تعلق گذشتہ سے پیوستہ درس والی آیت **قُلْ تَعَالَوْا** سے ہے۔ وہاں بیان یہ تھا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں اور اب اسی پر عطف کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ امام ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ابتداء میں الفاظ **قُلْ تَعَالَوْا** محذوف ہیں اور پورا مطلب یوں ہے کہ اے پیغمبر! آپ ہماری طرف سے خبر دیتے ہوئے لوگوں سے کہ دیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے پہلے توحید اور شرک اور محرمات کا بیان تھا اور سورۃ کے آخر میں بھی توحید ہی کا بیان اور ملت ابراہیمی کا خلاصہ آ رہا ہے، تو یہاں درمیان میں نبوت اور رسالت کی بات سے تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح توحید اور شرک کا بیان سنا اسی طرح رسالت کی بات بھی سن لو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بات کی جا رہی ہے۔

نبوت اور
کتاب

مشرکین حضور علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب تورات کا ذکر دلیل کے طور پر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کا دعویٰ نبوت و رسالت کوئی انوکھی اور عجیب بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رسول بھیجتا رہا ہے اور ان پر کتابیں بھی نازل ہوئیں ہیں۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نزول قرآن کا کیوں انکار کرتے ہو۔ بہر حال یہاں پر — اللہ تعالیٰ نے نبوت کے انکار کے جواب میں نبوت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور کتاب کے انکار کے جواب میں تورات کی بات کی ہے۔ اسکے علاوہ دوسری بات یہی ہے کہ ششہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ملتِ ابراہیمی کے جو دس اصول بیان فرمائے ہیں، ان پر قرآن حکیم اور تورات دونوں کتابیں متفق ہیں، چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی رسالت کی دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے فرمایا، آپ ہماری طرف سے کہہ دیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عنایت کی۔ قرآن پاک اور تورات دونوں آسمانی کتابیں ہیں، قرآن کریم کی طرح تورات بھی اپنے زمانے کی عظیم کتاب تھی۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا "فَاَتُوا بَكِیْطٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْلٌ لِّمَنْ هُمْ" اگر تمہیں ہماری یہ کتاب منظور نہیں ہے تو پھر کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ راہنمائی کر سکے۔ یاد ہے کہ موجودہ تورات اپنی اصل حالت پر قائم نہیں رہ سکی۔ اس میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو کتاب بائبل کے نام سے موسوم ہے اس کے پہلے پانچ باب تورات ہی کا حصہ ہیں اس کے علاوہ بائبل میں مزید ۳۹ صحیفے شامل کیے گئے ہیں اور آخر میں چاروں انجیلیں ہیں۔ غرضیکہ تورات اپنے زمانے میں جامعیت کے اعتبار سے ایک عظیم کتاب تھی۔ باقی صحائف اثنی جامعیت کے حامل نہیں ہیں بلکہ تورات ایک مکمل قانون کی کتاب تھی جس طرح یہ کتاب اپنے زمانے میں منفرد حیثیت کی حامل تھی اسی طرح موجودہ زمانے میں قرآن حکیم سب سے زیادہ راہنمائی کرنے والی

کتاب ہے، تو فرمایا اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس سے بہتر کوئی کتاب ہے
آؤ۔ ان دونوں کتابوں کا اکٹھا تذکرہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ دونوں کے اوصاف
مشترک ہیں۔

اتمام نعمت
بذریعہ تورات

فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تَمَامًا پورا کرنے کے لیے
اپنی نعمت کو علی اللہی احسن اس شخص پر جس نے بہت اچھا کام کیا۔ اس شخص
سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے تورات کے احکام لوگوں تک پہنچانے
کے لیے بڑی محنت اور کوشش کی اس کے علاوہ اللہی سے مراد ہر وہ شخص بھی
ہو سکتا ہے جس نے تورات پر عمل کیا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص تک تورات پہنچی پھر
اُس نے اُسے تسلیم کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اُس پر تمام نعمت ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اُس پر اپنی نعمت پوری کر دی کہ اُس نے ہدایت کو پایا اتمام نعمت
کے سلسلے میں آگے قرآن پاک کا ذکر بھی آ رہا ہے۔

فرمایا تورات کا نزول ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام نعمت اور دوسرا
وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے مفسرین کہہ فرماتے
ہیں کہ ہر چیز سے مراد لکل ما يحتاج الیہ فی امور الدین ہے
یعنی دین کے معاملہ میں جن چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے وہ سب اس میں آگئی
ہیں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ كُلِّ شَيْءٍ سے ہر جزوی چیز
مراد نہیں بلکہ دین کے قواعد، کلیات، اصول، ضوابط وغیرہ مراد ہیں جو سب
کے سب شامل ہیں۔ دین کے معاملے میں جن چیزوں کو انسان کی عقل و حواس
ادراک کرنے سے قاصر ہے جیسے ثواب، عذاب، جنت، دوزخ، جائز ناجائز
خدا کی مرضیات اور نامرضیات وغیرہ، ایسی چیزوں کو وحی الہی کے ذریعے ہی سمجھا
جاسکتا ہے اور یہ تمام تفصیلات کتاب الہی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا
کہ تورات میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے اس معاملہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی
فرمایا ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات کو بعض لوگ زیادہ

بہتر جانتے ہوں مگر جب میں کوئی بات وحی الہی کے حوالہ سے کہتا ہوں تو وہ غلطی اور شک و شبہ سے پاک ہوتی ہے مقصد یہ ہے کہ کتاب الہی میں جن تفصیلات کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا ادراک وحی الہی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

فرمایا فَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّرَبِّهِمْ اٰیٰتِہٖمْ وَاٰیٰتِہٖمْ اٰیٰتِہٖمْ

تورہ منع
ہدایت و رحمت

ہدایت سے مراد راہنمائی ہے جس کا انسان سب سے زیادہ محتاج ہے۔ اسی لیے ہمیشہ رب العزت سے دعا کی جاتی ہے "اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ" اے اللہ! ہماری سیدھے راستے کی طرف راہنمائی فرما۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو قدم قدم پر راہنمائی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختگی، نیک امور کی انجام دہی، برائی سے پرہیز، آخرت کی فکر اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں انسان ہمیشہ ہدایت کا محتاج ہے اور یہ راہنمائی اُسے کتاب الہی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اسی لیے تورات کو ہدایت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

تورات کو رحمت کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ کسی عمل کے نتیجہ میں آتی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کو اختیار کرتا ہے اور اس کے کھینچنے والے پر صدقِ دل سے اعتقاد رکھتا ہے اور پھر اس میں فیصلے گئے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔

فرمایا نَزَّلَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بِرَحْمَتِهِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھیں۔ جب کتاب الہی کو پڑھیں گے اُن کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوگا تو انہیں یقین آجائے گا کہ ایک دن انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس دنیا کی زندگی کا حساب بھی پیش کرنا ہے۔ جب کسی انسان کا عقیدہ آخرت پر مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے روک کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جب یہ عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اُسے کسی قسم کی برائی کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔

وہ شتر بے ہمار ہو کر جہاں چاہے چلا جاتا ہے۔ اور آخرت کی دائمی زندگی کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے۔ مقصد یہ کہ بُرائی سے بچنے کے لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے

مبارک کتاب
قرآن پاک

تورات کا تعارف کرانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن حکیم کا تذکرہ فرمایا ہے وَهَذَا كِتَابٌ اور یہ کتاب بھی، جسکی یہ بھی ایک سورہ ہے۔ اس کی کل ۱۱۴ سورہیں ہیں اور ہر سورہ ایک صحیفہ ہے۔ أَنْزَلْنَاهُ اس کو بھی ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم کتاب ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے تو یہ چھوٹی ہے مگر جامعیت کے اعتبار سے اس سے عظیم کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں۔ تمام تر اختصار کے باوجود اس کتاب میں علم و عرفان کا وہ خزانہ موجود ہے جس پر انسانیت ابد الابد پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جسے تدریج نازل کیا گیا اور پوری کتاب تیس اربس میں مکمل ہوئی۔ برخلاف اس کے تورات کو یکبارگی عطا کیا گیا۔ اس لیے اس کے متعلق فرمایا اتَيْنَا پھر ہم نے عطا کی لکھی لکھائی پوری کتاب، مگر قرآن حکیم کے متعلق فرمایا أَنْزَلْنَاهُ ہم نے اُسے نازل فرمایا یعنی حضورِ مکتومؑ کے تدریج اپنے آخری نبی پر نازل فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ ہم نے اسے حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ یہ بھی خدا کا کلام اور وحی الہی ہے۔ تورات کی طرح یہ بھی چشمہ ہدایت ہے اور جس رسول پر اس کا نزول ہوا ہے، وہ تمام رسولوں میں خدا کا آخری اور برگزیدہ رسول ہے۔

فرمایا اللہ کی اس آخری کتاب کی ایک صفت مُبْرَكٌ ہے۔ یہ ہر لحاظ سے بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ برکت کا معنی ہوتا ہے مقدس زیادتی۔ ہر زیادتی کو برکت سے تعبیر نہیں کر سکتے بلکہ برکت اس زیادتی کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے خیر و خوبی شامل ہو۔ اہم اہم اہم جو بھلائی فرماتے ہیں کہ برکت ذات الٰہی تعالیٰ

کے ساتھ منحصر ہے۔ اور بרכת کو نازل کرنے والا صرف خدا تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ قرآن پاک ایک بابرکت کتاب ہے۔

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ بابرکت ہے تو حکم ہوا فَاتَّبِعُوهُ اب اس کا اتباع کرو۔ اس میں موجود تمام احکام کو بسر و چشم تسلیم کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس میں مندرج فرائض سے کوئی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ بعض نوافل اور مباحات ہیں، بعض اس سے کم درجے کی مکروہات بھی ہیں۔

یہ تمام کی تمام واجب التعمیل ہیں، البتہ فرائض کو اولیت دو، فرض، واجب اور ارکان پر عمل لازم ہے۔ فقہاء و محدثین نے مثال کے طور پر وضاحت کی ہے کہ نماز میں

فرض، واجب، سنن، مستحب، مباح، نوافل وغیرہ سب آتے ہیں۔ ہر ایک کے درجے کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے اگر فرض ترک ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی ہو جاتی ہے۔ سنت ترک ہو جائے

تو نماز ناقص رہتی ہے اور کوئی مباح یا مستحب چھوٹ جائے تو نماز میں کوئی عوج

واقع نہیں ہوتا۔ بہر حال فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرو وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو اور بُرائی سے بچتے رہو۔ کفر، شرک اور بدعت کے قریب نہ جاؤ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا یہی ذریعہ ہے کہ اس بابرکت کتاب کا اتباع کیا جائے، اس کے احکام کی خلاف ورزی سے

ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن پاک کی پوزیشن واضح ہو گئی اور ان کتابوں میں موجود متفق علیہ چیزوں کا ذکر بھی ہو گیا۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نزول کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں پہلی وجہ یہ ہے اَنْ تَقُولُوا لِمَنْ شَرِكِنَا عَرَبٌ اتم یہ نہ کہہ سکو اِنَّنَا

اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی اور یہ گروہ یہود اور نصاریٰ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بالترتیب

تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ یہ دونوں گروہ اہل کتاب کہلاتے ہیں اور مشرکین ان

سے بخوبی واقف تھے امام ابو بکرؓ جصاصؒ فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کو اہل کتاب میں شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ خالصتاً مشرک تھے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجوسیوں سے فریہ لے لو مگر نہ ان کا ذبیحہ کھاؤ اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو۔ برخلاف اس کے یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔

فرمایا تم پر یہ کتاب اس وجہ سے اتاری ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے دو گمراہوں پر تو کتابیں نازل ہوئیں وَرِآنَا كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفَلِينَ اور ہم ان کے پڑھتے پڑھانے سے بے خبر رہے یعنی ہم تو ان کتابوں کو پڑھ ہی نہیں سکے کیونکہ تورات عبرانی زبان میں تھی جب کہ انجیل سریانی زبان میں اور ہماری زبان عربی ہے لہذا ہم ان سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سابقہ کتب عربوں تک نہ پہنچنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کتب کے حاملین نے انہیں آگے پہنچانے کا فریضہ بھی ادا نہیں کیا، لہذا ہم تک ان کتابوں کے مضامین نہیں پہنچ پائے۔ اور ہم ان کو پہچانتے اور ان پر عمل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم خود عربی زبان میں نازل فرما کر تمہارے مذکورہ عذر کو رفع کر دیا ہے اب تم یہ عذر تلک پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ کے احکام تم تک نہیں پہنچ سکے۔

نزدول قرآن کی دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ يَأْكُلُ كَوْمِ يَهْرٍ اگر تم یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی لکن آہدای منہم یہود و نصاریٰ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ عرب کے لوگ اہل کتاب سے زیادہ ذہین تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر ان کی طرف کوئی آسمانی کتاب آتی تو وہ اہل کتاب کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتے۔ نفسیات اور قوموں کے محققین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عرب کے لکھنے پڑھنے سے عاجز لوگ بلا کی ذہانت کے حامل تھے۔ عموماً

اُن پڑھے ہوئے کے باوجود اُن کی قوت حافظہ بہت تیز تھی۔ ان میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء تھے جنہیں اپنے کلام پر عبور حاصل تھا۔ لہذا ان کا یہ دعویٰ معقول تھا کہ اگر اُن کے پاس کتاب آتی تو وہ اس سے بہتر طور پر مستفید ہوتے۔ اُس زمانے میں یہود و نصاریٰ ہی پڑھے لکھے لوگ تھے اور اُن کے مقابلے میں عرب لوگ اُمّی کہلاتے تھے۔ باقی دنیا بھی جہالت کے اندھیروں میں غرق تھی۔ تہذیب نام کی چیز نہ ترکوں میں تھی اور نہ ہندوستان والوں کے پاس۔ یورپی قوموں کی سپماندگی کا حال یہ تھا کہ انہیں لباس پہننا بھی نہیں آتا تھا بلکہ اپنی پشتوں پر چمپڑا باندھا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں بھی عربوں کی ذہانت قابلِ داد تھی اور ان کا یہ دعویٰ معقول تھا کہ اگر اُن کے پاس کتاب آتی تو وہ اس کے بہتر عامل ثابت ہوتے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم نازل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کا مذکورہ اعتراض رفع ہو جائے۔

قرآن منبع
ہدایت و رحمت

فرمایا اے مشرکین عرب! تمہارے ان اعتراضات کی پیش بندی کے طور پر

فَمَدَّ جَاءَكُمْ بَيِّنَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ تَمَّارَةً رَبِّكُمْ کی طرف سے تمہارے پاس اب کھلی دلیل آچکی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً تورات کی طرح یہ کتاب بھی ہدایت اور رحمت کا چشمہ ہے، اس کتاب کو اللہ نے هُدًى لِّلْعَالَمِينَ فرمایا ہے اور اس کی تشریح کرنے والے کو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا لقب دیا ہے یہ اپنے مخاطبین کے لیے منبع ہدایت ہے اور پھر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے چشمہ رحمت بھی ہے جو اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کے تمام جنات میں داخل ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ بیچھڑ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اُن کو فرشتے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، آسمان تک فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔

کلام مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ اس شخص سے بڑا ظالم کون سے جو
 اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے۔ وَصَدَفَتْ عَنْهَا اور قرآن حکیم
 سے اعراض کرتا ہے جو شخص ان خوبیوں کی حامل کتاب سے روگردانی کرتا ہے
 وہ بد بخت ہی ہو سکتا ہے۔ فَرَمَا حَقِيقَتِ واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ
اس سے اعراض کریں گے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ
آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ ہم انہیں سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔
 وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرما کر منکرین کے ہر ممکنہ اعتراف
 کو رفع کر دیا ہے اور اب عذر کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، لہذا اب
جو لوگ اعراض کریں گے وہ سخت سزا کے مستحق ہوں گے بِمَا كَانُوا
يَصْدِفُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری کتاب اور آیات سے روگردانی
 کرتے تھے۔ انہوں نے واضح ہدایت اُجالتے کے باوجود اس کو تسلیم
 کرنے سے انکار کر دیا، اب ان کا بدلہ ہی ہے کہ وہ ہمارے سخت
 ترین عذاب کا مزہ چکھیں۔

الانعام ۶

آیت ۱۵۸

ولواننا ۸

درس پنجاہ ۵۰

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ
يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ إِمْنًا مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي
إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾

ترجمہ :- نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات
کا کہ آجائیں اُن کے پاس فرشتے یا آجائے (اُن کے پاس)
تیرا رب یا آجائیں تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں جس دن
آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں تو نہیں فائدہ دے گا
کسی نفس کو اُس کا ایمان جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ یا
اُس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کھائی تھی۔ اے پیغمبر!
آپ کہہ دیجئے، انتظار کرو، بیشک ہم بھی انتظار کرنے
والے ہیں ﴿۱۵۸﴾

شُرک، مشرکین اور شرکیہ رسوم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھانے
پینے سے متعلق حرام اشیاء کی وضاحت فرمائی، پھر مشرکین کی خود ساختہ محرمات
از قسم نذر بغیر اللہ کی تردید فرمائی۔ پھر ملتِ حنیفی کی ناجائز باتوں کا تفصیل کے
ساتھ ذکر کیا۔ پھر تورات کا بیان آیا اور آخر میں قرآن حکیم کا تذکرہ بطور بابرکت
کتاب کے کیا۔ نیز اس کا اتباع کرنے کا حکم دیا اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے

رابط آیات

سننے کی نصیحت کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تمہارے شامل حال ہو جائے خداوند تعالیٰ نے اس آخری کتاب کو نازل کر نیکی و جہ بھی بیان فرمادی تاکہ مشرک لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم سے پہلے یہود و نصاریٰ کو کتابیں ملیں مگر تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور یہ کہ اگر تمہارے پاس بھی کوئی کتاب آتی تو ہم یہود و نصاریٰ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے کیونکہ ان کی نسبت تمہارے اذہان بہتر ہیں۔ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرما کر مشرکین کے تمام عذر رفع کر دیے اور فرمایا کہ اب جو بھی اس کتاب کو تسلیم کرنے سے اعراض کرے گا، وہ خدا تعالیٰ کے شدید عذاب کا شکار ہو کر رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے تمام ظاہری اور باطنی اسباب مہیا کر دیے۔ جو اس ظاہرہ عطا کرنے کے علاوہ وقتاً فوقتاً اپنے رسول اور کتابیں بھیجیں اور پھر آخری رسول اور آخری کتاب نازل فرما کر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، تو فرمایا اب ہدایت کی قبولیت کے لیے مزید کس چیز کا انتظار کرے ہے۔ سورۃ مسلات میں اسی چیز کو یوں بیان فرمایا ہے۔ "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ" ان تمام ذرائع کے بعد اور اللہ کے رسول اور آخری کتاب کی آمد کے بعد تم کس کتاب، رسول اور شریعت پر ایمان لاؤ گے۔ اب تو نوع انسانی کی ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر باقی کون سی چیز آنے والی ہے جس کا انتظار کرے ہو کہ وہ آئیگی تو ایمان لائیں گے۔

ارشاد ہوتا ہے هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں۔ ان لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دو مقاصد کے لیے آتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کی زندگی پوری کر لیتا ہے تو فرشتے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا یہ لوگ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آئے تو فرشتے ان کے پاس جان کنی کے لیے آئیں۔ پہلے اسی سورۃ میں گزر چکا ہے اور آگے بھی

فرشتوں کا
انتظار

آئے گا کہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین موت کے منتظر ہیں۔

فرشتوں کے نزول کا دوسرا مقصد بعد از مرگ انسان کا محاسبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ محاسبہ اولاً عالم برزخ میں ہوتا ہے جب فرشتے حاضر ہو کر مرنے والے کے ساتھ قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں اور بعض کو سزا اور بعض کو راحت پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک آخری محاسبہ حشر کے دن بھی ہوتا ہے۔ وہاں بھی فرشتے حاضر ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق اپنا اپنا فرض ادا کریں گے۔ قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ فرشتے آئیں گے اور محاسبے کی منزل شروع ہوگی۔ اس حقیقت کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مشرک لوگ آج ایمان نہیں لاتے، ہدایت کے جملہ وسائل سے استفادہ حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ قیامت کے منتظر ہیں کہ قیامت آئے تو فرشتے بھی آئیں۔ کیا فرشتوں کے آنے کا یہ مطلب ہے؟

فرمایا کیا ان کا یہ مقصد ہے أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ بِآيَاتٍ اور دیگر خود آجائے، تب یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو انسانی جسم پر محمول (یا قیاس) نہیں کیا جاسکتا۔ انسان ایک خاص شکل و صورت اور اعضاء رکھتا ہے اور ایک مقام سے حرکت کر کے دوسری جگہ آتا جاتا ہے۔ کیا یہ بیوقوف خدا تعالیٰ میں ایسی ہی صفات تلاش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر ان کے پاس آجائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح حرکت نہیں کرتا۔ اس کا ظہور تو بذریعہ تجلی ہوگا۔ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اس پر تغیر و تبدل طاری نہیں ہوتا۔ البتہ ایک وقت آئے گا۔ جب وہ تجلی فرمائے گا، اس کے بعد احکام نازل ہوں گے اور تمام حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ ایسی باتوں کا ذکر تو کیا جاسکتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے حل کر آنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ فرشتوں کے نزول کا تذکرہ سورۃ فرقان میں بھی ہے:

”وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاوُ بِالْفِجَامِ وَنُزُلِ الْمَلٰٓئِكَةِ تَنْزِيْلًا“

جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائیگا اور پھر فرشتے نازل ہوں گے۔

خدا تعالیٰ
کا انتظار

حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنی حرکت الٹ دو چنانچہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگ یہ عظیم نشانی دیکھ کر گھبرا اٹھیں گے اور سب لوگ ایمان لانے کی کوشش کریں گے۔ حدیث کے الفاظ المناس کلہم اجمعون سائے کے سائے لوگ ایمان لے آئیں گے مگر اس دن کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔

بخاری شریف میں ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع اور دابة الارض کا ظہور قیامت کی دس نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ مسیح علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی انہی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر تین قسم کے بڑے بڑے خسف واقع ہوں گے، یعنی لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عدن کے کنائے سے بڑی لمبی چوڑی آگ نکلے گی، جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے جائیگی۔ یہ آگ دوپہر کے وقت رگ جائیگی اور لوگ آرام کر لیں گے۔ اس کے بعد آگ پھر چل پڑے گی اور لوگ اس کے آگے آگے بھاگ رہے ہوں گے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع اور دجال کا خروج ایک دن کے بعد دیگرے واقع ہوں گے ایک روایت میں یوں ہے کہ مغرب کی جانب توبہ کا ایک دروازہ ہے التوبة معروضہ یہ دروازہ انسان کے لیے ہر وقت کھلا ہے تاکہ وہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا، جب یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت پوری کائنات پر بحیثیت مجموعی جان کنی کی حالت طاری ہوگی بصنور علیہ السلام کا فرمان ہے تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا كَمْ يُفْرَغُ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغره نہ طاری ہو جائے جب جان سینے سے نکلنے لگتی ہے اور فرشتے نظر آجاتے ہیں، غیب

کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو کسی فرد کی توجہ ایسے وقت میں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب پوری کائنات پر بوجہ قیامت ایسی حالت طاری ہو جائیگی تو اس وقت بھی کسی توجہ قابل قبول نہ ہوگی یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں۔

ایمان قبول
نہیں ہوگا

فرمایا جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی لَا يَنْفَعُ نَفْسًا ایسا نہ تھا اس وقت کسی نفس کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا کیونکہ یہ اضطراری حالت کا ایمان ہوگا، جب کہ قابل قبول ایمان وہ ہے جو اپنے ارادے اور مشیت سے از خود اختیار کیا جائے فرمایا ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا لَعَلَّكُمْ تَكُنْ اٰمِنْتُمْ مِنْ قبل جو نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اختیار نہ کیا گیا ہو۔ جب نشانیاں

ظاہر ہو جائیں تو پھر ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ سورۃ یونس میں موجود ہے کہ غرقابی کے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں اس وحدہ لا شریک پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اور اقرار کیا، مگر اللہ نے فرمایا الَّذِينَ وَقَدَّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اب تیرا ایمان قبول نہیں کیونکہ تو اس سے پہلے نافرمان اور مفسد تھا۔ غرضیکہ قیامت کی نشانیوں کے

ظہور کے بعد نہ تو ایمان قبول ہوگا اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اٰيٰمِنَا خُلُوٰ اور نہ ہی کوئی نیچے قبول ہوگی اگر اس نے اس دن سے پہلے کوئی نیچے نہیں کھائی یعنی جو شخص دنیا میں ایمان لانے کے باوجود کوئی نیچے کا کام نہیں کر سکا، نشانہ قیامت ظاہر ہونے پر اس سے کوئی نیچے قبول نہیں کی جائیگی۔

بعض جدید روشنی کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا طبعی امر کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کے شبہات انگریزی تہذیب کا نتیجہ ہیں۔ وہ لوگ قیامت کی کسی نشانی کو تسلیم نہیں کرتے، نہ وہ جانتے نہ مسیح نہ یا جوج ماجوج تو ایسے لوگ سورج کی معکوس حالت پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ مگر ان واقعات کی خبر وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوئی ہے اور قرآن پاک میں تفصیل موجود ہے بعض تفصیلات حضور علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ میں ملتی ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہیں جن پر اہل ایمان

کا تو ہر صورت ایمان ہے، کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے۔ ایمان بالغیب
 اسی بات کا نام ہے کہ صحیح سند سے پہنچنے والی چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے خواہ
 وہ کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ موجودہ نظام ^{شمسی اللہ تعالیٰ}
 ہی کا قائم کردہ ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ بالآخر اس نظام کو برخواست
 کر دیا جائے گا۔ سورج اور ستاروں کی روشنی لپیٹ دی جائیگی۔ پورے نظام
 کو درہم بدرہم کر کے اس کی جگہ نیا نظام لایا جائے گا۔ اور پھر عالم بالاک کے احکام
 ظاہر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر
 ہوں گی اس دن کسی ایسے نفس کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان
 نہیں لایا تھا۔ یا اس دن کوئی نیکی فائدہ نہیں دیگی جس نے اس سے پہلے
 ایمان کی حالت میں نیکی نہیں کھائی۔ یہ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ ہو گیا۔
 فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ
 انتظار کرو اور دیکھو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
 جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کس کا موقف درست تھا۔ یہود و نصاریٰ بھی انتظار
 کرتے رہے کہ مسیح علیہ السلام آنے والے ہیں مگر جب وہ آگئے تو انہوں
 نے انکار کر دیا۔ اور تسلیم کرنے کی بجائے آپ کو دجال کا لقب دیا۔ پھر
 دین میں خرابیاں پیدا کرنے لگے۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور پورے دین کو بگاڑ
 کر رکھ دیا۔ پھر جب نبی آخر الزمان کا زمانہ آیا، تو اہل کتاب آپ کے انتظار میں
 تھے۔ ان کی کتابوں میں بشارت موجود تھی کہ اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے
 عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر بتایا تھا "وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ" یعنی میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے
 والا ہے جس کا نام نامی اور اسم گرامی احمد ہوگا مگر یہ لوگ اپنی ضد اور عناد کی
 وجہ سے نبی آخر الزمان پر بھی ایمان نہ لائے اور کفر و شرک پر ہی قائم رہے۔
 ان کے علاوہ عرب کے لوگ تو ویسے ہی اپنی جہالت کی وجہ سے شرک پر

نتیجے کا
 انتظار

اڑے ہے اور حقیقت کو تسلیم نہ کیا۔

فرمایا ان منکرین سے کہ دیں کہ جب تم کسی دلیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور محض ہٹ دھرمی پر قائم ہو تو پھر نتیجے کا انتظار کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونے والا ہے اور یہ نتیجہ دو طرح سے ظاہر ہوگا۔ پہلی دفعہ تو انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کی موت کا وقت آجاتا ہے مَن مَّاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُكَ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت برپا ہوگئی اس کے ساتھ عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر مجموعی طور پر قیامت کا دن ایسا ہوگا جب نتیجہ سامنے آئے گا، اور ہر شخص کو اپنے ایمان اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا اس وقت کا انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ نتیجہ کس کے حق میں بہتر نکلتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

ترجمہ :- تحقیق وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا ہے اپنے دین کو اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ بیشک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ اللہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ﴿۱۵۹﴾ جو شخص لایا ایک نیکی پس اس کے لیے دس گنا اجر ہے اور جو شخص لاتا ہے برائی، پس نہیں بدلا دیا جاتا مگر اس کے مثل اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا ﴿۱۶۰﴾

ربط آیات

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور ان کی شرکیہ رسوم کا پورے طریقے پر رد کیا اور پھر صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی اور اس کا اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا تذکرہ کرنے کے بعد حضور علیہ السلام اور قرآن پاک کا ذکر کیا اور صراطِ مستقیم پر ایمان نہ لانے والوں کا شکوہ کیا کہ یہ لوگ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں یا قیامت کی نشانیوں کے ظہور کے منتظر ہیں۔ فرمایا کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے پر تو ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ گذشتہ آیات میں زیادہ تر شرک کی تردید تھی اب آج کی آیات میں فرقہ پرستی کی مذمت کی گئی ہے اور اس ضمن میں اہل بدعت کا خاص

طور پر زد ہے۔ اس کے علاوہ نیکی کے کئی گنا اجر و ثواب کا ذکر ہے جب کہ برائی کے بدلے کو برائی کے برابر ہی قرار دیا گیا ہے۔

دین میں
فرقہ بندی

ارشاد ہوتا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی ہے اپنے دین میں یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ نہیں
ہیں آپ ان کے ساتھ کسی معاملہ میں۔ یعنی آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی
تعلق نہیں ہے۔ لہذا آپ ان سے بیزاری کا اعلان فرمائیں۔ اس آیت
میں جس تفریق سے منع فرمایا گیا ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے اس حدیث
میں بیان فرمائی ہے۔ أَلَا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى مُوسَى
يَا حُدَى سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً
الْإِسْلَامَ وَجَمَاعَتَهُمْ ثُمَّ رَأَتْهَا افْتَرَقَتْ عَلَى
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا وَاحِدَةً الْإِسْلَامَ وَجَمَاعَتَهُمْ
ثُمَّ أَنْكُمْ تَكُونُونَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً
كُلُّهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً الْإِسْلَامَ وَجَمَاعَتَهُمْ
یعنی بنی اسرائیل اکثر فرقوں میں بٹ گئے یہ سب کے سب گمراہ ٹھہرے سوائے ایک
فرقہ کے جو اسلام پر تھا اور وہ ایک جماعت تھی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ۲ گروہ
علیحدہ ہوئے، وہ بھی سب کے سب گمراہ تھے سوائے ایک گروہ کے جو اسلام پر
تھا اور وہ ایک جماعت تھی۔ پھر تم تتر ۳، فرقے بن جاؤ گے تمام گمراہ ہونگے
سوائے ایک فرقہ کے جو اسلام پر ہوگا اور اس کی ایک جماعت ہوگی۔ دوسری
حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً
یعنی سب فرقے دوزخی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہؓ نے عرض
کیا وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہوگا، فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ تفریق دین کے سلسلے میں اللہ نے سب کو بیان کر دیا ہے۔ سنی امر اٹل نے تو بلاشبہ دین میں تفریق کی اور الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، مگر اس آخری امت کی فرقہ بندی کا ذکر بھی یہاں اجمالاً کر دیا گیا ہے۔

اختلاف کی
دو قسمیں

اس حدیث میں یہود و نصاریٰ کا تذکرہ ہے تاہم آخری امت کے اہل بدعت اور اہل مہوی بھی اسی صفت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے الگ الگ گروہ بنا لیے ہیں وہ یقیناً حق پر نہیں ہیں۔ اس امر کی تفصیل میں حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اختلافات دو قسم کے ہیں، ایک عقائد میں اور دوسرے مسائل میں۔ دو کے لفظوں میں ہم ان کی تقسیم اصول اور فروع میں بھی کر سکتے ہیں۔ اہل بدعت عقائد میں اختلاف کرتے ہیں تاہم انہیں ایمان سے بالکل خارج نہیں کیا جاسکتا۔ ایمان کے باوجود ان میں عقائد کی خرابی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے اعمال میں بھی خرابی ہے۔ یہ لوگ عقائد اور اعمال دونوں چیزوں میں خرابی کی بنا پر دوزخ میں جائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وہ ابدی جہنمی ہیں اور جو اعمال میں کو تاہی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ انہیں سزا بھگتنے کے بعد نکال لیا جائے گا۔

اہم ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ اہل توحید کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ ایمان کے باوجود جن لوگوں کا عقیدہ خراب ہو گا یا جن کے اعمال خراب ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے مگر تزکیہ کے لیے۔ جب وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پاکی ہو جائیں گے، تو وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ مگر کفر اور شرک کرنے والے کبھی پاک نہیں ہوں گے لہذا وہ ابدی طور پر جہنم میں ہی رہیں گے۔ ان سب کو ان کی خطاؤں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ اختلاف دو قسم سے ہے

ان میں ایک اصول اور دوسری فرع ہے۔ اصول میں وہ باتیں آتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان اسی طرح لانا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ صحابہ کرامؓ اور سلف اس ایمان کا نمونہ ہیں۔ جو شخص اصولی باتوں میں اختلاف کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر اگر اس کا عقیدہ کافرانہ یا مشرکانہ ہو جائے تو ابدی جہنمی ہو گا۔ اور اگر اہل بدعت اور اہل ہوی کی طرح عقیدے میں گچھ خرابی آگئی ہے تو پھر بھی جہنم میں ایک دفعہ ضرور جانا پڑے گا۔ تاہم بعد میں نکال لیا جائے گا۔ چنانچہ اصولی اختلاف کی مثال فرقہ معتزلہ کی ہے جو روایت الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح قدریہ فرقہ تقدیر کا انکار کر کے گمراہ ہو گیا۔ روافض نے بھی بعض بنیادی اصولوں کا انکار کیا ہے لہذا یہ لوگ اہل بدعت اور اہل ہوی میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی اختلاف سے فرقے معرض وجود میں آتے ہیں جن کی مذمت اس آیت کریمہ میں کی گئی ہے۔ جب فروعیات کا اختلاف شدت اختیار کر جاتا ہے تو تباہی و بربادی لاتا ہے، جیسا کہ تاتاریوں کے زمانہ میں حنفیوں اور شافعیوں کا شدید اختلاف تھا جو کہ مومن اور کافر کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اس باہمی اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا اور مسلمان تباہ و برباد ہو گئے۔

البتہ فروع کا اختلاف قابل برداشت ہے اور اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اعمال میں ایک گروہ ایک طریقے پر عمل کرتا ہے اور دوسرا دوسرے طریقے پر تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس قسم کا اختلاف صحابہ کرامؓ، تابعین اور ائمہ دین میں بھی پایا جاتا ہے مگر یہ فروع کا اختلاف ہے۔ ایمان اور یقین لانے والی باتوں میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ فروعیات کے ضمن میں بعض ائمہ ایک چیز کو سنت قرار دیتے ہیں مگر دوسرا ایسا نہیں سمجھتے۔ بعض کسی چیز کو مباح تسلیم کرتے ہیں جب کہ دوسرا ایسا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں ہیں البتہ ان

کو زیادہ طول دینے سے گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی فروعی اختلاف کے اختلاف پر بہت زور دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فروعیات میں اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے۔ البتہ اصول میں اختلاف گمراہی کا باعث ہوگا۔

اختلاف فرغ
کی مثال

فروعی اختلافات کی مثالیں خود حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بھی ملتی ہیں۔ جب غزوہ خندق اختتام پذیر ہوا۔ تو حضور علیہ السلام واپس لوٹے۔ آپ ہتھیار اتارنا چاہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے آپ کیسے ہتھیار اتارتے ہیں، پہلے بنی قریظہ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ وہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی چنانچہ حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کے خلاف اعلان جہاد فرمایا اور حکم دیا لَا يُصَلُّونَ أَحَدَكُمْ الْعَصَى إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ اس حکم کی تعمیل میں تمام مجاہد بنی قریظہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک گمروہ نے کہا کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے لہذا نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ان کا استدلال یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا بنی قریظہ میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ یہاں مدینہ میں کوئی نہ ہے بلکہ فوراً چلے جاؤ اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لہذا نماز ادا کر لینی چاہیے۔ بر خلاف اس کے دوسرے گمروہ کہتا تھا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ نماز بنی قریظہ میں ہی جا کر پڑھتی ہے۔ لہذا راستے میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں گمروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ پھر جب معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ تو حضور علیہ السلام کے الفاظ بخاری شریف میں اس طرح آتے ہیں۔ فَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَبَیْنَهُمْ ان میں سے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ گویا دونوں گمروہ ٹھیک ہیں۔ ہر حال ایسے معاملہ میں اجتہاد کی گنجائش موجود تھی ایک گمروہ نے الفاظ پر عمل کیا۔ اور دوسرے نے مطلب

سمجھنے کی کوشش کی، لہذا دونوں حق پر تھے، حضور نے دونوں کی تصویب فرمائی ہے۔ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ غرضیکہ فروغاً میں اس قسم کے اختلاف کی گنجائش موجود ہے جسے طول دیکر گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔

جو شخص اجتہاد کرنے کا اہل ہو اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا، اِذَا اجْتَهَدَ جِبَّ وَهُوَ اجْتِهَادٌ كَرِهَاتٌ، پھر وہ ٹھیک بات کو پالتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر بھی ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی

اہلیت کے مطابق مسئلہ کے حل میں پوری پوری کوشش کی۔ حدیث شریف میں اس قسم کے اجتہاد کی مثال ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دو صحابی کسی سفر پر گئے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ نماز کا وقت آیا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی۔ مگر نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ پانی میسر آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی جب کہ دوسرے شخص نے پہلی ادا شدہ نماز پر ہی اکتفا کیا۔ جب حضور بنی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے تیمم سے نماز پڑھنے والے آدمی سے فرمایا اَصَبَتْ السُّنَّةُ تَوْنَةَ سُنَّتِ كَوَالِيَا لِعَنِي پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہے، تمہارا فریضہ ادا ہو گیا۔ اور جس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی تھی، اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا لَكَ الْاَجْرُ كَمَوْتَيْنِ تِيرَةٍ لِيَدُوْهُرَا اَجْرٍ هُوَ تَمِيْرِيْ پھلی نماز کے ذریعے فرض کی ادائیگی ہوئی اور دوسری نماز نفل بن گئی، لہذا تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔

فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں انسان کو نماز میں تاخیر کر لینا چاہیے۔ پھر اگر پانی مل جائے تو وضو کر کے ورنہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ بہر حال امام ابوحنیفہ اور دیگر ائمہ کا اختلاف اس قسم کا ہے۔ اس میں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہوتا، لہذا تمام ائمہ مجتہدین کے متعلق یہی اعتقاد ہونا چاہیے، کہ كَلِمَةٌ عَلَى الْهُدَى وَهِيَ سَبُّ هِدَايَةٍ يَهْمُ بِهَا صُرُوْرِيْ هُوَ

ہو گئے، آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ آپ ان سے بیزاری کا اعلان کریں اور فرقہ بندی سے نفرت کا اظہار کریں إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ بیشک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ خود کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ ثُمَّ يُذِيبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر ان کو تباہ دیکھا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے تمام بڑے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کو سزا دے گا۔ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان سے بیزاری کا اظہار ہی کریں کیونکہ تفریق فی الدین ہرگز روا نہیں۔ گزشتہ رکوع میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ مَا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ" یعنی سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہے اسی کا اتباع کرو اور مختلف راستوں پر نہ چلو ورنہ اصل راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا "إِنَّكَ كَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" ۵ "عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (سورۃ لیس) آپ صراطِ مستقیم پر ہیں لوگوں کو اسی راستے کی طرف دعوت دیں اللہ نے یہ بھی فرمایا "لَعَلِّي هُدَىٰ مُسْتَقِيمٍ" آپ سیدھی اور واضح ہدایت پر ہیں خود بھی اسی پر کار بند رہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کریں، فرقہ بندی بُری چیز ہے اس سے بیزاری کا اظہار کریں۔

فرمایا قیامت کو نیکی اور بدی سب سامنے آنے والی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کے متعلق جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ جو شخص اللہ کی عدالت میں نیکی لائے گا تو اس کا قانونِ رحمت یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا اس کو دس گنا اجر ملے گا۔ گویا اس نے ایک نیکی ایک دفعہ نہیں بلکہ دس دفعہ انجام دی، یہ کم از کم اجر ہے بشرطیکہ نیکی شریعت کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق انجام دی گئی ہو پھر علیہ السلام کا فرمان اس کی تائید کرتا ہو، نیت بھی درست ہو۔ اور ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہوئی ہو۔ جو نیکی صحیح طریقے سے نہیں کی گئی وہ قابلِ قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی نیکیاں محض اس

نیکی اور
اس کا اجر

یہ صنائع ہو جاتی ہیں کہ ان کی انجام دہی کا طریقہ اللہ کے رسول اور شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوتا۔ تمام بدعات نیچی کی چیزیں ہوتی ہیں مگر پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقہ کی بجائے اپنی مرضی اور خواہش پر کی جاتی ہیں۔ جب روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں کیا عرج ہے۔ بھائی نیچی وہی ہے جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو خود ساختہ نیچی کوئی نیچی نہیں کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بلاشبہ نیچی بلکہ عبادت ہے۔ مگر یہی دعا جب جنازہ پڑھنے کے متصلاً بعد کی جائے تو فقہاء نے اسے بدعت اور منکرات میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ دعا کرنے کا یہ موقع حضور علیہ السلام اور صحابہ کرامؓ سے ثابت نہیں ہے بلکہ ان کے طریقہ کے خلاف ہے۔ لہذا بدعت ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا جَوَلُوكَ مِيرَے بعد زندہ رہیں گے۔ وہ بہت سا اختلاف دیکھیں گے۔ اُس وقت کے لیے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں فَعَابِكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّنَ کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم رہنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ اور اسے دانٹوں سے مضبوط پکڑ لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے طریقے کو معیار بنا لو اور اس کے مطابق چلو۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کا چھ سال تک کا زمانہ متفق علیہ ہے۔ اس زمانے میں امت کا اختلاف نہیں ہوا لہذا پوری امت کے لیے یہی عرصہ دستور العمل ہے جب بعد میں اختلافات شروع ہو گئے تو پھر یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے۔ تو فرمایا یہی وہ ہوگی جو شرائط پر پوری اُترتی ہو۔

قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا
 كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي
 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا
 شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

ترجمہ: اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، بیشک مجھے ہدایت
 دی ہے میرے پروردگار نے سیدھے راستے کی۔ وہ دین ہے
 مستحکم اور ملت ہے ابراہیم (علیہ السلام) کی جو یک سوتھے
 اور نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے ﴿۱۶۱﴾ آپ کہہ دیجئے
 بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری
 موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے ﴿۱۶۲﴾
 کوئی اُس کا شریک نہیں ہے۔ اور مجھے اسی بات کا
 حکم دیا گیا ہے۔ اور میں سب سے پہلے فرمانبرداری کہنے
 والا ہوں ﴿۱۶۳﴾

ربط آیات

پہلے مشرک اور مشرکین کا رد ہوا، پھر فرقہ بندی کی تردید ہوئی اور نبی اور
 بدی کے حوالے سے جزا اور سزا کا ذکر ہوا۔ اب ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ بیان
 کر کے اُس کی پیروی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی
 تمام طریقوں کو ترک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمیہ کے

طریقے کو صراطِ مستقیم کا لقب دیکر اس کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ گو یا ملت ابراہیمی، اسلام اور دینِ حق ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔

دین اور
شرعیات

اصل بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین کے بنیادی اصولوں میں اتفاق ہے، البتہ مختلف انبیاء کے ادوار میں ہر دور کے تقاضے کے مطابق شرعیات مختلف رہی ہیں۔ سورۃ مائدہ میں گنزر چکا ہے "لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَ مِنْهَا جَاؤُا" ہم نے ہر ایک کے لیے الگ شرعیات اور الگ راستہ مقرر فرمایا ہے۔ شرعیات کا دین کے اصولوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ یہ محض فروعات میں زمانے کے مطابق تغیر پذیر ہوتی ہے۔ کوئی چیز ایک نبی کی شرعیات میں حرام ہوتی ہے تو دوسرے نبی کی شرعیات میں حلال قرار دیدی جاتی ہے۔ بعض اوقات عبادت کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔

کسی شرعیات میں روزے کی کثرت یہی ہے تو کسی شرعیات میں نماز میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلی امتوں میں غنیمت کا مال استعمال کرنا جائز نہیں تھا جب کہ آخری امت کے لیے اسے حلال قرار دیا گیا ہے کسی امت میں دو بہنوں سے بیک وقت نکاح مباح تھا مگر آخری شرعیات میں "اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ" (سورۃ نسا) کے حکم کے تحت حرام قرار دیدیا گیا ہے۔ بہر حال اصول دین یعنی توحید، ایمانیات اخلاقیات وغیرہ تمام امتوں میں یکساں ہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "شَيْءٌ لَّكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّيْ بِهٖ لَوْحًا (الشوری) تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا ہے جو لوحِ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کے لیے مقرر کیا گیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے "مَنْ مَشَى الْاَنْبِيَاءَ اَبْنَاءَ عَلَاتٍ دِينَنَا وَاَحَدٌ هُمْ اَبْنَاءُ كَاكِرٍ وَهٖ عِلَاتِي بَحَايِي" کی طرح ہیں جس طرح علاتی بھائیوں کا باپ ایک اور ماہیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ مگر شرعیاتیں مختلف ہیں۔

ملت بھی اصول و کلیات ہی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت ملتا ہے۔ جس طرح اسلام کا معنی اطاعت اور فرمانبرداری ہے اسی طرح ملت سے بھی کمال دُجے کی فرمانبرداری مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعتِ الہی کے متعلق سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ "اذ قال له ربه اسلم لرب الله تعالى نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا فرمانبردار بن جا" قال اسلمت لرب العالمین تو انہوں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے بسر و چشم حاضر ہوں یعنی میں کمال دُجے کا فرمانبردار ہوں۔ ملتِ ابراہیمی اسی چیز کا نام ہے۔ اور اسی کو اسلام اور صراطِ مستقیم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملتِ ابراہیمی کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان کے علاوہ دنیا کی اکثر قومیں آپ کا احترام کرتی ہیں خواہ ان میں بگاڑ ہی کیوں نہ پیدا ہو چکا ہو۔ مثلاً یہودیت تو رات کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور عیسائیت انجیل کی مسخ شدہ صورت کا نام ہے۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کر کے دین کو بگاڑ دیا اور اصل دین کی بجائے نیا دین کھڑا کر لیا۔ عرب کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مسخ کر کے مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم ایجاد کیں اور پھر ان کو دینِ ابراہیمی کا نام دے دیا۔ مقصد یہ کہ اگرچہ یہ لوگ دینِ ابراہیمی کو بگاڑنے کے مرتکب ہوئے تاہم یہ آپ کا احترام کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی ملت کا ذکر کیا ہے جس پر کلمہ از کم زبانی حد تک تو سب کا ایمان تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ آپ ملتِ ابراہیمی کے ہیں۔ اور یہود و نصاریٰ کا دعویٰ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ملتِ ابراہیمی اللہ کی خالص اطاعت اور توحید کا نام ہے۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کے لقب سے بھی پکارا ہے سورۃ آل عمران میں موجود ہے "ما کان

اِبْرَاهِيْمَ يَهُودِيًّا وَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا
 مُّسْلِمًا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ حنیف مسلمان تھے
 حنیف کا معنی ہے ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا کی طرف لگنے
 والا۔ اہل کتاب اور مشرکین کے متعلق سورۃ بئینہ میں ہے "وَمَا اَمْرًا
 اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ حُنَفَاءُ" ان کو تو یہی
 حکم ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک طرف لگنے
 والے بن جائیں۔

مستحکم دین

اس سورۃ مبارکہ میں ہر قسم کے شرک کا رد آ گیا ہے۔ اعتقادی بھی اور
 عملی بھی۔ گذشتہ آیات میں گنہگار چکا ہے کہ نذر و نیاز میں شرک خدا تعالیٰ کی
 صفات میں شرک ہے۔ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور صابیوں کا رد
 بھی ہو گیا ہے۔ مخلوق میں کسی طرح بھی الوہیت کی صفت ماننے والے مشرک
 ہوتے ہیں، اللہ نے سب کا رد فرمایا ہے۔

اب آخر میں سورۃ کالباب اس طرح بیان فرمایا ہے قُلْ
اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اِنِّیْ هَدٰی رَبِّیْ رِبِّیْ بِشَکِّیْ مجھے ہدایت
 دی ہے۔ میری راہنمائی فرمائی ہے میرے پروردگار نے اِلٰی صِرَاطٍ
مُسْتَقِیْمٍ سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ راستہ کون سا ہے دِیْنًا
قِیْمًا ایک مستحکم دین جس کے اصول بڑے مضبوط ہیں اور جن میں تغیر و تبدل نہیں
 ہو سکتا۔ اسی سورۃ کے چودھویں رکوع میں بھی گنہگار چکا ہے وَتَمَّتْ
کَلِمَةُ رَبِّیْكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا تیرے پروردگار کی باتیں سچائی
 اور انصاف میں پوری ہیں اس کے تمام اصول صحیح ہیں جنہیں کوئی غلط ثابت
 نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی تعصب اور عناد کی بنا پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے
 تو علیحدہ بات ہے۔ یہودی دین ہے جو ملتِ ابراہیمی ہے اور ہر زمانے
 کے لیے کافی ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے۔ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، جنابت کا غسل کرتا ہے، اور ختنہ کرتا ہے، وہ حنیف کہلائیگا۔ یہ سب چیزیں ملت ابراہیمیہ میں پائی جاتی ہیں واصل احنف اُس اونٹ کو کہتے ہیں جس کا پاؤں چلتے وقت اندر یا باہر ایک طرف کو مائل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حنیف سے مراد ایسا شخص ہے جو کفر، شرک اور بدعات کو ترک کر کے ایک اصول اور ایک دین کو ماننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور "شَاكِرًا اِلَّا لِعٰلٰهِ" (المحل) خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شرک سے بیزار اور کھو ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی حکم دیا۔ "حٰنِفًا لِلّٰہِ عَلٰی مَشْرِکِیۡنَ بَہٗ" (الحج) تم سب کے سب حنیف بن جاؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو۔ گذشتہ رکوع میں بھی گذر چکا ہے "وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ" یہی میرا صراط مستقیم ہے جسکی تشریح قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، اسی راستے کا اتباع کرو "وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" اور یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور صنایت کے گمراہی والے راستوں پر مت چلو۔ بدعات اور خواہشات نفسانیہ کے غلط راستوں کو بھی اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس راستے کی طرف میری راہنمائی فرمائی ہے وہ یہی صراط مستقیم اور مستحکم دین ہے۔ "مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا" اور ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف کو لگنے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی یہی ہے "وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِکِیۡنَ" اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بلکہ اللہ کی توحید کے خالص داعی تھے۔

آگے دین ابراہیمی کی بعض اصولی باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اِنِّیْ صَلَٰتِیْ وَنُسُکِیْ بِشَاکِیْرِیْ اِیْمٰنِیْ قَرٰبٰنِیْ نُسُکِیْ کا اطلاق عبادت پر بھی ہوتا ہے اور قربانی پر بھی۔ ناسک عابد کو بھی کہتے ہیں اور نُسُکِ احکام کو بھی کہتے ہیں چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام

نماز اور
قربانی

نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا تھا خُذُوا عَنِّي مَنَا سِكْكُمْ اے لوگو! مجھ سے حج کے احکام خوب سمجھ لو۔ شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو اسی طرح قربانی کے متعلق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا (الحج) ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ ذی الحجہ کی قربانی کے علاوہ دم قرآن کو نسیک کہا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جہاں احصار کی صورت میں قربانی کرنے کا حکم ہے۔ وہاں فرمایا کہ اس وقت تک اپنے سر نہ منڈو اور جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اسے اپنے آپ پر عائد کسی پابندی کو توڑنا پڑے فَقَدْ يَتَّ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تو اس کے بدلے میں قدریے روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ امام ابو بکر جصاصؓ فرماتے ہیں کہ نسک اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے عام قربانی اور دم قرآن بھی تقرب الہی کے لیے ہوتا ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نسک کو عام معنوں میں لیتے ہیں اور آیت کے ٹکڑے کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، میری نماز اور تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں تاہم دیگر مفسرین کرام نسک سے قربانی مراد لیتے ہیں۔ یعنی میری نماز اور میری قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہیں

قربانی کا
وجوب

قربانی بظاہر چھوٹا سا عمل معلوم ہوتا ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بعض چیزیں اپنے اثر کے اعتبار سے بارعب ہوتی ہیں۔ مثلاً نماز کے مقابلے میں اذان ایک چھوٹا سا عمل ہے کیونکہ یہ تو محض ایک اعلان ہے اور نماز تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے مگر اذان کا رعب اور درشتی اس قدر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو چھتیس میل تک دوڑ بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے پیچھے تقرب الی اللہ کے حصول کی نیت اور جذبہ ہوتا ہے لہذا قربانی کرنے والے

میں بڑے کمال کی صفت پیدا ہوتی ہے۔

اکثر ائمہ کرام کے نزدیک قربانی سنت کا درجہ رکھتی ہے جب کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ امام ابو یوسفؒ جصاصؒ امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کی تائید میں اگلی آیت سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں **وَبِذَلِكَ أَهْتَمْتُ** (مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا) میں امر ہے جو کہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پر قربانی کا ذکر بھی ہے لہذا یہ واجب ہے۔ بعض احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا حکم عام صدقہ کا نہیں بلکہ یہ زیادہ ہوگا ہے اور اس میں وجوب کا درجہ پایا جاتا ہے۔ سورۃ کوثر میں بھی آیات **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ** یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔

فرمایا بے شک میری نماز اور میری قربانی **وَحَيَايَ وَمَمَاتِي** اور میری زندگی اور میری موت **رَبِّ الْعَالَمِينَ** سب اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ غرضیکہ اس آیت کریمہ میں چار چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے یعنی نماز، قربانی، زندگی اور موت، زندگی اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے، اس سے ہر چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام پاتا چاہیے۔ اور کوئی کام اس کی رضا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے، وہ ہو جائے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے، وہ نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اس کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اس زمانہ میں تو حالات بالکل الٹ ہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں شیطانی کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہیں اللہ کی خوشنودی کو کون دیکھتا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ

زندگی اور
موت

کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ موت کا بھی یہی حال ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ حکم ہے "فَلَا تَسْمَوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" (البقرة) تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پر قائم ہو۔ مگر آج موت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ باطل مقاصد کے لیے بے شمار قتل ہو رہے ہیں، گویا موت بھی اللہ کی بجائے شیطان کے راستے میں آ رہی ہے۔ امریکہ، روس، جاپان یا ویٹ نام کا جھگڑا ہو، مسئلہ سانی ہو یا نسلی، معاملہ اقتدار کا ہو یا مال کا، ان میں خدا کی خوشنودی کہاں ہے؟ اور اس طرح ضائع ہونے والی ہزاروں جانیں کس کھاتے میں جا رہی ہیں؟ خود اہل اسلام میں فرقہ بندی کی وبا عام ہے اور یہ آپس کی کشیدگی بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ یہ تو نفسانی خواہشات کی خاطر جان مینے والی بات ہے۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف ہونی چاہیے اور جب موت آئے تو وہ بھی اُس کی رضا جوئی کے لیے ہو۔

شرعی اور
تکوینی امور

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مذکورہ چار چیزوں میں سے دو شرعی اور دو تکوینی ہیں۔ نماز اور قربانی کا تعلق شریعت سے ہے اور یہ دونوں امور انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے۔ باقی دو چیزیں زندگی اور موت تکوینی ہیں۔ موت و حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ان میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں۔ دراصل عقیدہ توحید و چیزوں سے مکمل ہوتا ہے یعنی توحید فی العبادت اور توحید فی التصرف۔ مذکورہ بالا دو شرعی امور کا تعلق توحید فی العبادت سے ہے۔ نماز اور قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب اور اس کی خوشنودی کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ جو شخص غیر اللہ کی نماز ادا کرے گا یا غیر اللہ کے تقرب کے لیے قربانی دے گا، وہ مشرک ہو جائے گا اور توحید فی العبادت میں لوہا نہیں اترے گا۔ کیونکہ عبادت بدنی ہو یا مالی، اس میں غیر اللہ کی شرکت کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ باقی دو اشیاء زندگی اور موت تکوینی امور ہیں اور

ان کا تعلق تو حید فی التصرف کے ساتھ ہے موت اور زندگی پر تصرف اور کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ان میں کسی انسان جن، فرشتے یا کسی بھی غیر اللہ کو تصرف حاصل نہیں، غرضیکہ ایمان اور عقیدہ توحید کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا یقین کامل ہو جائے کہ ہر قسم کی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے نزاوار ہے اور کائنات میں تصرف بھی صرف اسی کو حاصل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان چار مذکورہ امور کو دو مختلف صورتوں میں بھی منسلک کیا جاسکتا ہے مثلاً یہ کہ نماز کا تعلق زندگی کے ساتھ۔ انسان جب تک بقید حیات موجود ہے اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ زندگی اور نماز کو اس قدر مربوط ہونا چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات تک انسان کسی وقت بھی نماز سے غافل نہ ہو اور جب وہ آخری سانس لے تو اس کے ذمے کوئی نماز واجب الادا نہ ہو۔ دوسری طرف قربانی اور موت کو اکٹھا کر لیں۔ جانور کی قربانی تقرب الی اللہ کے لیے کی جاتی ہے گویا ایک جانور کی جان کے بدلے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیشہ انسان کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس کی اپنی موت بھی ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو اور قربانی کا یہی مقصد ہے۔ یہ قربانی اور موت کا الحاق بھی ہو گیا۔

دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا یہ و کرم ام دیان ہے جس کی ابتداء انفرادیت سے ہوتی ہے اور اجتماعیت پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ افراد صحیح ہوں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے کر انسان کی انفرادی اصلاح کا بندوبست کر دیا ہے۔ سب سے پہلے انسان نماز اور دیگر عبادات کے ذریعے اور قربانی کر کے اپنی ذاتی اصلاح کا بندوبست کرتا ہے۔ جب اس پر اس کا یقین محکم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اصلاح معاشرہ کی طرف توجہ دیتا ہے۔ اجتماعی اصلاح بھی نماز ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب مسجد میں نماز باجماعت ادا ہوتی ہے تو محدود

انفرادی اور
اجتماعی اصلاح

معاشرہ میں میل ملاپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہر شخص نماز کے ذریعے اصلاح نفس کر لیتا ہے تو پھر وہ آپس میں وسیع تر اصلاح احوال کی بنیاد بنتے ہیں اور اس طرح اجتماعی اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک گاؤں، ایک شہر اور پورے ملک پر بلکہ پورے عالم اسلام کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی عطا کردہ زندگی کو احسن طریقے سے بسر کرے۔ اُسے فکرمند ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فکرمند پیدا ہو جائے تو یہی انسان کی اصل زندگی ہے۔ اور اگر یہ فکرمند نہیں ہوئی تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح موت کے لیے بھی انسان کو ہر وقت فکرمند رہنا چاہیے تاکہ جب بھی اُس کی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے اگر یہ فکرمند پیدا ہو جائے تو انسان ہر لمحہ نیکی کے کام انجام دے گا، فرمانبرداری اور اطاعت گزار کی حالت میں ہے گا اُسے علم نہیں کہ موت کس لمحے واقع ہو جائے گی لہذا وہ نیچے سے کبھی غافل نہیں ہوگا اور بدائی سے ہمیشہ دور رہے گا تو اب لب لباب یہ ہوا کہ میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر انسان میں ان چاروں چیزوں کی حقیقی روح پیدا ہوگی تو وہ انشاء اللہ کامیاب و کامران ہوگا۔

آگے پھر شرک کی تردید فرمائی اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے کہلا لایا لَا شَرِيكَ لَدَّ آپ یہ بھی کہ دیں کہ اس وعدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں، نہ علم میں اور نہ تصرف میں وَلَا يَدْرُسُ اُمْرَتُ اور مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مَنْ تَابَ إِلَيَّ سے امرت کو یہی پیغام کار بند رہوں۔ سورۃ آل عمران میں بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے امرت کو یہی پیغام دیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ابراہیمی کا اتباع اختیار کرو کہ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے۔

اولین
اصولت کتبہ

فرمایا آپ یہ بھی کہ دیں وَإِنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہ میں صرف تمہیں
 ہی اطاعت گزار ہی کی تعلیم نہیں دے رہا۔ بلکہ سب سے پہلے خود اس بات
 کا اعلان کرتا ہوں کہ میں اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوں۔ اہم البوکرہ جہاں
 فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے نبی اللہ کی اطاعت کا اعلان کرتا ہے
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عالم ارواح سے بھی ہے۔ جب
 اللہ تعالیٰ نے جب تمام روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے عہد الست لیا تو اس
 وقت بھی اللہ کی رُبوبیت کا اقرار سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی روح پاک نے کیا تھا۔ حدیث أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي الرَّحْمَةِ
 پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی تاہم مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے اس نور
 سے مراد روح محمدی لیا ہے کہ تمام ارواح میں سب سے پہلے اللہ نے آپ کی
 روح کو پیدا فرمایا۔ اور پھر سب سے پہلے آپ ہی نے اول المسلمین ہونے کا اقرار کیا۔
 اس طرح گویا اس دنیا میں بھی اور عالم ارواح میں بھی حضور کا اولین اطاعت
 گزار ہونا ملتا ہے۔ اسی طرح ہر نبی پہلے خود اطاعت اختیار کرتا ہے اور پھر
 دوسروں کو دعوت دیتا ہے۔

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

ترجمہ :- اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو رب تلاش کروں حالانکہ وہی رب ہے ہر چیز کا۔ اور نہیں کماتا کوئی شخص مگر اسی پر پڑتی ہے اس کی ذمہ داری۔ اور نہیں اٹھائیکا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے شخص کا بوجھ۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے پس وہ تم کو بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے ﴿۱۶۴﴾ اور وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں نائب اور بلند کیا ہے تم میں سے بعض کو بعض پر درجے کے لحاظ سے تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اُس نے تمہیں دی ہے۔ بیشک تیرا

پروردگار جلد سزا دینے والا ہے اور بیشک وہ البتہ بخشش

کرنے والا اور مہربان ہے (۱۶۵)

ربط آیات

اس سورۃ کے آخری حصہ میں مشرکین کا ردّ آ رہا ہے چنانچہ گذشتہ آیت میں توحید الوہیت کا ذکر تھا "لَا شَرِيكَ لَكَ" اس کا کوئی شریک نہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے توحید ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ منحصر ہے اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس سے مدد طلب کی جائے "رَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ" ہمارا رب وہی ہے جس سے مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات میں استعانت طلب کی جائے۔ سورۃ فاتحہ میں ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر ہے "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" یہ بات ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ عبادت صرف خدا تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جس سے مافوق الاسباب استعانت طلب کی جائے آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔

مشرکین کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ دین اسلام پھیلنے نہ پائے چنانچہ وہ نہ خود دین کی بات سنتے تھے اور نہ دوسروں کو مسلمانوں کے قریب آنے دیتے تھے اور اس ضمن میں طرح طرح کے تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ عنکبوت میں اس کی ایک مثال یہ ہے "وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا" کافر لوگ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہمارے راستے کو اختیار کر لو "وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ" ہم تمہارا بوجھ اٹھالیں گے۔ یعنی ہمارا دین قبول کرنے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی یا تمہارا کوئی نقصان ہوگا تو اس کا ذمہ ہم لیں گے اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں مشرکین کی اس قسم کی لغو باتوں کا ردّ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "فَلْ

ربوبیت کا تصور

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے اخْتَارَ اللَّهُ الْبَغِيَّ رَبًّا کیا میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب تلاش کروں، العیاذ باللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میں دیکھتا چھروں کہ ربوبیت کی صفت کس میں پائی جاتی ہے تاکہ اپنی حاجات اُس کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا رب تو اللہ تعالیٰ ہے وہی خالق ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے ربوبیت کا معنی کسی چیز کو بدرجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ کسی چیز کی تخلیق کے بعد اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفتِ ربوبیت ہی کام کرتی ہے اور اُس کے سوا یہ صفت کسی دوسری ذات میں نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ جب یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی تو پھر اُس کے سوا مدد بھی کسی سے نہیں طلب کی جاسکتی۔ مستعان بھی وہی ہے۔ گویا توحید میں صفتِ ربوبیت کا ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اُس کے علاوہ مستحقِ عبادت کوئی نہیں اسی طرح ربوبیت کا مالک بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ کائنات میں اللہ کی ربوبیت سے باہر کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ربوبیتِ تامہ کے ساتھ ہی اپنے کمال تک پہنچ رہی ہے۔ یہ تو مشرکین کا رد ہو گیا۔

بوجھ اپنا اپنا

کفار کی دوسری دعوت اہل ایمان کے لیے یہ تھی کہ ہمارے راستے پر آ جاؤ، اگر کوئی بوجھ ہوگا تو ہم برداشت کر لیں گے۔ اس حماقت کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا کوئی انسان جو کچھ کماتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر پڑتی ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے فعل کا ذمہ دار ہے اور وہی اُس کا بوجھ اٹھائے گا۔ ملتِ برہمی کا یہ ایک عام قانون ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا وزیر کا معنی بوجھ اور وزیر کا معنی کٹاہ ہوتا ہے۔ یہ پناہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وزیر بھی اسی لفظ سے مشتق ہے اور اسکی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ امورِ سلطنت میں وزیر بادشاہ

کی جائے پناہ ہوتا ہے ضرورت کے وقت بادشاہ اسی کی پناہ لیتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ غرضیکہ ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ دوسرے مقام پر موجود ہے کہ ہر نفس اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا بوجھ بھی اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا اور حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں انسانوں، جانوروں حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں تک کا ذکر کیا ہے۔ اگر کسی نے کسی دوسرے بھائی کی زمین غصب کی ہے تو وہ ٹکڑا اراضی بھی اس کے گلے کا طوق بن جائے گا جسے وہ گھسیٹتا ہوا میدان محشر میں لائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا جانور چوری کیا ہے تو اسے بھی اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اس کے ہر عمل کا محاسبہ خود اسی کی ذات سے ہوگا، اس معاملہ کی کسی دوسرے سے باز پرس نہیں ہوگی فرمایا یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ جُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (المحل) اس دن ہر شخص کو خود ہی جواب دینا پڑے گا، کوئی دوسرا اسکی طرف سے جواب دہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ گناہ کوئی کرے اور اس کا بوجھ کسی دوسرے پر پڑ جائے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا تھا۔ "وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى هَٰذَا تَنْزِيلُ مِزْرَةَ وَذُرَّ آخِرَىٰ هَٰ وَآنُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ" (النجم)

کیا انہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات نہیں پہنچی کہ کوئی اٹھانے والے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیز یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کا رد فرمایا جو وہ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ ہمارا دین قبول کر لو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھالیں گے

عیسائیوں نے کفارے کا غلط عقیدہ وضع کر رکھا ہے کہ جو غلطی آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی تھی اس کا خمیازہ اس کی ساری اولاد کو بھگتنا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر لٹک کر تمام بنی نوع انسان کی طرف سے اس

کفارے کا
غلط عقیدہ

کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب جو شخص اس عقیدے کو تسلیم کر لے گا اُسے نجات مل جائیگی
ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ آیت زیر درس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے
کہ جو کچھ کوئی شخص کما تا ہے اُس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے اور کوئی شخص کسی
دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر عیسائیوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی
کی ذمہ داری ساری اولاد پر ڈال دی اور پھر سب کی طرف سے ایک آدمی نے
کفارہ ادا کر کے سب کو چھڑا لیا۔ یہ بالکل باطل عقیدہ ہے جس کی کوئی حقیقت
نہیں یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ”کرے
کوئی اور بھرے کوئی“ والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عقیدوں کا
رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ثُمَّ اِلٰی رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ پھر تم سب کا تمہارے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے
ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے فَبَيْنَكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے
تھے وہ سب تمہارے سامنے کر دے گا۔ وہاں پہر چیز لکھ کر سامنے آجائیں گی
اور صحیح اور غلط میں امتیاز ہو جائے گا۔ اس دنیا میں حق و باطل اگرچہ آج بھی
واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ ”البقیۃ) اس کے باوجود لوگوں نے بعض چیزوں کو غلط طوط
کر دیا ہے۔ مگر قیامت والے دن کسی چیز میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اور
ہر چیز کھل کر سامنے آجائے گی۔ جن باتوں میں لوگ جھگڑا کرتے تھے وہ سب
کی سب اصلی شکل و صورت میں سامنے آجائیں گے۔ بہر حال یہاں پر شرک
کار ہو گیا۔ توحید اور ہدایت کی بات آگئی۔ ہر انسان کے اعمال کی ذمہ داری
کا تعین ہو گیا۔ کوئی دوسرے کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور تمام متنازعہ امور کا قطعی
اور اٹل فیصلہ ہو جائے گا اور پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کی سزا یا جزا ملیگی۔

کا بھی ذکر فرمایا ہے **وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ** خدا کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ خلافت خلافت عامہ بھی ہے اور خلافت خاصہ بھی۔ آج کل لوگ اللہ کی یہ نعمت پاکر بھی دزدانانہ پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نیابت کا حق ادا کرنے کی بجائے اس کی بغاوت پر آمادہ ہیں، اس کے سامنے سرنیا نہ خم کرنے کی بجائے کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے لوگوں کی جگہ پر کھڑا کیا ہے۔ پھر ان کو بھی لے جائے گا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ بعض لوگ بعض لوگوں کے نائب بنتے ہیں ایک نسل چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسری نسل آجاتی ہے۔ کسی شخص یا قوم کو دوام حاصل نہیں۔ یہ سب معاملات عارضی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے اور اس دنیا میں خلافت پر متمکن ہو کر غرور و تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

خلافت ارضی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کو اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں آتا ہے "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ **رَافِئًا جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً**" چنانچہ سب آدم علیہ السلام کو خلافت حاصل ہوئی اور پھر آپ کی وساطت سے یہ ذمہ داری تمام اولادِ آدم کے کندھوں پر ڈالی گئی۔ ظاہر ہے کہ خلیفہ اصل حاکم کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتا ہے اور ان کے مطابق عمل کرتا ہے اگر کوئی نائب اپنے حاکم اعلیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ باغی اور سرکش سمجھا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تو اس کا فرض ہے کہ نیابت کا حق ٹھیک طور پر ادا کرے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بعض اختیارات دے کر زمین میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میرے قانون پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں سے بھی کرو، لہذا اب یہ انسان کا فرض ہے کہ وہ خلافت ارضی کی ذمہ داری

پوری کرے۔

انسان کے حق میں اپنی خلافت کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے وَدَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجیت تم میں سے بعض کو درجے کے اعتبار سے بعض پر فوقیت بخشی ہے بعض کمزور ہیں اور بعض طاقتور۔ بعض لوگوں کو علم کے لحاظ سے دوسروں پر فوقیت حاصل ہے اور بعض مال و دولت میں فوقیت رکھتے ہیں۔ بعض خاندانی تفوق کے حامل ہوتے ہیں اور بعض مرتبے کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صلاحیت علیحدہ علیحدہ رکھی ہے اور اس سے مقصود

یہ ہے لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ مثال کے طور پر امیر اور غریب میں تفریق پیدا کی اور امیر کو مال سے کمرہ ساتھ حکم بھی دیا کہ غریب کا خیال بھی رکھنا مگر اکثر امراء یہاں آکر آزمائش میں پورے نہیں اترتے۔ مال و دولت کے گھمنڈ میں آکر غریب کی مدد کرنے کی بجائے اس پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں اور اس طرح امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کسی شخص کو جسمانی قوت عطا کر کے کمزور آدمی کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ اگر وہ کمزور کی حد سے گائے گا تو کامیاب ہوگا اور اگر کمزور کو مزید دبانے کی کوشش کرے گا تو آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ افسرانِ بالا کے لیے ان کے ماتحت ملازمین آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ اگر کوئی اپنے زیر دستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ان کا حق پورا پورا ادا نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نیابت کا حق ادا نہیں کر سکا۔

عالم ارواح والی حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے تمام ارواح کو دیکھا تو ان میں تفاوت پا کر عرض کیا رَبِّ لَوْلَا سَوَّيْتْ بَيْنَ عِبَادِكَ لَسَ بَدْرٌ دَرَكَارٌ لَتَوْنِي اِنِّي بَنَدُولٌ فِي

فوقیت اور
آزمائش

مساوات کو کیوں نہیں قائم کیا، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر میں سب مخلوق کو برابر کر دیتا تو کوئی بھی میرا احسان مند نہ ہوتا اور نہ میرا شکر ادا کرتا۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں ڈالتا ہے اور بعض کی دوسروں کو ماتحت بنانے میں ابتلا ہوتی ہے تاکہ عدل و انصاف کے قیام کا پتہ چل جائے۔ اصل مساوات کا حکم عدل و انصاف میں ہی دیا گیا ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ (المحل) اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ ہر معاملے میں مساوات کی بات کہتے ہیں ان کا نظریہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے خود فرق رکھا ہے کہیں مال و دولت کے لحاظ سے فرق ہے تو کہیں جسمانی قوی کے لحاظ سے کہیں علم و فضل اور عقل و دانش کے لحاظ سے فرق ہے۔ لہذا مساوات کا مطالبہ غیر فطری ہے بعض لوگ عورت اور مرد کی مساوات کے قائل ہیں حالانکہ اللہ نے ان کی تخلیق اور ان کے اعضاء میں بہت فرق رکھا ہے مرد و زن کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جسے قائم رہنا چاہیے۔ ہاں عدل و انصاف کے معاملہ میں ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے، کسی کا حق غصب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔

شکل و صورت اور اعضاء و قوی کے علاوہ اللہ نے فرمایا ”إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ“ (البیل) تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ کوئی اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے اور کوئی برائی کے لیے۔ ابتلا تو اسی چیز کا نام ہے کہ دیکھیں خدا کی نیابت کا حق کون ادا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ”وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً“ (الانبیاء) ہم خیر و شر دونوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ کون صحیح راستہ پکڑتا ہے۔ اور کون ہے جو غلط راستے پر چلتا ہے۔ توحید خالص کون اختیار کرتا ہے اور کفر و شرک

میں کون مبتلا ہوتا ہے۔ بدعات کو کون رواج دیتا ہے اور منافقت کی طرف کون جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان کو آزمائش میں ڈالے۔ فرمایا یاد رکھو! إِنَّ رَبَّكَ سَعِيدٌ عَلِيمٌ۔ بیشک تیرا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ سزا دینے پر آتا ہے تو سب کچھ آنا فانا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشش کرنے والا اور مہربان بھی ہے۔ وہ انسان کو مہلت بھی دیتا ہے۔ جب انسان سزا کشتی کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو وہ معاف کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اس کی سابقہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے بلکہ اسے اپنی رحمت کے خزانوں سے بھی نوازتا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء الْحَمْدُ لِلَّهِ سے ہوئی تھی اور غَفُورٌ رَّحِيمٌ پر ختم ہوئی ہے۔ اس عظیم سورۃ کے متعلق حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ یہ مِنَ الْجَنَابِ الْقُرْآنِ یعنی قرآن پاک کی عمدہ سورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور ملتِ ابراہیمی کے صحیح طریقہ کو بیان فرمایا ہے اور شرک کی تمام اقسام کا رد فرمایا ہے۔ ابتداء سورۃ بقرہ میں یہود کو خطاب کر کے ان کی چالیس غلطیوں کی نشاندہی کی گئی اور ان کی اصلاح کا پرہیز و گمراہی بیان کیا گیا۔ پھر اگلی سورۃ آل عمران میں اللہ نے نصاریٰ کو خطاب کیا اور اس ضمن میں ۸۳ آیات نازل فرمائیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں عیسائیوں کے باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے اور خاص طور پر ان کے عقیدہ اہلیت کا تعاقب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی دو سورتوں یعنی سورۃ نساء اور ماڈہ میں مشرکین عرب کے شرک اور رسوماتِ باطلہ کو موضوعِ سخن بنا کر ان کا رد کیا گیا ہے۔ اور دین کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔

موجودہ سورۃ النعام جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ سے ابتداء کر کے مجموعی طبقے کا رد کیا گیا ہے۔ مجموعی اور صابی قوموں کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی ہے اور ہر طرح کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقائد اور افعال

مختلف سورتوں میں ربط

میں مشرک پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ خاص طور پر بند العیبر اللہ اور نذر الخیر اللہ سے منع فرمایا ہے۔ غرضیکہ ان سورتوں میں مختلف اقوام اور مذاہب کے نظریات کو سامنے رکھ کر ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اس سورۃ کے نزول کے متعلق طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ بعض آیات کو چھوڑ کر ساری کی ساری سورۃ بیک وقت نازل ہوئی۔ مشترک حاکم میں ہے کہ اس سورۃ کے نزول کے وقت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے، جن سے زمین و آسمان کی درمیانی فضا بھر گئی۔ فرشتے تسبیح و تحمید کرتے ہوئے آ رہے تھے حضور علیہ السلام نے یہ سورۃ ایک ہی وقت میں صحابہؓ کو پڑھ کر سنائی جسے انہوں نے اپنے سینوں میں ضبط کر لیا۔

اکلی سورۃ اعراف میں تمام اقوام عالم کو مشترکہ طور پر خطاب ہے اور تمام انبیاء کے مشترکہ دین کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورتوں میں مزید پیش رفت ہوگی۔

والحمد لله اولاً و آخراً و صلی
 الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد
 و آلہ و اصحابہ و ازواجہ امہات
 المؤمنین و اتباع اجمعین
 برحمتک یا ارحم الراحمین

عمرہ پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

احکام عمرہ

مع

زیارات مکة المكرمة و مدينة المنورة

مرتب

مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

مدرس مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ

اس رسالہ میں عمرہ کی تعریف، فضیلت، طریقہ، احکام و مسائل اور بہت سی اہم چیزوں کا نہایت اختصار کے ساتھ قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجودہ زیارات کا محل وقوع اور ان کا تاریخی پس منظر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ طواف و سعی کا طریقہ نقشوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ روضہ اطہر، جنت البقیع، ریاض الجنۃ کا نقشہ اور بعض دیگر اہم مقامات کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے۔ ۹۶ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ صرف ۱۵ روپے میں دستیاب ہے۔

ملنے کا پتہ: مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

خطبات شیخ الاسلام

از: شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ
مرتب و مقدمہ: حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی بانی مدرسہ نضر العلوم گوجر نوالہ
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے یہ خطبات بڑی اہمیت
رکھتے ہیں۔ اپنے موضوعِ احوال و سیاست کے اعتبار سے اور علما حق کی فیصلہ کن
جدوجہد کے اعتبار سے بھی ان خطبات کی بڑی اہمیت ہے افسوس کہ اب تک یہ
یکجا نہیں تھے جمعیتہ علماء ہند کی کارگزاریوں کے مد نظر بعض محترم ہستیوں نے
ان میں سے بعض خطبات کو اکٹھا کیا ہے لیکن تمام خطبات اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے
جس طرح ہونے چاہئیں تھے۔ احقر کی بڑی خواہش تھی کہ جس طرح دوسرا کار کے خطبات
یکجا مل جاتے ہیں حضرت مدنی کے یہ اہم ترین خطبات بھی اگر ایک جگہ جمع ہوتے
تو اچھا تھا۔ ان سے بھی عام لوگ استفادہ کرتے ایک دفعہ احقر نے شیخ الاسلام
حضرت مدنی کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا سعد مدنی مدظلہ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ
اگر آپ یہ کام کرادیں تو اچھا ہوگا لیکن شاید کہ صاحبزادہ صاحب مدظلہ کی توجہ اس طرف
مبذول نہ ہو سکی۔ بالآخر بعض احباب کے اصرار پر احقر کو ہی یہ کام کرنا پڑا۔ بعض
احباب نے حضرت مدنی کے جتنے خطبات دستیاب ہو سکے لا کر دیئے اور کچھ
خطبات احقر کے پاس بھی تھے وہ کتابت کے لیے دے دیئے۔ سمرقند سے یہ
گیارہ خطبات میسر ہو سکے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: (۱) خطبہ سیوارہ،
(۲) خطبہ رنگپور بنگال، (۳) خطبہ دہلی، (۴) کوکناڈا، (۵) علی گڑھ، (۶) جونپور، (۷) لاہور،
(۸) سہارنپور، (۹) بمبئی، (۱۰) حیدرآباد دکن، (۱۱) سورت۔ (ماخوذ مقدمہ خطبات)

سائز ۱۸x۲۳، ضخامت ۵۰۰ صفحات، کاغذ اعلیٰ، جلد مضبوط، قیمت ۸۰ روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ دوس القرآن فاروق گنج گوجر نوالہ

مولانا عبد اللہ سندھی کے علوم و افکار

از: حضرت مولانا صوفی عبد الحمید سواتی، بانی مدرسہ نصرۃ العلوم و خطیب جامع مسجد نور، گوجرانوالہ

بڑھنے کے نامور عالم دین، انتہائی ذہین، فہم مستقیم، فہم نایاب، فطانت و سمجھ میں قوت قدسیہ کے مالک قرآن کریم کے دور حاضر میں بے بدل مفسر، حدیث کی مشکلات پر کما حقہ نگاہ رکھنے والے، فقہ اور دیگر علوم فنون عقلیات و نقلیات میں کمال درجہ کی مہارت تامہ رکھنے والے اقتصادیات

معاشیات، تاریخ اور قدیم و جدید فلسفہ کے امام، سیاسیات و پولیٹیکل معاملات سے کما حقہ باخبر و دقیق سے دقیق مشکل کو اپنے عمل و تدبیر سے حل کرنے والے، اُلجھی ہوئی گفتھیوں کو سلجھانے والے عظیم صوفی باعمل عالم، قرآنی انقلاب کی روح سے منور، شیطانی اور تمام خود ساختہ نظاموں کو درہم برہم کرنے والے، راسخ العقیدہ، پُر جوش نو مسلم، مرتبی علماء و محسن انسانیت، معلم قرآن، فلسفہ ولی اللہی کے ماہر استاذ اور صحیح اسلامی انقلاب کے علمبردار، سلف صالحین بالخصوص امام ابو حنیفہؒ کے مکتب فکر کے عظیم ترجمان، علمائے دیوبند کے تربیت یافتہ، انتہائی درجہ کے متقی پرہیزگار، خدا پرست عالم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جن کی آپنوں نے ناقدری کی اور بیگانوں نے کبھی تو الحاد و اشترکیت کا اتہام، کبھی تشدد و عصیبت کا الزام لگایا اور کبھی تجدد و مغربیت کی طرف نسبت کی۔

مولانا کی طرف منسوب غلط باتیں، افکار و خیالات میں انکی غلط ترجمانی، تعصب کی وجہ سے مولانا کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش، تلامذہ و معاصرین کی مولانا کے صحیح افکار پیش کرنے میں کوتاہی اور دیگر غلط فہمیوں کے ازالہ کے ساتھ ساتھ اس مختصر کتاب سے مولانا کی شخصیت، انکے مقام اور کام کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں مولانا کا پورا ذہنی پس منظر اعتقادات، اعمال، تعلیم و تربیت، خاندانی حالات، راسخ العقیدہ بزرگوں سے تربیت پانے اور سلاسل طیبہ میں بیعت اور اشتغالات، آزادی ملک و وطن کیلئے بے پناہ قربانیوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے، انگریز کی جبروں کو بڑھنے سے اکھاڑنے، مسلمانوں کو ان کے اصل مقام کی طرف لانے، علماء کو ان کا صحیح مقام دلانے کے سلسلہ میں مولانا کی کوششوں کا اجمالاً یا تفصیلاً خاکہ آپ کو زیر نظر کتاب میں ملے گا۔ جو پڑھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ قیمت - ۵۱/-

ملنے کا پتہ: مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

نمازِ مسنون^{کلاں}

تالیف

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی

دامت برکاتہم

نمازِ مسنون خورد کے بعد نمازِ مسنون کلاں ایک ایسی مفید اور نماز کے موضوع پر جامع کتاب ہے جو نماز کے تمام ضروری مسائل مع قوی دلائل از کتاب و سنت، احادیث صحیحہ، تعامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین عظام رحمہم اللہ تعالیٰ اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط اقوال سے مزین ہے۔ جس میں لہارت، اذان، اوقاتِ نماز، فرائض، سنن و مستحبات، مکروہات و منسکات کا پورا بیان ہے۔ ارکان، واجبات و سنن کی پوری حکمت اور ضروری مباحث درج ہیں۔ جمعہ و عیدین، نماز جنازہ اور نوافل وغیرہ کے جملہ اہم مباحث اور اس کے ساتھ ذکر و دعوت اور خطبات کا ایک بہترین نصاب درج ہے۔

ام قلدین کے علاوہ علماء کرام، اساتذہ عظام اور خصوصاً طلباء علم دین کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے جس کا انداز بیان اور زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہے۔

محمد کافز، بہترین کتابت و طباعت، معیاری جلد بندی، قیمت ۱۰/۱۰ روپے

ناشر:

مکتبہ درس القرآن
فاروق گنج گوہر الزوالہ

مقالاتِ سواتی

افادات - حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی مدظلہ العالی

مرتب - حاجی محمد فیاض خان سواتی مدرس مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ

اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل اکتیس علمی و تحقیقی مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے۔

- (۱) توحید کے چند دلائل (۲) اللہ رب العزت کی زیارت کیسے ہوگی (۳) رسول ﷺ کی شریعت کے مقاصد (۴) خواب میں رسول ﷺ کی زیارت (۵) مقام صحابہ رضی اللہ عنہم (۶) حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چند وصیتیں (۷) حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ (۸) حصول علم کے لئے ضروری آداب (۹) علم اور اہل علم کا مرتبہ (۱۰) علم کہ راہ بحق نماید جہل ست (۱۱) دارالعلوم دیوبند (۱۲) اسلام کا نظام طہارت (۱۳) اسلام کا قانون حدود و تعزیرات (۱۴) انسانیت کی تکمیل کے لئے اخلاق اربعہ کی اہمیت (۱۵) انسانیت کے چار بنیادی اخلاق (اخلاق اربعہ) (۱۶) تمدن میں بگاڑ کے اسباب اور ان کا علاج (۱۷) فرقہ ناجیہ اور نوابت میں فرق (۱۸) مودودی صاحب کے بعض نظریات دین کے لئے نقصان دہ ہیں (۱۹) فتنے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کا علاج (۲۰) بحالت صوم انجکشن کا حکم (۲۱) اسلام میں حلال و حرام کا تشریحی فلسفہ (۲۲) ملت حنیفیہ کی حقیقت (۲۳) مسئلہ توسل پر ایک نظر (۲۴) کائنات میں جانداروں کی تخلیق (۲۵) حکمت ولی اللہی کے شارحین (۲۶) شہروں کی آبادی اور بربادی کے اسباب (۲۷) تحقیق وحدت الوجود اور وحدت الشہود (۲۸) وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تطبیق (۲۹) مسئلہ وحدت الوجود میں راہ اعتدال (۳۰) اکابر علماء دیوبند اور مسئلہ وحدت الوجود (۳۱) باب الرویا (۳۰۰ صفحات پر مشتمل یہ

کتاب چھپ چکی ہے۔ قیمت ۹۰/- روپے

ملنے کا پتہ: مکتبہ درس القرآن فاروق گنج گوجرانوالہ

معالم العرفان دروس القرآن

المادات

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب

ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب

مرتب

الحاج لعل دین صاحب (ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ)

زیر انتظام

انجمن مجبان اشاعت قرآن

صدر انجمن

شیخ محمد یعقوب عاجز

پرنٹل سیکرٹری

بابو غلام حیدر صاحب

خزانہ

محمود انور بٹ ایڈووکیٹ

ناظم مکتبہ (پبلسٹر)

محمد منیر صاحب Ph: 4221943

مکتبہ دروس القرآن، گوجرانوالہ